

اِشَارِيَه

مِعْجَزَاتِ الْقُرْآنِ

زیرنگرائی

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ

مترتبہ

مولانا مشتاق احمد چنیوٹی صاحب



مکتبہ معجزات القرآن کلکتہ

باہتمام : سید جمیل اشرف  
طبع جدید : ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ - اپریل ۲۰۰۸ء  
مطبع : شمس پرنٹنگ پریس کراچی  
ناشر : مکتبہ معارف القرآن کراچی  
فون : 5031565 - 5031566  
ای میل : i\_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

✽ مکتبہ معارف القرآن کراچی

فون: 5031565 - 5031566

✽ ادارۃ المعارف کراچی

فون: 5049733 - 5032020

## آئینہ

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
					(آ)
۳۰	اصحاب کہف	۲۴	إخلاص	۱۵	آخرت
۳۰	إصلاح	۲۵	سورة إخلاص	۱۶	آداب
۳۰	إطاعت	۲۵	اخلاق	۱۶	حضرت آدم علیہ السلام
۳۱	اعتدال	۲۵	حضرت ادريس علیہ السلام	۱۷	آزر
۳۱	اعتكاف	۲۵	إرتداد	۱۷	آسمان
۳۱	أعراف	۲۶	أرض مقدسه	۱۸	حضرت آسۃؓ
۳۱	سورة الاعلیٰ	۲۶	إرم	۱۸	سورة آل عمران
۳۱	أعمال	۲۶	أزلام	۱۸	آیت الکرسی
۳۳	إتک	۲۶	أزواج مطہراتؓ	۱۹	آیات
۳۳	إکراه	۲۶	إستدراج		(الف)
۳۳	أکل وشرب	۲۶	إستغفار	۱۹	حضرت ابراهيم علیہ السلام
۳۳	إلحاد	۲۷	إستقامت	۲۰	سورة ابراهيم
۳۳	ألقاب	۲۸	إستیزان	۲۰	ابولہب
۳۵	انذہ جل شانہ	۲۸	حضرت بلخ علیہ السلام	۲۰	ابلیس
۳۴	حضرت الیاس علیہ السلام	۲۸	اسرائیل	۲۱	حضرت ابوبکر صدیق
۳۴	أمانت	۲۸	إسرائیلیات	۲۱	امام ابوحنیفہؒ
۳۳	أمت	۲۸	اسلام	۲۱	اتفاق واتحاد
۳۳	أمت محمدیہ	۲۹	حضرت اسماعیل علیہ السلام	۲۲	اجتہاد
۳۳	أمثال	۲۹	اسمائے حسنیٰ	۲۲	إجماع
۳۵	امر بالمعروف ونہی عن المنکر	۲۹	أشہر حرام	۲۲	غزوة أحد
۳۶	أم ولد	۲۹	أصحاب اخذود	۲۲	إحرام
۳۶	انبیاء کرام علیہ السلام	۳۰	أصحاب الایکہ	۲۳	غزوة احزاب
۳۹	سورة الانبیاء	۳۰	أصحاب حجر	۲۳	احسان
۳۹	إنجیل	۳۰	أصحاب الرس	۲۳	أحكام
۳۹	إنذار	۳۰	أصحاب رقیم	۲۳	اختلاف
۳۹	انسان	۳۰	أصحاب الفیل	۲۳	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۶۷	تعلیم و تربیت	۵۹	۷	۵۱	سورہ انشقاق
۶۷	تعوذ	۵۹	برکت	۵۱	انصاف
۶۷	تفسیر	۶۰	برزخ	۵۲	انطوائیہ
۶۸	تقدیر	۶۰	بسم اللہ الرحمن الرحیم	۵۲	انعام
۶۸	تفہیم اسلامی	۶۰	سورۃ البقرۃ	۵۲	سورۃ الانعام
۶۸	تقلید	۶۰	یلعلم باعور	۵۲	انفاق فی سبیل اللہ
۶۹	تقویٰ	۶۰	یقین	۵۳	انفال
۷۰	شور	۶۰	بلوغت	۵۳	آواب
۷۰	(سورۃ) نکاح	۶۰	بنی اسرائیل	۵۳	اولاد
۷۰	توبہ	۶۲	سورۃ بنی اسرائیل	۵۳	اولوالالباب
۷۱	سورۃ توبہ	۶۲	غزوہ بنی قریظہ	۵۳	اولوالامر
۷۱	توحید	۶۲	غزوہ بنی نضیر	۵۳	اولیاء اللہ
۷۲	تورات	۶۲	بیمتہ الانعام	۵۳	اولئین و آخرین
۷۳	تورہ	۶۲	بیت اللہ	۵۳	اہل بیت
۷۳	توفیٰ	۶۲	بیت العمور	۵۳	اہل الذکر
۷۳	توکل	۶۲	بیت المقدس	۵۳	اہل کتاب
۷۴	تہجد	۶۳	بیعت	۵۶	ایام اللہ
۷۴	تیمم	۶۳	بیعت رضوان	۵۶	ایصال ثواب
۷۴	سورۃ التین	۶۳	بیوی	۵۶	ایلاء
۷۴	شمس	۶۳	پرندے	۵۶	ایمان
	(ج، ج، ج)		(ت، ت، ت)	۵۷	حضرت ایوب علیہ السلام
۷۵	سورۃ جاثیہ	۶۳	تبع		(ب، پ)
۷۵	جادو	۶۳	(غزوہ) تبوک	۵۸	بارش
۷۵	جالوت	۶۳	تثلیث	۵۸	باطل
۷۵	جانور	۶۳	تحریف	۵۸	بائبل
۷۵	حضرت جبرائیل علیہ السلام	۶۳	تحقیقات	۵۸	بحر
۷۶	جزیرہ	۶۵	تحلیق	۵۹	بحیرہ
۷۶	جعفر طیار	۶۵	تزکیہ نفس	۵۹	بخل
۷۶	جمعة المبارک	۶۶	تسبیح و تہلیل	۵۹	غزوہ بدر
۷۶	سورۃ جن	۶۷	تصویر سازی	۵۹	بدعت
۷۶	جنات	۶۷	تعد و ازدواج	۵۹	سورۃ برات

صفحه نمبر	عنوانات	صفحه نمبر	عنوانات	صفحه نمبر	عنوانات
۹۶	سورة الدخان	۸۹	غزوة حنین	۷۷	جنت
۹۶	دریا	۸۹	حوا علیہا السلام	۷۸	جودی
۹۶	دُعا	۸۹	حوا ميم	۷۸	جہاد
۹۷	دعوت و تبلیغ	۸۹	حیات طیبہ	۸۰	جہالت
۹۷	دل	۹۰	حیلہ	۸۰	جہنم
۹۷	دعوی	۹۰	حیض	۸۱	جھوت
۹۷	دُنیا		(خ)	۸۱	چاند
۹۹	دُوا	۹۰	خاند		(ح)
۹۹	دوستی	۹۰	خبر	۸۲	حای
۹۹	دیت	۹۰	خبیث	۸۲	حج
۹۹	دین	۹۱	ختم نبوت	۸۲	سورة حج
	(ز)	۹۱	خشوع و خضوع	۸۲	حجاب
۱۰۱	ذبیحہ	۹۱	حضرت خضر علیہ السلام	۸۲	حدیبیہ
۱۰۱	ذکر	۹۱	خطبہ	۸۲	حدیث
۱۰۲	ذمی	۹۱	خط نویسی	۸۲	حدود
۱۰۲	ذوالحجہ	۹۱	خلافت	۸۳	سورة حدید
۱۰۲	حضرت ذوالقرنین	۹۲	خلع	۸۳	حروف مقطعات
۱۰۲	حضرت ذوالکفل علیہ السلام	۹۲	خلق	۸۳	حرم
	(ر)	۹۲	خر	۸۳	حضرت حزقیل علیہ السلام
۱۰۳	زبت	۹۲	خواب	۸۳	سد
۱۰۳	زبا	۹۳	خواہشات	۸۳	سورة حشر
۱۰۳	رحمت	۹۳	خودکشی	۸۳	حق
۱۰۳	سورة الرحمن	۹۳	خوف خدا	۸۳	حقوق
۱۰۳	رزق	۹۳	(غزوة) خندق	۸۵	حق گوئی
۱۰۳	رسم و رواج	۹۳	(غزوة) خیبر	۸۶	علم
۱۰۳	رشوت		خیبر	۸۶	حکام
۱۰۳	رضاعت	۹۵	(و)	۸۶	حکمت
۱۰۳	زقیم	۹۵	دابۃ الارض	۸۶	حکومت و سلطنت
۱۰۳	رمضان المبارک	۹۵	حضرت داؤد علیہ السلام	۸۷	حلال و حرام
۱۰۳	رواداری	۹۶	دارالفاطمین	۸۹	سورة حم السجدہ
۱۰۵	زوج	۹۶	دجال	۸۹	غزوة تراء الاسد
		۹۶	دخان	۸۹	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۱۲۳	شمس	۱۰۹	حجر	۱۰۵	روزہ
۱۲۳	شوری	۱۰۹	سدرۃ المنتہی	۱۰۵	روایت
۱۲۳	شوہر	۱۰۹	سرگزشت مصنف	۱۰۵	زکویا
۱۲۳	شہاب ثاقب	۱۰۹	سفارش	۱۰۵	زکویت باری تعالیٰ
۱۲۳	شہادت	۱۰۹	سفر	۱۰۵	سورۃ زوم
۱۲۳	شہد	۱۰۹	سلام	۱۰۵	رہبانیت
۱۲۳	شہداء	۱۱۰	حضرت سلیمان علیہ السلام	۱۰۶	ریاکاری
۱۲۳	شہرت	۱۱۰	سارع موتی	(ز)	
۱۲۳	شیطان	۱۱۰	سمندر	۱۰۶	زیور
۱۲۶	شیعہ	۱۱۰	سنت اللہ	۱۰۶	زقوم
	(ص، ض)	۱۱۱	سود	۱۰۶	سورۃ زخرف
۱۲۶	صافی	۱۱۱	سورج	۱۰۶	حضرت زکریا علیہ السلام
۱۲۶	صالح	۱۱۱	سوء (نہائی)	۱۰۷	زکوٰۃ
۱۲۶	حضرت صالح علیہ السلام	۱۱۱	سوال	۱۰۷	سورۃ زلزال
۱۲۷	صبر	۱۱۲	سیاست	۱۰۷	زمین
۱۲۷	صحابہ کرامؓ	۱۱۲	سیر و سیاحت	۱۰۸	زنا
۱۲۸	صحیفہ	(ش)		۱۰۸	زوجہ
۱۲۸	صدق	۱۱۲	شان نزول	۱۰۸	زہد
۱۲۸	صدقات	۱۱۸	شام	۱۰۸	زیتون
۱۲۹	صدقہ جاریہ	۱۱۸	شر	۱۰۸	حضرت زید بن حارثہ
۱۲۹	صدیق	۱۱۸	شرافت	۱۰۸	حضرت زینب بنت جحش
۱۲۹	صراط	۱۱۸	شرح صدر	(س)	
۱۲۹	صراط مستقیم	۱۱۸	شکر	۱۰۸	سابقون
۱۳۰	سورۃ صحت	۱۲۱	شریعت	۱۰۸	سانبہ
۱۳۰	سورۃ الصّٰفّٰت	۱۲۱	شعائر اللہ	۱۰۸	سارہ
۱۳۰	صفا و مردہ	۱۲۲	شعر	۱۰۸	سامری
۱۳۰	صلاح و فساد	۱۲۲	حضرت شعیب علیہ السلام	۱۰۸	سبا
۱۳۰	صلح	۱۲۲	شقاقت	۱۰۹	سجدہ تعظیمی
۱۳۰	صلح حدیبیہ	۱۲۲	شق قمر	۱۰۹	سجدہ تلاوت
۱۳۰	صلوٰۃ	۱۲۲	شکار	۱۰۵	سحین
۱۳۱	صلوٰۃ و سام	۱۲۲	شکر	۱۰۹	سج

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۱۵۱	فاتحہ خلف الامام	۱۳۲	عذاب قبر	۱۳۲	صوم
۱۵۱	فتح مکہ	۱۳۲	عرش	۱۳۲	صلوات
۱۵۱	فترت	۱۳۳	عرفات	۱۳۲	صور اسرائیل
۱۵۱	فتنہ	۱۳۳	عزت	۱۳۲	صيد
۱۵۱	(سورۃ) الفجر	۱۳۳	عشر	۱۳۲	ضبط ولادت
۱۵۱	فحش	۱۳۳	سورۃ عصر	(ط)	
۱۵۲	فرح	۱۳۳	عصمت انبیاء کرام	۱۳۳	طاعون
۱۵۲	فردوس	۱۳۳	علم	۱۳۳	طاعوت
۱۵۲	فرض کفایہ	۱۳۳	علم غیب	۱۳۳	طالوت و جالوت
۱۵۳	فرعون	۱۳۵	علمائے کرام	۱۳۳	طعام
۱۵۳	سورۃ فرقان	۱۳۶	حضرت علی المرتضیٰ	۱۳۳	طلاق
۱۵۳	فرقہ	۱۳۶	عائیتین	۱۳۳	طور
۱۵۳	فسق	۱۳۶	حضرت عمر فاروق	۱۳۳	سورۃ طہ
۱۵۳	فضیلت	۱۳۶	حضرت عمران	۱۳۳	طیب
۱۵۵	فطرت	۱۳۶	عمرہ	۱۳۳	طیور
۱۵۵	فقر	۱۳۶	عہد	(ظ)	
۱۵۵	فقہی ضابطے	۱۳۸	عورت	۱۳۵	ظاہر و باطن
۱۵۵	فلاح	۱۳۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۱۳۵	ظلم
۱۵۵	فئے	۱۳۹	عیسائی	۱۳۶	ظلمت
(ق)		(غ)		۱۳۶	ظن
۱۵۶	سورۃ ق	۱۳۹	غربت	۱۳۷	ظہار
۱۵۶	قارون	۱۳۹	غصب	(ع)	
۱۵۶	قانون	۱۳۹	غصہ	۱۳۷	عاد
۱۵۶	قبر	۱۵۰	غلامی	۱۳۸	عادت
۱۵۶	قبلہ	۱۵۰	غلو	۱۳۸	عبرت
۱۵۶	قتل	۱۵۰	غیبت	۱۳۸	ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ
۱۵۶	قدرت	۱۵۰	غیب	۱۳۸	عبادت
۱۵۶	قذف	۱۵۰	غیبت	۱۴۰	حضرت عثمان
۱۵۶	قرآن مجید	۱۵۰	غیرت دینی	۱۴۰	عدت
۱۵۹	قربانی	(ف)		۱۴۰	عدل
۱۵۹	قرض	۱۵۱	الغنائم	۱۴۱	عذاب

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۱۷۷	مجمع البحرین	۱۷۲	کہف	۱۵۹	قرع اندازی
۱۷۷	محاسبہ	۱۷۲	سورہ کہف	۱۵۹	قرن
۱۷۸	محبت	۱۷۲	کھیل	۱۵۹	سورہ قریش
۱۷۸	محشر	۱۷۲	کوثر	۱۵۹	قریش
۱۷۸	سید الاولیاء والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	(گ)		۱۶۰	قصاص
۱۸۲	مردہ	۱۷۲	گمان	۱۶۰	سورہ القصص
۱۸۲	مردہ	۱۷۲	گمراہی	۱۶۰	تضا
۱۸۲	حضرت مریم	۱۷۲	گناہ	۱۶۰	قلب
۱۸۲	مسابقت الی اللہ	(ل)		۱۶۱	قول زور
۱۸۲	مساوات	۱۷۳	لیاس	۱۶۱	قول سدید
۱۸۲	مستحبات	۱۷۳	لطیف	۱۶۱	قلم و کتابت
۱۸۲	مسجد	۱۷۳	لعان	۱۶۱	قمر
۱۸۲	مسجد الحرام	۱۷۳	لعنت	۱۶۱	قمار
۱۸۳	مسجد اقصیٰ	۱۷۳	لغو	۱۶۱	قوم
۱۸۳	مسجد ضرار	۱۷۳	حضرت لقمان علیہ السلام	۱۶۲	قیاس
۱۸۳	مسکین	۱۷۳	لقیظ و لقطہ	۱۶۲	قیامت
۱۸۳	مسلمان	۱۷۳	لواطت	۱۶۵	سورۃ القیامت
۱۸۳	مشورہ	۱۷۳	لوح محفوظ	(ک)	
۱۸۵	مصائب	۱۷۵	حضرت لوط علیہ السلام	۱۶۵	سورۃ کافرون
۱۸۵	معارف القرآن	۱۷۵	لہو و لعب	۱۶۵	کذب
۱۸۵	معجزہ	۱۷۵	لیل و نہار	۱۶۶	کرامت
۱۸۶	معراج	۱۷۵	لیلۃ القدر	۱۶۶	کراما کاتبین
۱۸۷	معاشرت	(م)		۱۶۶	کشتی
۱۸۸	معاشیات	۱۷۶	المائدہ	۱۶۶	کعبہ
۱۸۹	معاملات	۱۷۶	مال	۱۶۶	کفر
۱۸۹	معوذتین	۱۷۷	مال غنیمت	۱۶۷	کفار
۱۸۹	مقام ابراہیم	۱۷۷	ماء	۱۷۱	کفارہ
۱۸۹	مکاتبت	۱۷۷	مباہلہ	۱۷۱	کفالت بالنفس
۱۸۹	مکر	۱۷۷	مبتلیٰ	۱۷۱	کلام
۱۸۹	مکزی	۱۷۷	مقدمات	۱۷۱	الکلم الطیب
		۱۷۷	متعد	۱۷۲	کلمہ سوم



صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۰۳	ہدایت	۱۹۶	سورۃ النصر	۱۸۹	مکہ مکرمہ
۲۰۵	ہدیہ	۱۹۶	نظربد	۱۹۰	ملائکہ
۲۰۵	ہدیہ	۱۹۷	نصیحت	۱۹۰	ملت ابراہیمی
۲۰۵	ہلاکت	۱۹۷	نعمت	۱۹۰	سورۃ ملک
۲۰۵	حضرت ہود علیہ السلام	۱۹۸	نفس	۱۹۰	ملکہ سبا
۲۰۵	سورۃ ہود	۱۹۸	نفس	۱۹۰	من وسلوی
	(ی)	۱۹۹	نفقہ	۱۹۰	مناظرہ
۲۰۶	یا جوج ماجوج	۱۹۹	نکاح	۱۹۰	سورۃ منافقون
۲۰۶	یتیم	۱۹۹	نماز	۱۹۰	منافقین
۲۰۶	حضرت یحییٰ علیہ السلام	۱۹۹	نمرود	۱۹۱	موت
۲۰۶	یزید	۱۹۹	حضرت نوح علیہ السلام	۱۹۲	موسیٰ
۲۰۶	سورۃ یونس		(و)	۱۹۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام
۲۰۶	حضرت اسمعٰیل علیہ السلام	۲۰۰	وادی تیبہ	۱۹۲	سورۃ مؤمن آل فرعون
۲۰۶	حضرت یعقوب علیہ السلام	۲۰۰	سورۃ واقعہ	۱۹۲	سورۃ مؤمنون
۲۰۶	یحییٰ	۲۰۰	والدین	۱۹۲	سورۃ مؤمن
۲۰۶	حضرت یوسف علیہ السلام	۲۰۰	وحی	۱۹۲	مؤمنین
۲۰۷	حضرت یوشع بن نون علیہ السلام	۲۰۱	وراثت	۱۹۳	مہر
۲۰۷	یوم نحر	۲۰۱	وصیلہ	۱۹۳	میثاق
۲۰۷	حضرت یونس علیہ السلام	۲۰۱	وصیلہ	۱۹۳	میراث
۲۰۷	یہود	۲۰۱	وصیت		(ن)
		۲۰۱	وضو	۱۹۳	نامہ اعمال
		۲۰۱	وقف	۱۹۳	نبوت
		۲۰۱	ولید بن مغیرہ	۱۹۵	نجاشی
		۲۰۱	ووث	۱۹۵	سورۃ نجم
			(ہ)	۱۹۵	نجوم
		۲۰۲	ہابیل قابیل	۱۹۵	نخل
		۲۰۲	حضرت ہاجرہ	۱۹۵	سورۃ نحل
		۲۰۲	ہاروت ماروت	۱۹۵	نذر و نیاز
		۲۰۲	حضرت ہارون علیہ السلام	۱۹۶	نسخ
		۲۰۲	ہامان	۱۹۶	نسک
		۲۰۲	ہجرت	۱۹۶	نصارئ



مرکزِ علم و عرفان  
جامعہ اسلامیہ امدادیہ، فیصل آباد  
کے نام  
جس کے دامنِ تعلیم و تربیت میں پرورش پا کر  
احقر اس خدمت کے قابل ہوا  
(مُشْتاق احمد عفی عنہ)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## پیش لفظ

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

”معارف القرآن“ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مقبولیت سے نوازا ہے۔ شروع سے میری یہ خواہش تھی کہ اس کتاب کا مفصل اشاریہ مرتب کیا جائے، جس کی مدد سے اس کے اہم مباحث تک رسائی آسان ہو جائے۔ کئی حضرات کو یہ کام سپرد کیا، مگر بوجہ اسے وہ پورا نہ کر سکے، بالآخر جناب مولانا مشتاق احمد صاحب (چنیوٹ) نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور بفضلہ تعالیٰ اسے تکمیل تک پہنچا دیا۔ الحمد للہ انہوں نے یہ کام محنت اور لگن کے ساتھ کیا ہے، میرے مشورے قبول فرمائے ہیں، اور اب یہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فاضل مرتب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور ان کی یہ کوشش عند اللہ اور عند الناس مقبول اور نافع ثابت ہو، آمین۔

محمد تقی عثمانی  
جامعہ دارالعلوم کراچی

۹ رزوالحجہ ۱۴۲۵ھ  
۲۰۰۵ء جنوری

## تقریظ

رائے گرامی ممتاز اسکالر

شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظلہ

نُحْمَدُذُنْبَارَكَ وَتَعَالَى وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَي رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ،  
وَ عَلَي اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

دور حاضر میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی تفسیر ”معارف القرآن“ کو جو قبولیت حاصل ہوئی ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں عام فہم انداز اختیار کیا گیا ہے، اور عصر حاضر کے مسائل کا شرعی حل پیش کرتے ہوئے نئی نسل کی بھرپور راہ نمائی کا لحاظ رکھا گیا ہے، جبکہ اس کی ثقاہت اور استناد کے لئے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے بعد اور کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔

ہمارے فاضل دوست مولانا مشتاق احمد صاحب نے انتہائی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ ”معارف القرآن“ کا اشاریہ مرتب کیا ہے، جس سے اس علمی ذخیرہ سے استفادہ کرنے والوں کے لئے بہت آسانی ہوگئی ہے، مولانا مشتاق احمد صاحب اس علمی خدمت پر تبریک اور شکر یہ کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبولیت سے نوازیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لئے استفادہ کا ذریعہ بنائیں، آمین یا رب العالمین۔

ابوعمار زاہد الراشدی

صدر مدرس نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

۲۰۰۳/۵/۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## عرض مؤلف

تفسیر ”معارف القرآن“ اردو زبان کی ایک مایہ ناز تفسیر ہے، جو کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے قلم کا شاہکار ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے اس تفسیر میں جہاں تفسیری نکات و تشریحات درج کی ہیں، وہاں جدید فقہی مسائل و احکام کے قرآن مجید سے استنباط پر بھی خاص توجہ دی ہے، قرآنی مقامات کی تاریخی تحقیقات اور مذاہب باطلہ کا مدلل جواب اس پر مستزاد ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اردو تفسیروں میں ”معارف القرآن“ ایک منفرد اور بے مثال تفسیر ہے۔

تفسیر ”معارف القرآن“ علوم و معارف کا ایک بحر بے کراں ہے، جس سے مطلوبہ مضامین کو تلاش کرنا کہ وہ کون کون سی جلدوں کے کن کن صفحات پر ہیں، ایک وقت طلب اور وقت طلب معاملہ تھا، اور ایک عرصہ سے ”معارف القرآن“ کا اشاریہ مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔

اللہ رب العزت کا ہزار ہا ہزار شکر ہے کہ اس نے بندۂ ناچیز کو یہ کام کرنے کی ہمت و سعادت بخشی، دو سال کی محنت شاقہ کے بعد یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ احقر کو دوران تالیف شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی رہنمائی و سرپرستی حاصل رہی، حضرت اقدس اپنی شدید مصروفیات سے وقت نکال کر اس ناکارہ کو خطوط کے جوابات سے نوازتے رہے، اپنی گراں قدر تقریظ سے نوازا اور اب اشاعت کا مرحلہ بھی انہی کی طرف سے طے پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عثمانی صاحب دام مجدۃ کو اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔

احقر نے اس اشاریہ میں درج ذیل امور کا اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے۔

۱:- اشاریہ مضامین کے بجائے حروفِ حجبی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔

۲:- ”معارف القرآن“ میں درج عنوانات کے بجائے تفسیری تشریحات کا اعتبار کیا گیا ہے، بالفاظ دیگر

اشاریہ میں مذکور ذیلی عنوانات کا اصل کتاب میں من وعن موجود ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ مضمون لازماً موجود ہوگا۔

۳:- کئی عنوانات، مرکبات اضافیہ کی صورت میں ہیں، ان میں سے بعض میں مضاف کا اعتبار کیا

گیا ہے، مثلاً: ”بیت اللہ“، اور بعض عنوانات مضاف الیہ کی مناسبت سے لکھے گئے ہیں، مثلاً: ”غزوة أحد“،

”غزوہ بدر“ بالترتیب ”الف“ اور ”با“ کے تحت درج ہیں۔

۴:- مجددِ ملت حضرت تھانوی قدس سرہ کا تحریر فرمودہ خلاصہ تفسیر جو کہ ”معارف القرآن“ کے ماتھے کا جھومر ہے، وہ بھی اشاریہ میں مکمل طور پر شامل ہے۔

۵:- ایک واقعہ میں متعدد اشخاص اور جگہوں کے نام آتے ہیں تو ان اشخاص و مواضع کا لحاظ کرتے ہوئے متعدد جگہوں میں لکھنا پڑتا ہے، ایسے مواقع پر ایک ہی عنوان کئی جگہوں پر درج کرنے کی بجائے الفاظ بدل بدل کر لکھا ہے تاکہ تکرار کا احساس نہ ہو، واقعات کا تکرار تو ناگزیر ہے، لیکن الفاظ و عنوانات کا تکرار کم سے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔

۶:- عنوانات کی ترتیب اردو لغت کے اصول پر کی گئی ہے۔

۷:- ”صوم“، ”صلوٰۃ“ وغیرہ عربی نام زیادہ تر برقرار رکھے گئے ہیں۔

احقر کو اشاریہ ”معارف القرآن“ کی تالیف کی طرف مخدوم زادہ مکرم حضرت مولانا محمد زاہد صاحب مدظلہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد نے متوجہ کیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظلہ نے گراں قدر تقریظ سے نوازا۔ دورانِ تالیف بہت سے اہل علم حضرات اپنے گراں قدر مشوروں سے نوازتے رہے، بعض حضرات نے نظر ثانی میں معاونت فرمائی، جزاھم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

احقر ان سب حضرات کا تہ دل سے شکر گزار اور ان کے لئے دُعا گو ہے۔

آخر میں قارئینِ کرام سے دو گزارشات ہیں:-

۱:- اشاریہ اور تفسیر ”معارف القرآن“ میں اگر کسی جگہ مطابقت نہ پائیں، تو وہ جلد نمبر یا صفحہ نمبر کی غلطی ہے، جو کہ احقر کے سہو قلم کا نتیجہ ہے، ایسے تمام مقامات سے ”اِنَّ اَرْوَ الْمُعْتَدِلِ بِحَبْرٍ اَخِي“ کو مطلع فرمائیں تاکہ نئی طباعت میں اصلاح کی جاسکے۔

۲:- ممکن ہے احقر کی سعیِ بسیار کے باوجود بعض عنوانات لکھنے سے رہ گئے ہوں، یا بعض ذیلی عنوانات کو بہتر انداز میں لکھنے کی ضرورت ہو تو بھی احقر کو ناشر کی وساطت سے مطلع فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجرِ جزیل دیں گے۔

محتاج دُعا

مشتاق احمد عفی عنہ

۱۵ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

آخرت کا اثبات:	آخرت
۵۰۷،۵۰۳/۳	مؤمنوں کا آخرت پر ایمان:
۱۶۹/۵	۱۱۳،۱۰۶/۱
۷۸۳،۵۱۰،۴۲۷ تا ۳۲۳/۷	عقیدہ آخرت کے تین نام:
آخرت پر یقین نہ رکھنے کی سزا:	۱۱۳/۱
۵۰۹/۳	عقیدہ آخرت کی اہمیت:
۷۲۵/۶	۶۹۲،۱۱۳/۱
۸۰۸/۸	۵۷۳،۲۸۰،۲۵۵،۲۵۱/۲
منکرین آخرت کے حالات:	۵۳۱،۳۹۷،۱۸۵/۳
۵۱۸،۵۱۶/۳	۳۷۹/۳
۷۳۹ تا ۷۳۲،۷۲۲،۴۸/۶	۵۹۳،۴۶۰،۲۷۹،۴۶/۵
آخری اجر و ثواب کن لوگوں کے لئے ہے:	۷۱۲،۶۵۴،۶۵۰،۱۶۶/۶
۹۳/۵	توحید اور آخرت پر ایمان لانے اور نیک کام کرنے کی جزا:
۶۶۸،۶۶۷/۶	۴۳۱،۴۳۰،۲۳۹/۱
۶۸۵/۷	۶۰۷/۲
دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہئے:	تاویلات باطلہ کا رد:
۴۶۰،۱۵۸/۵	۳۵۶/۱
۷۲۳،۷۰۴/۷	کافروں کی آخری سزا:
۸۰۸،۷۲۶،۷۲۲،۳۱۳،۴۹/۸	۹۴،۸۲/۲
آخرت کی ڈرنگی کا دار و مدار:	آخری سزا سے بچنا ممکن نہیں:
۴۰۰،۱۶۱/۵	۳۷۳/۳
۳۲۳،۳۲۳/۷	آخرت سے بے فکری کی قباحت:
طالب دنیا اور طالب آخرت کے اعمال کے نتائج:	۳۹۷/۳
۴۶۰/۵	

حضرت آدم علیہ السلام

آپ کی تخلیق:	۶۰۰/۵	آخرت میں کافروں کی حالت:
۱۷۷۲۱۷۵/۱		آخرت کا دن ایک ہزار سال ہونے کا مطلب:
۵۲۵/۳		۲۷۴/۶
۱۳۸/۳		آخرت میں فائدہ دینے والی چیزیں:
۵۹۹،۵۰۲،۲۹۶/۵		۵۳۲/۶
۱۵۳،۱۵۲/۶		۱۸۰/۸
۵۲۹/۷		آخرت اور دنیا کی نعمتوں کا تقابل:
فرشتوں کا تخلیق آدم پر سوال و جواب:	۷۰۳،۷۰۳/۷	
۱۷۹۵۱۷۵/۱		فکر آخرت کی ترغیب:
فرشتوں کا امتحان:	۸۰۸،۷۱۷ تا ۷۰۰،۲۱۱/۸	
۱۸۰،۱۷۶/۱		آخرت کے لئے نقصان دہ احکام ماننے کی ممانعت:
فرشتوں کا اعترافِ عجز:	۳۶۸/۸	
۱۸۱،۱۷۶/۱		سلف صالحین کا خوفِ آخرت:
آپ کی فضیلت:	۵۹۷/۸	
۱۸۷،۱۸۲،۱۷۶/۱		آخری آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم:
۵۵/۲		۸۵۰/۸
فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی مصلحت:	(مزید تفصیل کے لئے "قیامت" کا عنوان ملاحظہ فرمائیں)	
۱۷۸/۱		
فرشتوں کے اعتراض کرنے کی وجہ:	آداب	
۱۸۱/۱		ادب کا ایک تقاضا:
آپ کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم:	۷۰/۶	
۱۸۷/۱		اپنے بڑوں کو نام لے کر بلانا درست نہیں:
۵۲۶،۵۲۵/۳		۲۵۵/۶
۵۹۹،۵۰۲،۲۹۶/۵		آئندہ ہونے والے کاموں کے متعلق ہدایت:
۵۲۹/۷		۹۰/۸



آزر	حضرت آدم و حوا کو جنت میں رہنے کا حکم:
آزر کا ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ:	۱۹۲، ۱۹۱/۱
۳۷۹/۳	۵۳۰/۳
ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لئے استغفار کرنے کی حقیقت:	۱۵۳/۶
۴۷۲/۳	حضرت آدم و حوا کی لغزش اور دونوں کو زمین پر اترنے کا حکم:
۲۶۷، ۲۶۱/۵	۱۹۳، ۱۹۱/۱
۵۲۸/۶	۵۳۱، ۵۳۰/۳
ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ اور قوم کو دعوت و تبلیغ:	۱۵۳/۶
۳۸۳، ۳۷۶/۳	شیطان کے بہکانے کی ممکنہ صورتیں:
۵۲۸، ۵۲۷، ۳۳/۶	۱۹۳/۱
ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لئے دُعا کرنے کی وجہ:	آپ کے واقعہ کی توجیہات:
۳۶/۶	۱۹۶/۱
۴۰۲، ۳۹۸/۸	زمین پر اترنے کے حکم کی نوعیت:
ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ اور قوم کے شرک سے بیزاری:	۲۰۱، ۱۹۹، ۱۹۸/۱
۳۸۳، ۳۷۶/۳	اس حکم کے برقرار رہنے کی وجہ:
۷۲۵، ۷۲۳/۷	۲۰۱، ۱۹۹، ۱۹۸/۱
آسمان	عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے ساتھ تشبیہ:
اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان پیدا کرنے والے ہیں:	۸۵، ۸۴/۲
۱۷۳، ۱۷۱/۱	آپ کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر:
۲۶۲، ۲۶۰/۲	۱۱۳/۲
۳۱۶/۷	آپ کی معصومیت:
آسمانوں کی تخلیق:	۱۳۹/۳
۱۷۴، ۱۷۳/۱	آپ کی توبہ اور اس کی قبولیت:
۵۷۲/۳	۵۳۱/۳
	۱۵۳/۶
	اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں آپ کی تخلیق کا مطلب:
	۵۳۲/۷

زمین و آسمان سے خطابِ الہی کی حقیقت:	۵۹۳/۳
۶۳۹/۷	۱۶۵/۵
آسمان پر فرشتوں کی کثرت:	۳۸۷، ۳۸۱، ۳۸۰، ۱۸۰/۶
۶۷۰/۷	۷۸۳، ۶۷۱، ۶۶۹، ۶۳۳، ۵۰۹، ۴۲۱، ۳۱۵، ۲۸/۷
زمین و آسمان کے رونے کا مطلب:	۷۵۵، ۵۵۱، ۵۱۷، ۵۱۱، ۴۹۱، ۱۵۸/۸
۷۶۷/۷	آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں:
ایک اہم نکتہ:	۶۸۹، ۶۱۲، ۳۰۳، ۲۸۲/۱
۳۲۱، ۳۲۰/۸	۶۱۵، ۵۶۹، ۵۵۳، ۲۵۷، ۱۳۶/۲
آسمان کی میٹھیوں کے تعبیر:	آسمانوں کی تعداد:
۵۵۳، ۵۵۱/۸	۱۷۳/۱
قیامت کے دن آسمان کی رنگت:	اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں:
۵۵۲، ۵۵۱/۸	۳۸/۲
حضرت آسیہؓ	۲۵۳، ۲۵۲، ۶۰/۷
آپ کی جاؤ و گروں کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی دعا:	آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا مقصد:
۹۶/۶	۵۹۳، ۵۹۳/۳
آپ کا انجام خیر:	۱۷۶، ۱۷۳/۶
۱۹۶/۶	کیا آسمان آنکھوں سے نظر آتا ہے:
آپ کی فضیلت:	۱۶۷/۵
۵۰۷، ۵۰۵/۸	لفظ "سما" کا مفہوم:
سورۃ آل عمران	۲۸۶/۵
سورۃ کی فضیلت:	آسمان کی شیاطین سے حفاظت:
۵۵/۲	۲۸۷، ۲۸۶/۵
آیت الکرسی	آسمان سے پانی کا نزول:
خاص فضائل:	۳۷۸، ۳۰۵، ۳۰۱، ۲۸۰، ۱۱۶/۶
۶۱۲/۱	۷۲۰، ۳۳۵/۷
	آسمان و زمین کے کھلنے اور بند ہونے کا مطلب:
	۱۸۱، ۱۸۰/۶

الف

حضرت ابراہیم علیہ السلام

ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور ان کے نتائج:

۳۱۶۵۳۰۸/۱

۶۸۵،۶۸۴،۱۹۳/۶

۴۶۰۵۴۴۶/۷

آپ کی ہجرت:

۳۱۷/۱

۴۵۷۵۳۵۵/۷

تعمیر بیت اللہ:

۳۲۰۵۳۱۸،۳۱۶/۱

۱۱۵،۱۱۳/۲

آپ کی دعائیں:

۳۹۱،۳۳۰،۳۲۵/۱

۲۶۴،۲۶۴،۲۶۱۵۲۵۷/۵

۵۲۸،۶۰،۵۹/۶

آپ کے فضائل و خصوصیات:

۳۳۳،۳۳۲/۱

۶۱۰،۵۵۲،۳۳۸،۵۶،۵۵/۲

۵۰۸،۵۰۷،۳۹۳،۳۸۹۵۳۸۳،۳۸۰/۳

۶۳۷،۶۳۵،۴۷۲/۴

۴۱۶،۲۶۸۵۲۶۳/۵

۶۸۶،۶۸۵،۵۲۹،۵۲۸،۵۲۷،۳۶/۶

۵۲۵،۴۳۷/۷

۳۳۳،۲۱۷/۸

آپ کی وصیت:

۳۳۳/۱

آیات

بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی آیت ہے:

۷۳/۱

احکام اسلامیہ کی ایک جامع آیت:

۳۳۲/۱

البقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت:

۶۹۳/۱

لفظ "آیات" کی تحقیق:

۲۶۲/۲

آل عمران آیت نمبر ۱۸ کے فضائل:

۳۵/۲

دو آیتوں میں تطبیق:

۵۲۷/۳

ایک آیت سے آٹھ مسائل کا استنباط:

۵۳۶/۳

جامع ترین آیت:

۳۸۷/۵

تین آیات کی خصوصیت:

۳۹۱/۵

ایک آیت کی خصوصیت:

۳۳۷/۶

سورۃ الرحمن آیت: ۳۳ کے متعلق تمثیلیہ:

۲۵۵/۸



اس اعلان کی تائید:	آپ کا حیات بعد الممات کا مشاہدہ:
۲۵۷، ۲۵۶/۶	۶۲۱/۱
میں نے کی قربانی کا واقعہ:	آپ کے متعلق یہود و نصاریٰ کے عقائد کی تردید:
۳۶۶۵۳۵۵/۷	۸۹، ۸۸/۲
آپ کے صحیفوں کا ذکر:	حضور علیہ السلام اور امت محمدیہ کی حضرت ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ مناسبت:
۲۱۸، ۲۱۵/۸	۸۹/۲
سورۃ ابراہیم	۳۱۷، ۳۱۶/۵
سورۃ کے مضامین:	حضرت ابراہیم کی آل میں سے بعض کی سرکشی:
۲۱۸/۵	۳۳۸/۲
ابولہب	آپ کی دعوت و تبلیغ:
حضور علیہ السلام کو ایذا رسانی:	۳۸۳۵۳۷۶/۳
۸۳۱۵۸۳۸/۸	۶۸۵۵۶۸۰، ۵۲۸، ۵۲۷، ۱۹۳، ۳۳/۶
ابلیس	۷۲۶، ۷۲۵/۷
ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار:	آپ کا حضرت لوط کی قوم کے متعلق جھگڑا اور فرشتوں کا جواب:
۱۸۷/۱	۶۵۱/۳
۵۲۵/۳	۳۰۵/۵
۵۹۹، ۵۰۲، ۲۹۶/۵	۶۸۸/۶
۱۵۳/۶	۱۶۸، ۱۶۶، ۱۶۵/۸
۵۲۹/۷	حدیث کذبات کی تحقیق:
ابلیس کے کفر کی وجہ:	۲۰۱۵۱۹۷/۶
۱۹۰/۱	۲۵۲، ۲۳۸/۷
۵۳۰/۷	آپ سے اللہ تعالیٰ کا خطاب:
اس نے آدم علیہ السلام کو کس طرح بہکایا:	۲۵۵، ۲۵۴/۶
۱۹۶/۱	آپ کو بیت اللہ کے متعلق چند احکام:
۱۵۳/۶	۲۵۵، ۲۵۴/۶
	آپ کو حج بیت اللہ کی فرضیت کے اعلان کا حکم:
	۲۵۶، ۲۵۵/۶

آپ کا جذبہ جہاد:	۱۷۶/۳	اللہ تعالیٰ سے بنی نوع انسان کو بہکانے کا عہد:	۵۳۹،۵۳۸/۲
آپ کی فضیلت:	۹۲/۳		۵۲۸،۵۲۶/۳
	۳۸۱/۶		۵۰۳۴۵۰۲،۲۹۷/۵
	۸۰۷/۷	ابلیس کی دُعا کی قبولیت کے متعلق دو آیتوں میں تطبیق:	۵۳۰/۷
	۷۶۳/۸		۵۲۷/۳
امام ابوحنیفہؒ		ابلیس کے عذر کا ابطال:	۵۲۶/۳
امام ابوحنیفہؒ اور ان کے ساتھیوں کی فضیلت:	۵۱/۸	ابلیس کو آسمانوں سے نکلنے کا حکم:	۵۲۶/۳
اتفاق و اتحاد			۵۳۰/۷
اتفاق و اتحاد کی اہمیت:		ابلیس کا تکبر اور اس کی سزا:	۵۳۰/۷
	۱۳۲،۱۱۶/۱		۵۰۲،۲۹۷،۲۹۶/۵
	۱۲۸/۲	ابلیس کا قیامت تک مہلت طلب کرنا اور اس کی قبولیت:	۵۳۰/۷
	۳۶۳،۳۶۲/۳		۵۰۲،۲۹۷/۵
	۲۷۷/۳		۵۳۰/۷
	۳۵۶/۸	اس کی تابعداری کی سزا:	۲۹۷/۵
اتفاقی کی وجوہ اور ممانعت:		ابلیس کی اولاد و ذریت کی انسان دشمنی:	۵۰۳،۵۰۲/۵
	۱۳۲،۱۳۱،۲۹/۲		۳۶/۸
	۱۲۳،۱۱۸،۱۱۴/۸	حضرت ابو بکرؓ صدیق	
اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کا الہی ضابطہ:		فتنہ ارتداد میں بے مثال استقامت:	۱۷۵/۳
	۱۳۵،۱۳۴،۱۲۹/۲		آپ کے دور میں فتنے پیدا ہونے کی پیش گوئی:
	۲۷۸،۱۷۶/۳		۱۷۵/۳
	۵۵۹/۵		
اختلاف مذہب و غیر مذہب کی حدود:			
	۱۳۳/۲		
	۶۸۰/۳		

ائمہ مجتہدین کی تقلید کا وجوب:

۳۳۳/۸

### اجماع

اجماع امت کی حجیت:

۳۷۲/۱

۵۳۶/۲

### غزوہ احد

غزوہ احد کا مکمل واقعہ، عارضی شکست کی وجوہ اور حکمتیں:

۲۳۵۵، ۱۹۲، ۱۶۵۵، ۱۶۳/۲

### احرام

حالت احرام میں شکار کرنے کی حرمت:

۲۳۳، ۲۳۲، ۱۹، ۱۳، ۱۱/۳

احرام ختم ہونے کے بعد شکار کی اجازت:

۱۷/۳

حالت احرام میں شکار کرنے کی سزا:

۲۳۳/۳

احرام باندھنے کے بعد حج و عمرہ ادا نہ کر سکیں تو کیا

کریں:

۲۸۱۵، ۳۷۷/۳

حالت احرام میں کوئی شخص بال موٹڈ نے پر مجبور ہو جائے

تو کیا کرے:

۳۷۷/۳

احرام کی وجہ سے چھ چیزوں کی حرمت:

۲۸۲، ۲۸۳/۳

غیر اختیاری اتفاقات کی حکمتیں:

۲۴۷/۳

اختلاف شرائع کی حکمت:

۱۶۳/۳

مجتہدانہ اختلافات کی حقیقت:

۳۶۳، ۳۶۳/۳

اتحاد کے غلط اصولوں کی مذمت:

۲۳۹/۸

### اجتہاد

اجتہادی اختلافات کا دائرہ کار:

۱۲۵۵، ۱۳۳/۲

اجتہاد کا اثبات:

۲۹۳، ۳۵۳/۲

اجتہاد کا فائدہ:

۳۹۳/۲

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اجتہاد:

۵۳۲، ۳۹۳/۲

اجتہادی اختلافات مذموم نہیں:

۳۶۶۵، ۳۶۳، ۳۵۲/۳

۵۳۱/۳

۶۷۹، ۶۷۳، ۱۱۷/۷

۳۶۲، ۳۶/۸

اجتہاد کے متعلق ایک ضابطہ:

۲۰۹/۶

صحابہ کرام کا اجتہاد:

۱۱۷/۷

أحكام	غزوة أحراب
الله تعالى کا حکم واقع ہو کر رہتا ہے:	غزوة أحراب کی مکمل تفصیل و نتائج:
۳۰۴/۱	۴۳/۲
۳۲۸، ۶۸/۲	۱۱۶۴، ۹۴/۷
۱۳۸، ۱۳۷/۷	إحسان
الله تعالى عدل و احسان کا حکم دیتے ہیں:	والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم:
۳۷۵/۱	۲۵۳/۱
شیطان برائی کا حکم دیتا ہے:	۴۱۰، ۴۰۹، ۴۰۷/۲
۶۳۷، ۴۱۱/۱	۴۸۲، ۴۷۷/۳
أحكام الہی کا مذاق اڑانے کی ممانعت:	۴۶۸، ۴۶۴/۵
۵۷۰/۱	۶۷۵/۶
الله تعالى شرک کا حکم نہیں دیتے:	۸۰۴، ۳۸۰/۷
۹۶/۲	احسان کا مفہوم:
مؤمن نیکی کا حکم دیتے ہیں:	۴۷۴/۱
۱۵۴، ۱۰۴/۲	۴۹۱، ۴۹۰/۵
۴۲۱/۳	احسان کرنے کی فضیلت:
الله تعالى کے بعض احکام:	۴۷۴/۱
۴۴۹، ۴۴۳/۲	۲۰۰، ۱۸۴/۲
۵۳۸/۳	۵۷۵، ۲۳۲/۳
۴۹۲، ۳۸۷/۵	۷۱۴/۶
حکم اور اطاعت کی تین عملی صورتیں:	احسان کی دو قسمیں:
۴۵۰/۲	۴۹۰/۵
أحكام الہیہ پر عمل کرنے کا دنیوی فائدہ:	حدیث جبریل میں احسان کا مفہوم:
۱۹۲/۳	۴۹۰/۵
أحكام الہیہ پر پورا عمل کرنے کا طریقہ:	الله تعالى کا ایک عظیم احسان:
۱۹۲/۳	۴۱۶، ۴۰۸/۷
أحكام الہیہ کی تین اقسام:	احسان کا بدلہ:
۱۹۸/۳	۴۶۲، ۲۶۱/۸

احکام الہی کی دو قسمیں:	احکام البیہ کے متعلق اہم ہدایت:
۷۰۳، ۳۹۵/۸	۲۳۵/۳
سابقہ امتوں کو دیئے گئے بعض احکام:	وہ احکام جن کے اعلان کا حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا:
۷۹۸/۸	۵۰۷، ۳۷۰، ۳۶۹، ۲۸۹/۳
اختلاف	۵۸۰/۳
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اختلافی امور کا فیصلہ کریں گے:	۳۱۳، ۲۰۸/۵
۲۹۱، ۲۹۰/۱	۶۱۲/۶
۷۸، ۷۲/۲	۶۷۶، ۶۶۸، ۶۱۵، ۵۳۵/۷
۵۰۷، ۱۵۸/۳	احکام شرع سے لاعلمی کوئی عذر نہیں:
۵۶۶، ۵۲۱/۳	۵۴۱/۳
۳۱۶، ۳۹۴، ۳۳۷، ۳۳۶/۵	اللہ تعالیٰ برے کاموں کا حکم نہیں دیتے:
۲۸۲/۶	۵۳۸/۳
۷۸۲، ۶۷۲، ۵۶۳، ۵۳۳، ۷۲/۷	احکام شرع میں سہولت کی رعایت:
دینی اختلافات کی قباحت:	۵۶۰/۳
۶۰۹، ۶۰۸، ۵۰۳، ۵۰۲/۱	احکام البیہ کی بجا آوری میں کمی نہ کرنے کا حکم:
۱۳۶، ۱۳۵، ۳۹، ۳۳/۲	۵۵/۵
۶۰۰، ۳۰/۶	فرشتے الہی احکام کی نافرمانی نہیں کرتے:
۷۳۵/۷	۳۵۳/۵
اجتہادی اختلافات پر اعتراض جائز نہیں:	۵۰۲/۸
۱۳۳/۲	احکام دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں:
اختلاف امت کے رحمت ہونے کا مطلب:	۵۰۸/۶
۳۶۳/۳	احکام و قوانین میں قصبات و دیہات، شہروں کے تابع ہوتے ہیں:
قرآن مجید اختلافی امور میں حکم ہے:	۶۵۳/۶
۳۵۸/۵	حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، رسول اللہ اور اولوالامر کے حکم کی شرعی حیثیت، مجتہدین کے اجتہادات کی شرعی حیثیت:
اخلاص	۶۷۴/۷
اخلاص کی حقیقت:	
۳۵۸/۱	



۳۹۶، ۸۳، ۸۲/۵	عبادات میں دنیوی اغراض کو شامل کرنے کی ممانعت:
۶۴۷، ۵۷۴، ۳۲۹/۶	۴۹۱/۱
۴۳۸، ۱۹۸، ۳۸/۷	اخلاص و تقویٰ کی اہمیت:
۵۳۳، ۱۶۷، ۴۲/۸	۵۱۶/۱
اخلاق کو تباہ کرنے والے کاموں کی ممانعت:	۵۹۰، ۵۵۵، ۲۳۱/۲
۴۹۳، ۴۸۲/۳	۱۱۳/۳
انسانی اخلاق کو تباہ کرنے والی چیز:	۶۰۴/۴
۴۳/۳	۵۳۶/۷
یہود کی اخلاقی تباہ حالی:	۲۲۰/۸
۱۸۴/۳	اخلاص عمل کی باریکی کا بیان:
اصلاح اعمال کا طریقہ:	۲۰۱/۶
۱۸۴/۳	کمال اخلاص کیسے حاصل ہو سکتا ہے:
۲۳۱/۷	۵۳۶/۷
حضور علیہ السلام اور حضرت عمرؓ کا حسن اخلاق:	سورۃ اخلاص
۱۵۷، ۱۵۶/۴	سورۃ کے فضائل:
بعض بری عادتوں کی نشاندہی:	۸۴۳، ۸۰۲/۸
۱۱۹۵، ۱۱۵/۸	سورۃ کی خصوصیات:
حضرت ادریس علیہ السلام	۸۴۳/۸
حضرت ادریس علیہ السلام کے خصوصی فضائل:	اخلاق
۲۱۷، ۴۱، ۳۸/۶	شرافت و انسانیت کے چھ کام:
حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام کی طرف اٹھائے جانے کا مفہوم:	۳۰۰/۱
۴۱/۶	اخلاق و کردار کی اہمیت:
ارثداد	۳۳۹، ۳۱۰/۱
ارثداد سے متعلقہ مسائل:	۴۵۲، ۳۵۳/۳
۵۲۰، ۲۳۰/۱	اخلاقی تعلیمات:
مرتد کی سزا:	۵۹۲، ۵۹۱، ۵۳۷، ۴۰۷، ۱۸۸/۲
۵۱۶، ۲۳۰/۱	۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۴/۴

پروے کے احکام:	۵۷۹، ۵۷۸، ۱۰۳/۲
۱۳۲، ۱۳۱، ۱۲۵، ۱۲۳/۷	۲۳۲/۸
قراہ بیوت کے حکم سے ایک استثناء:	مرتد کے مال کا حکم:
۱۳۳/۷	۶۵۶/۱
ازواجِ مطہرات کا طلاق کے اختیار کو قبول نہ کرنا:	ایک شہد کا ازالہ:
۱۲۸، ۱۲۷/۷	۱۰۵/۲
ازواجِ مطہرات کے افضل ہونے کی بحث:	اللہ تعالیٰ کو مرتد کی کوئی پروا نہیں:
۱۳۱/۷	۱۷۲، ۱۶۹/۳
حضرت عائشہ کے متعلق رافضی ہفتوات:	ارضِ مقدسہ
۱۳۵/۷	ارضِ مقدسہ سے کون سی زمین مراد ہے:
اہل بیت سے ازواجِ مطہرات مراد ہیں:	۹۸/۳
۱۳۹/۷	ارم
ازواجِ مطہرات سے گفتگو کے آداب:	لفظ "ارم" کی تحقیق:
۲۰۰/۷	۷۴۱، ۷۳۶/۸
ازواجِ مطہرات سے نکاح حرام ہونے کی وجوہ:	ازلام
۲۰۲/۷	ازلام کی تشریح:
استدراج	۲۲۶/۳
استدراج کی تعریف:	ازواجِ مطہرات
۱۳۷/۳	ازواجِ مطہرات کا اعزاز و اکرام:
استدراج کن لوگوں کو ہوتا ہے:	۱۹۷، ۸۷، ۸۶/۷
۱۳۷/۳	ازواجِ مطہرات کی ایک خصوصیت:
استغفار	۱۲۸، ۱۲۳/۷
استغفارِ سحری کی برکات و فضائل:	ازواجِ مطہرات کو طلاق لینے کا اختیار:
۲۸/۲	۱۲۶، ۱۲۳/۷
۳۷۹/۷	ازواجِ مطہرات کو خاص ہدایت:
۱۶۰/۸	۱۳۸، ۱۳۰، ۱۲۳/۷
استغفار کی کثرت کا حکم:	
۵۸۸، ۳۶/۸	

ذبح حضرت اسماعیل تھے یا حضرت اسحاق:

۳۶۲/۷

اسرائیل

اسرائیل کی موجودہ حکم پر ایک شبہ اور اس کا جواب:

۲۳۷/۱

۱۵۳،۷۷/۲

اسرائیلیات

اسرائیلیات کی تعریف، اقسام اور حکم:

۵۲/۱

اسلام

دین اسلام کا خلاصہ:

۱۷۰/۱

اسلامی شوریات کی خصوصیت:

۱۸۶/۱

حقانیت اسلام کی ایک دلیل:

۲۶۵/۱

ترک اسلام کا وبال:

۲۹۳،۲۹۲/۱

اسلام کی ملت ابراہیمی سے موافقت:

۳۳۳/۱

اسلام کی زوج:

۳۳۶/۱

ایک شبہ کا جواب:

۳۳۷/۱

اسلامی نظام معیشت کی اہمیت:

۳۵۸/۱

استقامت

استقامت کا حکم:

۶۶۹/۳

۳۹/۶

۷۷۶،۶۸۱،۵۱/۷

استقامت کا مفہوم و اہم فوائد:

۶۷۰/۳

۶۵۰/۷

استقامت کی فضیلت:

۸۰۰،۶۳۹،۶۳۸/۷

استیذان

آداب ملاقات:

۳۳۷،۳۳۳،۳۸۶،۳۸۳/۶

استیذان کی حکمتیں:

۳۸۶/۶

استیذان کا مستنون طریقہ:

۳۸۸/۶

ضروری تنبیہ:

۳۹۰/۶

استیذان کے متعلق چند مسائل:

۳۹۳،۳۹۱/۶

حضرت اسحاق علیہ السلام

حضرت اسحاق علیہ السلام کی فضیلت:

۶۱۰،۶۰۸،۵۶/۲

۳۸۵/۳

۲۳،۱۵/۵

۲۰۳،۱۰۶/۶

۵۲۵،۳۵۶/۷

عزت و ذلت کا اسلامی معیار:	۳۳۱/۳	سلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم:	۴۹۹، ۴۹۸/۱
زبردستی مسلمان بنانے کی ممانعت:	۴۲۵/۳	اسلامی سیاست کا ایک امتیاز:	۵۲۶/۱
اسلام ہی سیدھا راستہ ہے:	۴۹۱، ۴۳۶/۳	اسلامی قانون کی بنیادی خصوصیت:	۵۷۷/۱
اسلامی سیاست کے اقدامات:	۲۶۷/۳	اسلام کا معنی و مفہوم:	۱۰۲، ۱۰۱، ۳۶/۲
حقانیت اسلام کو دلائل کے ساتھ سمجھانے کی فریضت:	۳۱۸/۴	اسلام مدارِ نجات ہے:	۵۹۵، ۵۹۳، ۱۰۲، ۱۰۱/۲
اصل تعلق اسلام والا ہے:	۳۳۸/۴	کافروں کو اسلام قبول کرنے کا حکم:	۲۳۳، ۲۳۲/۲
اسلام کے غلبہ کی پیش گوئی:	۳۶۶/۳	اسلام اور کمیونزم میں ایک فرق:	۲۲/۳
ایک اسلامی خصوصیت:	۵۲۲/۴	تکمیل اسلام کا زمانہ:	۳۲/۳
اسلام میں نوکروں کا مقام:	۶۰۵/۵	دین مکمل ہونے کا مفہوم:	۳۶/۳
اندر اور جرائم کے متعلق اسلامی ضابطے:	۳۳۹، ۳۳۸/۶	اسلامی طرز معاشرت:	۳۳۹، ۷۷/۳
اندر اور فواحش کا اسلامی نظام:	۲۰۵/۷	قبول اسلام کے بغیر نیک اعمال ضائع ہیں:	۵۵۹/۵
اسلام میں شاعری کا درجہ:	۳۸۰/۶	اسلام کا ایک انقلابی عقیدہ:	۵۳۵، ۳۸۶، ۱۸۱/۷
اسلامی مساوات کا مطلب اور ایک نمونہ:	۵۵۳/۶	تین بنیادی اصول:	۱۹۷/۳
	۷۳۲، ۱۰۳/۷		۲۹۳/۳
			۳۰۷/۳

آپ کے ذبح اللہ ہونے کی تحقیق:	اسلام قبول کرنے کا مطلب:
۴۶۲/۷	۴۸۸/۷
اسمائِ حسنیٰ	اسلامی نظامِ حکومت کی خوبی:
غیر اللہ کو رب کہنا صحیح نہیں:	۷۰۵/۷
۹۷/۱	ایمان و اسلام میں فرق ہے یا نہیں:
اسماءِ حسنیٰ کی تشریح:	۱۴۹/۸
۲۹/۳	اسلام کا دوسرے دینوں پر غلبہ:
اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام سے کسی کو پکارنے کا عدم جواز:	۴۲۳/۸
۱۳۲، ۱۴۹/۳	اسلام کے انکار کی سزا:
اسماءِ الہیہ میں کج روی کی ممنوع صورتیں:	۷۶۱، ۷۵۹/۸
۱۳۱/۳	(مزید تفصیل کے لئے "دین" اور "شریعت" کے
اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام ناموں سے پکارنے کا جواز:	عنوانات ملاحظہ فرمائیں)
۵۴۲، ۵۴۱/۵	
اسماءِ حسنیٰ کے متعلق آداب:	حضرت اسماعیل علیہ السلام
۷۲۲/۸	آپ کی قربانی کا تذکرہ:
اشہر حرام	۳۱۲/۱
اشہر حرام کا تذکرہ:	۴۶۱۵، ۴۵۶/۷
۲۳۹، ۲۳۶/۳	آپ کی مکہ مکرمہ میں رہائش:
۴۳۲، ۳۰۵، ۳۰۳/۳	۳۱۹۵، ۳۱۶/۱
اصحابِ اُحدود	بیت اللہ کی تعمیر میں معاہدت:
اصحابِ اُحدود کا تفصیلی واقعہ:	۳۲۰، ۳۱۹/۱
۷۱۳، ۷۱۰/۸	آپ کے فضائل:
مؤمنوں کو آگ میں جانے کی سزا:	۶۱۰، ۶۰۸، ۵۶/۲
۷۱۳، ۷۱۱/۸	۳۸۵/۳
اصحابِ الایکہ	۲۱۷، ۲۰۵، ۳۸/۶
اصحابِ الایکہ کا تعارف:	۵۲۵/۷
۳۱۰، ۳۰۹/۵	آپ کی اپنے گھر والوں کو تبلیغ:
۱۳۶/۸	۴۰، ۳۹/۶

### اصحابِ کہف

اصحابِ کہف کا واقعہ:

۵۸۳۴۵۵۱/۵

### اصلاح

اصلاحِ نفس کی اہمیت:

۴۸۲/۲

اصلاحِ اعمال کا طریقہ:

۱۸۴،۱۳۴/۳

بغرضِ اصلاحِ خطا کار کو جتلا دینا مناسب ہے:

۱۰۵/۵

### اطاعت

اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حکم:

۴۴۳،۱۷۷،۵۴،۴۹/۲

۲۳۰،۲۲۵/۳

۴۶۹،۴۶۸،۴۶/۸

اطاعت کا صلہ:

۴۷۱۴۴۶۶،۴۴۲،۴۴۱/۲

۴۳۶/۶

۴۳۸/۷

۴۶۹،۴۶۸،۴۴۳،۲۳۸،۷۶/۸

حکم اور اطاعت کی تین عملی صورتیں:

۴۵۰/۲

حضور علیہ السلام کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے:

۴۸۶/۲

کافروں کی اطاعت کا نتیجہ:

۴۲۷/۳

اطاعت ہر حال میں ضروری ہے:

۲۵۰،۴۰۴،۱۷۷،۱۷۶،۱۷۲/۳

حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ:

۵۴۳/۶

اصحابِ الایکہ کی سرکشی:

۵۴۳/۶

ان کی تباہی و بربادی:

۵۴۴/۶

۴۹۳/۷

### اصحابِ حجر

اصحابِ حجر کا تعارف:

۳۱۰،۳۰۹/۵

### اصحابِ الرس

اصحابِ الرس کی نافرمانی و ہلاکت:

۴۷۵/۶

اصحابِ الرس کا تعارف:

۴۷۶/۶

۱۳۵،۱۳۴/۸

### اصحابِ رقیم

رقیم کا مطلب:

۵۵۱/۵

اصحابِ رقیم کون تھے:

۵۵۳،۵۵۲/۵

### اصحابِ الفیل

اصحابِ الفیل کا واقعہ:

۸۱۷/۸

یہ واقعہ کب ہوا:

۸۱۷/۸

اعتكاف	اطاعت کے لئے معاون اسباب کی طلب کی اجازت:
اعتكاف کے متعلق احکام:	۵۱۷/۶
۳۵۶، ۳۵۳/۱	اطاعت پر اجر لینے کا حکم:
اعراف	۵۳۴/۶
اعراف کی حقیقت:	گناہ کے کاموں میں والدین کی اطاعت جائز نہیں:
۵۶۶/۳	۶۷۵/۶
اہل اعراف کون لوگ ہیں:	۳۷، ۳۶، ۳۲/۷
۵۶۷/۳	کافروں کو اطاعت نہ کرنے پر پھپھتاوا ہوگا:
اہل اعراف کا جنتیوں اور دوزخیوں سے خطاب:	۲۳۷/۷
۵۶۷/۳	کافروں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم:
سورة الاعلیٰ	۱۷۲، ۷۷/۷
سورة کی تلاوت کا ایک ادب:	۷۸۱، ۶۳۳، ۵۲۵/۸
۷۲۲/۶	(مزید تفصیل کے لئے "اعمال"، "تزکیہ نفس" اور "غیرت دینی" کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں)
اعمال	اعتدال
اعمال صالحہ کا نتیجہ:	مختلف امور میں اعتدال کی تعلیم:
۱۳۸/۱	۳۵۵/۱
۵۰۶، ۳۱۷، ۳۱۳/۸	۶۲۲، ۶۲۱/۲
اعمال صالحہ کی جزا:	۵۳۵/۳
۲۵۲، ۲۳۹، ۱۶۵/۱	۳۰، ۳۹، ۳۳/۷
۶۲۳، ۵۵۲، ۴۴۱، ۴۲۰، ۴۱۹، ۲۷۱، ۱۸۵، ۸۲/۲	اعتدال کا مفہوم و اہمیت:
۵۵۶، ۴۴۶، ۲۳۲، ۱۹۷، ۱۹۶، ۶۷/۳	۳۶۶/۱
۶۰۸، ۵۹۶، ۵۹۵، ۵۰۸، ۴۹۸، ۴۸۶، ۷۲/۳	امت محمدیہ کے اعتدال کی تفصیل:
۵۴۸، ۴۶۳، ۳۹۸، ۳۹۵، ۳۳۳، ۲۴۲، ۱۹۵/۵	۳۶۸/۱
۶۵۷، ۵۸۶	اعتدال سے بچنے کی وجہ:
۲۷۳، ۲۳۹، ۲۳۲، ۲۲۷، ۱۴۹، ۱۲۹، ۱۲۲، ۵۸، ۴۴/۶	۲۱۲/۳
۷۱۳، ۷۰۶، ۶۸۶، ۶۶۷، ۶۵۶، ۴۳۸، ۴۲۰، ۲۷۷	علمی تحقیق غلو میں شمار نہیں ہوتی:
۷۵۲، ۷۲۸	۲۱۲/۳

۶۰۲، ۴۱۸، ۳۲۶، ۶۵/۴	، ۵۷۶، ۵۵۵، ۳۲۰، ۲۹۸، ۲۵۳، ۷۸، ۶۶، ۱۹/۷
۶۵۸، ۶۵۷، ۲۵۶، ۲۳۰/۵	۸۰۲، ۷۷۹، ۷۳۹، ۷۰۱، ۶۹۳، ۶۸۸، ۶۲۶، ۵۹۸
۵۰۰، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۴۰/۶	، ۳۸۹، ۳۵۱، ۲۶۷، ۲۱۰، ۱۷۷، ۸۹، ۳۲، ۲۰/۸
۹۷/۷	۷۹۶، ۷۷۳، ۷۱۱، ۷۰۲، ۶۳۳، ۵۸۸، ۴۶۲، ۳۵۸
۳۷، ۲۹، ۱۹/۸	اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں:
نیک کام کرنے کا حکم:	، ۵۲۹، ۴۸۷، ۳۵۸، ۲۸۸، ۲۶۶، ۲۵۵، ۲۳۷/۱
۵۴۳/۱	۶۸۵، ۶۳۸، ۵۸۶، ۵۸۵، ۵۳۹
نیک کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا حکم:	۵۷۱، ۵۵۹، ۵۳۷، ۵۱۸، ۴۵۰، ۴۱۴، ۴۰۷، ۱۲۴/۲
۱۷/۳	۳۵۲، ۲۰۴، ۶۷/۳
قیامت کے دن اچھے برے سب اعمال کا بدلہ ملے گا:	، ۶۶۰، ۵۶۹، ۵۶۸، ۵۴۱، ۳۲۳، ۲۵۰، ۲۳۲/۴
۶۴۳، ۴۸/۲	۶۷۶
لفظ "بر" کا مفہوم:	۶۷۵، ۶۷۴، ۶۱۳، ۴۳۶، ۳۸۵، ۳۱۵، ۲۸۲/۶
۱۰۶/۲	۳۵/۷
۲۵/۳	۴۹۴، ۴۶۲، ۳۹۷، ۳۳۳، ۳۳۳، ۲۹۵، ۲۹۱، ۲۱/۸
مغفرت کا سبب بننے والے اعمال:	اعمال صالحہ کا جامع تذکرہ:
۱۸۱/۲	۶۹۱، ۴۳۳، ۴۳۰، ۴۱۴، ۳۱۳/۱
اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہئے:	۱۸۱۴۱۷۸/۴
۲۰۱/۲	اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہ کرنے کی تعلیم:
۳۱۴، ۳۱۳/۸	۳۲۸/۱
نیک اعمال پر مدح کے انتظار کی ممانعت:	قیامت کے دن کوئی دوسروں کے اعمال کا ذمہ دار نہ ہوگا:
۲۵۸/۲	۳۵۷، ۳۳۹/۱
برے اعمال سے توبہ کی قبولیت:	نیک کام میں جلدی کرنی چاہئے:
۵۳۷، ۳۳۳/۲	۳۹۰/۱
۷۱/۳	کافروں کے اعمال کی حالت:
۳۵۲/۴	۴۱۰/۱
۴۱۴، ۴۱۳/۵	وہ لوگ جن کے اعمال ضائع ہیں:
کسی عمل کے مقبول ہونے کی شرطیں:	۵۴۰، ۵۱۶/۱
۵۵۷۳۵۵۵/۲	



طے جلے اعمال کرنے والوں کے متعلق حکم:	۶۰۳۵۶۰/۳
۴۵۵۵۴۵۲/۴	۴۶۰/۵
اعمال صالحہ کے متعلق الہی ضابطہ:	نیکی اور گناہ کی طرف دعوت دینے والوں کے متعلق
۵۹۳/۴	ایک ضابطہ:
۳۶۵/۷	۲۵/۳
۲۴۵/۶	نیکی کی ایک نقد جزا:
خالص دنیا داروں کو دنیا ہی میں بدل مل جاتا ہے:	۵۸۴،۵۷۶،۸۲/۳
۶۰۱/۳	اصلاح اعمال کا طریقہ:
نیک کاموں میں درجات کا فرق:	۱۸۳/۳
۲۹۳/۵	اعمال صالحہ کی برکات:
برے اعمال کی سزا:	۱۹۳،۱۹۲/۳
۶۲۴،۴۸/۴	۱۵،۱۴،۱۲/۳
۳۹۴،۳۳۳/۵	۷۹۶،۷۵۹،۷۵۲،۷۴۸،۵۶۶،۵۶۲/۸
۷۵۱،۷۰۲،۶۶۷،۶۰۹/۶	اعمال صالحہ کی فضیلت:
۸۰۴،۷۸۹،۷۷۹،۶۶۶،۶۳۷،۶۹۶،۶۵/۷	۵۰۴،۵۰۱،۴۰۰/۳
۸۰۴،۸۰۱،۵۰۲،۳۵۰،۲۱۰،۱۷۷/۸	۳۳۷/۳
اعمال صالحہ کی مستقل حیثیت:	۷۶۱۵۷۵۹/۸
۵۹۳/۵	چند شیطانی اعمال:
جزاء عین عمل ہے:	۲۲۵/۳
۵۹۶/۵	کافروں کے لئے ان کے برے اعمال کی ترمیم:
والدین کی نیکی کا دنیوی فائدہ:	۴۳۴،۴۱۷/۳
۶۲۱/۵	۵۱۵،۴۷۰،۴۵۵/۳
اعمال صالحہ کے ضائع ہونے کی صورتیں:	۳۵۸،۳۵۷/۵
۶۵۸/۵	۶۹۱،۵۶۹،۵۵۸/۶
۴۸،۴۷/۸	۳۲۰/۷
اعمال صالحہ کے لئے لازمی صفات:	ایک اہم ہدایت:
۶۶۳۵۶۶۱/۵	۲۰۹/۳
۶۳۰،۴۲۷،۵۲/۶	

اقب	اعمال کا محاسبہ:
قصہ اقب و بہتان:	۱۹۰/۶
۳۷۳ تا ۳۶۳/۶	اعمالِ صالحہ کے لئے قبولیت لازم نہیں:
مسلمانوں کو تنبیہ:	۵۶۷/۶
۳۷۹، ۳۶۹، ۳۶۸/۶	اعمالِ صالحہ کا ایک فائدہ:
اس واقعہ میں ملوث کافروں اور منافقوں کی سزا:	۶۳۳/۶
۳۸۴، ۳۸۲/۶	نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے:
اکراہ	۶۳۷/۶
اکراہ کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام:	اعمالِ صالحہ کی مثال:
۴۰۶، ۴۰۵/۵	۳۳۳/۷
اکراہ کی تعریف و تحدید:	اعمال کے اثرات بھی لکھتے جاتے ہیں:
۴۰۷/۵	۳۶۵/۷
اکل و شرب	شرک سے اعمالِ ضائع ہو جاتے ہیں:
کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے:	۵۷۲/۷
۵۴۳/۳	اچھے اور برے اعمال ظاہر ہو کر رہتے ہیں:
(کھانے پینے کی اشیاء کے حلال و حرام ہونے کی بحثیں	۴۴/۸
”حلال و حرام“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں)	جدا اعمال کا مطلب:
الحاد	۴۷/۸
الحاد کی تعریف و اقسام:	قول و فعل کے تضاد کی قباحت:
۶۵۸/۷	۴۲۳، ۴۲۱/۸
ایک مغالطہ کا ازالہ:	حسن عمل کیا ہے:
۶۵۹/۷	۵۱۷/۸
القاب	اعمالِ صالحہ کی ترغیب:
لوگوں کو القاب سے پکارنے کی بحث:	۶۰۱، ۵۸۸/۸
۱۱۸/۸	(مزید تفصیل کے لئے ”تزکیہ نفس“، ”تقویٰ“ اور
	”خوف خدا“ کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں)

واضح لغت خود اللہ تعالیٰ ہیں:

۱۳۳،۸۰/۱

اللہ تعالیٰ کی شان مالکیت و حاکمیت:

۶۸۹،۶۱۴،۴۹۸،۳۹۶،۲۹۶،۲۸۲،۸۳/۱

۴۲۸،۲۵۷،۲۵۶،۲۵۰،۱۷۵،۱۷۲،۱۲۶،۴۳/۲

۵۷۰،۵۶۹،۵۵۳

۵۷۱،۲۹۰،۲۸۸،۱۲۶،۸۸،۸۷،۱۱/۳

۵۵۳،۵۵۲،۵۴۹،۵۲۷،۴۷۳،۳۷۰،۸۹/۴

۵۴۱،۴۵۴،۴۴۱،۱۸۰،۱۷۹،۱۶۸/۵

۲۸۰،۲۴۷،۲۴۶،۱۷۶،۱۷۵،۱۱۳،۶۳،۵۸،۳۰/۶

۴۸۱،۴۵۶،۴۵۴،۴۴۴،۴۲۶،۲۸۷

۲۹۰،۲۸۹،۲۶۵،۲۵۰،۲۳۲،۶۰،۴۶،۴۳/۷

۵۷۱،۵۶۲،۴۸۹،۴۱۵،۴۱۳،۴۱۱،۳۵۷،۳۴۵

۸۱۳،۷۸۹،۷۵۲،۷۱۴،۷۱۱،۶۷۰،۵۷۲

۲۵۴،۲۵۰،۲۴۲،۲۱۰،۱۴۵،۷۳،۶۹،۶۸/۸

۶۳۳،۵۸۷،۵۱۰،۵۰۲،۴۶۲،۲۹۶،۲۹۵،۲۹۱

۷۱۶،۶۵۲

تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے:

۱۰۱،۸۶/۱

۲۵۲،۲۴۹/۸

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر انسان کا فطری فرض ہے:

۹۳/۱

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔

۶۱۳،۶۱۱،۴۰۶،۹۸/۱

۴۹۷،۴۴،۱۶،۱۵،۱۴/۲

۴۴۱/۳

۵۹۶،۴۹۵،۴۶۳،۸۹/۴

۶۶۱،۴۱۶،۴۱۵،۱۹۶/۵

اللہ جل شانہ

اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت:

۵۹۲،۴۹۶،۴۷۷،۲۸۱،۸۲،۷۶/۱

۵۳۷،۴۵۶،۴۲۰،۴۱۹،۳۷۵،۳۷۴،۲۳۹،۹۲/۲

۵۹۲،۵۹۰

۴۷۳،۴۰۰،۴۲۸،۴۳۰،۲۹۰،۱۲۶،۸۷،۶۶/۳

۵۰۴

۷۷،۷۶،۷۵،۱۶/۴

۶۰۱،۴۵۸،۴۲۸،۱۲۷/۵

۷۵۹،۷۱۵،۶۵۶،۵۶۰،۱۲۹/۶

۷۰۰،۵۶۹،۵۶۸/۷

۴۴۳،۴۰۵،۲۹۵،۲۱۰/۸

تمام تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے:

۷۹/۱

۴۹۰،۴۸۹/۷

۴۶۲/۸

اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت و ربوبیت:

۵۰۱،۱۳۳،۹۷،۸۰/۱

۵۰۸/۳

۵۹۳،۵۸۸،۵۲۷/۴

۶۱۲،۴۷۱،۱۹۵/۵

۷۰۷،۶۶۳،۶۶۳،۵۹۳،۵۶۹،۵۶۸،۴۰۵،۴۸/۶

۷۴۳

۵۶۵،۵۴۵،۵۲۹،۴۹۶،۴۰۱،۲۹۸،۷۵،۴۶/۷

۶۸۵،۶۸۴،۶۷۳،۶۴۸،۶۳۷،۶۳۳،۶۳۲

۷۲۸،۷۲۷،۶۹۷،۶۹۶

۱۷۲،۱۷۱/۸

۵۹۳، ۵۷۸، ۵۵۳	۶۷۰، ۶۶۹، ۶۵۷، ۵۶۹، ۴۴۸/۶
۴۵۶، ۴۵۱، ۱۸۷، ۱۸۴، ۱۷۹، ۱۷۱، ۱۶۵، ۱۵۶/۵	۶۱۴، ۵۷۹، ۵۴۶، ۵۴۴، ۵۲۹، ۴۴۱، ۴۴۰، ۴۱۵/۷
۴۴۷، ۴۴۷، ۴۴۳، ۴۴۱، ۴۱۸، ۴۱۳، ۴۱۹	۷۹۴، ۷۵۶، ۶۳۴، ۶۱۵
۴۵۵، ۴۷۱، ۴۷۰، ۴۶۴، ۴۵۸، ۴۶۴، ۴۶۴	۵۸۷، ۵۷۴، ۴۹۰، ۴۶۹، ۴۶۰، ۴۵/۸
۵۰۶، ۵۰۵، ۴۵۶	اللہ تعالیٰ کی ایک سنت:
۴۰۱، ۴۸۱، ۴۸۰، ۴۳۹، ۱۸۳، ۱۷۴، ۱۱۶، ۱۱۵/۶	۱۱۹/۱
۴۴۷، ۴۴۳، ۴۴۲، ۴۴۷، ۴۴۵، ۴۰۷، ۴۰۵	اللہ تعالیٰ کی شانِ قدرت:
۷۲۸، ۶۶۰، ۶۵۸، ۶۵۷، ۵۹۴، ۵۱۴، ۵۱۱، ۴۹۷	۴۰۹، ۴۸۷، ۴۰۶، ۴۰۴، ۴۰۳، ۲۸۸، ۲۴۶، ۱۲۳/۱
۷۶۰، ۷۵۹، ۷۴۹، ۷۴۴	۶۸۹، ۶۴۱، ۶۰۹
۴۴۵، ۴۴۵، ۴۴۳، ۴۹۱، ۷۴، ۴۸، ۴۳، ۴۸/۷	۵۹۳، ۵۶۹، ۵۵۳، ۴۵۷، ۴۶/۲
۵۴۵، ۴۱۴، ۴۱۱، ۴۰۹، ۴۰۶، ۴۹۴، ۴۸۰، ۴۵۴	۴۴۰، ۴۵۷، ۴۴۵، ۴۱۴/۳
۶۳۴، ۶۴۱، ۶۱۵، ۶۱۴، ۵۸۸، ۵۵۰، ۵۴۹، ۵۴۸	۴۵۷/۴
۷۱۱، ۷۰۱، ۶۹۶، ۶۷۳، ۶۶۸، ۶۶۵، ۶۵۴، ۶۳۹	۶۴۸، ۵۴۵، ۴۴۷/۵
۷۷۹، ۷۷۶، ۷۴۰، ۷۱۹	۷۲۸، ۶۵۸، ۵۴۴، ۴۸۱، ۴۴۴، ۴۴۲، ۴۸۰، ۴۰/۶
۴۵۸، ۴۵۱، ۴۴۹، ۴۴۴، ۴۴۲، ۴۴۱، ۱۶۹، ۱۶۱، ۱۳۴/۸	۷۴۴
۵۱۸، ۵۱۴، ۵۱۰، ۴۹۴، ۴۹۱، ۴۸۱، ۴۷۸، ۴۶۴، ۴۶۲	۵۴۵، ۴۱۴، ۴۱۱، ۴۵۴، ۴۱۸، ۴۱۶، ۴۰۵، ۴۴/۷
۷۲۹، ۶۷۴، ۶۶۴، ۶۵۵، ۶۵۴، ۶۵۱، ۵۶۴، ۵۱۹	۶۷۴، ۶۷۱، ۶۵۴، ۶۴۴، ۵۷۴، ۵۷۱، ۵۶۱، ۵۴۸
۷۸۰، ۷۴۰	۷۸۹، ۷۷۶، ۶۹۷
اللہ تعالیٰ کی انفسی نعمتیں اور ان پر غور و فکر کی دعوت:	۴۹۱، ۴۵۵، ۴۵۴، ۴۴۷، ۴۱۷، ۴۱۶، ۱۳۵، ۱۳۲/۸
۱۷۴، ۱۷۱، ۱۳۳، ۱۳۱/۱	۶۷۱، ۶۵۱، ۵۷۴، ۵۱۹، ۵۱۴، ۵۱۴، ۵۱۰
۴۷۹، ۴۷۸، ۱۷، ۱۶/۲	اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ممانعت:
۴۰۴، ۴۰۳، ۴۹۹، ۴۷۷، ۴۴۴/۳	۱۳۱/۱
۵۴۴، ۱۴۸، ۱۴۵/۴	اللہ تعالیٰ کی آفاقی نعمتیں اور ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت:
۴۸۰، ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۱۸/۵	۴۰۶، ۱۷۴، ۱۷۱، ۱۴۷، ۱۴۴، ۱۴۱/۱
۴۰۵، ۴۰۱، ۴۰۰، ۴۶۰، ۴۵۷، ۴۴۴، ۴۴۹/۶	۴۶۰، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۴/۲
۷۶۵، ۷۶۴، ۷۴۶، ۷۴۴، ۷۴۲، ۷۳۳، ۴۸۶، ۴۸۰	۴۰۷، ۴۹۸، ۴۷۰، ۴۵۲، ۴۹۵، ۴۸۵، ۴۷۷/۳
۷۶۷	۵۸۶، ۵۸۵، ۵۷۱، ۴۶۷، ۴۶۶
۴۱۴، ۴۱۱، ۴۰۶، ۴۰۵، ۴۰۱، ۴۴۵، ۴۴۴، ۶۰/۷	۵۲۴، ۵۰۸، ۵۰۴، ۴۹۸، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۴/۴

۲۵/۲	۸۰۱، ۶۷۳، ۶۱۵، ۶۱۴، ۵۳۹، ۵۳۸، ۵۳۵، ۴۱۵
۳۵۲، ۲۹۳، ۲۹۱/۳	۵۱۳، ۴۸۰، ۴۸۰، ۴۷۸، ۴۴۱، ۴۱۲، ۴۱۱، ۱۶۲، ۱۶۱/۸
۵۸۰، ۳۵۲/۴	۶۷۵، ۶۷۱، ۶۵۵، ۶۵۳، ۶۳۱، ۶۲۲، ۵۶۲، ۵۲۰
۵۱۵، ۴۹۸، ۱۰۳/۵	۷۷۴، ۷۱۸، ۷۱۶، ۶۸۷، ۶۸۶، ۶۷۶
۷۴۳، ۷۱۳، ۵۹۴، ۴۲۷، ۴۳۶، ۴۳۳، ۱۳۳/۶	اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں بیان فرماتے ہیں:
۵۵۹/۷	۶۲۹، ۱۶۶/۱
۴۶۹، ۴۶۸/۸	اللہ تعالیٰ کی شانِ علم:
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مختلف فیہ مسائل کا فیصلہ کریں گے:	۵۸۵، ۴۸۷، ۴۶۶، ۴۶۴، ۴۵۷، ۴۵۰، ۱۷۷/۱
۲۹۱، ۲۹۰/۱	۶۱۴، ۶۱۲، ۵۸۷
۶۰۰، ۲۷۷، ۲۳۶/۲	۵۵۳، ۱۵۶، ۱۲۴، ۴۸، ۱۶/۲
اللہ تعالیٰ کی صفات کا مکمل اور اک ممکن نہیں:	۴۵۲، ۴۰۸، ۳۷۰، ۳۴۳، ۲۷۷، ۲۴۱، ۲۳۶، ۷۸/۳
۶۱۳، ۲۹۷/۱	۶۷۵، ۵۸۸، ۵۸۴، ۵۴۵، ۵۴۱، ۴۲۵، ۳۲۳/۴
۵۰۲/۲	۵۰۰، ۴۹۶، ۴۸۰، ۴۳۸، ۴۱۱، ۱۸۱، ۱۷۲، ۱۷۳/۵
۵۱۷/۶	۴۸۶، ۴۸۲، ۴۳۳، ۱۶۸، ۱۴۹، ۱۴۴، ۶۶، ۶۴/۶
۵۱۵، ۵۱۴، ۴۲۰/۸	۷۰۲، ۶۵۷، ۵۶۹، ۴۹۷، ۴۵۹، ۴۵۴، ۴۵۳
اللہ تعالیٰ کی بیوی اور اولاد سے پاکیزگی:	۲۵۳، ۲۵۰، ۵۷۷، ۴۹، ۴۸، ۴۴، ۴۸، ۳۳، ۳۲/۷
۳۰۳/۱	۷۵۱، ۶۶۵، ۵۸۹، ۵۸۸، ۵۶۷، ۵۴۰، ۴۵۳، ۳۲۳
۴۰۶، ۴۰۵/۳	۴۳۲، ۴۳۱، ۴۱۷، ۴۹۱، ۱۴۰، ۱۳۷، ۱۲۷، ۴۴، ۳۵/۸
۵۵۳/۴	۵۷۴، ۵۷۳، ۵۱۲، ۵۱۱، ۴۹۴، ۴۶۲، ۴۵۸، ۴۹۷
۵۴۸، ۵۴۴، ۵۴۱، ۴۵۵، ۴۵۴/۵	۷۴۱، ۵۸۴
۴۵۷، ۴۵۶، ۴۲۷، ۱۷۹، ۱۷۷، ۱۷۵، ۵۸، ۳۰/۶	اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کی حکمت معلوم ہونا ضروری نہیں:
۵۸۹، ۵۶۴، ۵۵۵، ۵۴۰، ۵۳۵، ۴۳۴، ۲۹۱، ۷۲/۷	۲۴۶/۱
۷۸۲، ۷۵۴، ۷۵۲	اللہ تعالیٰ کے خوف سے پتھروں کا گرتا:
۸۴۴، ۸۴۲، ۵۷۰/۸	۲۴۷/۱
اللہ تعالیٰ کی مکان اور سمت سے پاکیزگی:	یہود سے عہد الہی کی نفی:
۴۵۹، ۴۰۲/۱	۲۵۲، ۲۵۱/۱
	اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتا:
	۴۰۶، ۲۷۰/۱

۵۹۷/۶	اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہے:
اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سکے گا:	۶۰۶، ۴۷۲، ۳۹۳/۱
۶۱۴/۱	۲۸۰، ۲۵۳/۳
اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت:	اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود:
۶۱۵/۱	۳۵۳/۱
اللہ تعالیٰ کی شانِ تخلیق:	اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ:
۶۲۶، ۶۱۸/۱	۵۴۳، ۴۷۳، ۴۷۲/۱
۶۸، ۶۷، ۴۶، ۴۳، ۱۷، ۱۶، ۱۴/۲	۲۱۵، ۲۰۰، ۱۸۴، ۹۴، ۵۹، ۴۴/۲
۵۷۱، ۴۶۹، ۴۶۶، ۳۹۸، ۳۷۰، ۳۷۷، ۳۰/۳	۱۴۳، ۸۳، ۸۱/۳
۵۸۹، ۵۲۷، ۵۰۴، ۵۰۳، ۴۹۸، ۴۳۲/۴	۳۶۰، ۳۱۶، ۳۰۵/۴
۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۰۵، ۳۰۰، ۲۲۸، ۶۳/۶	۳۳/۷
۷۳۳، ۴۵۷	اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم:
۶۳۲، ۶۰۸، ۵۷۱، ۴۵۴، ۴۲۳، ۴۱۶، ۶۰، ۲۸/۷	۶۸۴، ۶۴۶، ۵۷۹، ۵۷۰، ۵۴۳/۱
۷۹۲، ۷۲۰، ۷۱۹، ۷۱۱، ۶۸۵، ۶۷۳، ۶۳۴، ۶۳۳	۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۳، ۱۷۶، ۱۷۰، ۱۶۲/۲
۸۱۶	۲۳۳، ۲۱۹، ۱۷۰، ۱۰۱، ۷۳، ۶۷، ۴۰/۳
۴۹۱، ۴۷۸، ۴۶۸، ۴۴۱، ۴۳۷، ۴۳۹، ۴۳۲، ۴۳۱/۸	۱۷۲/۴
۶۸۶، ۶۷۶، ۶۷۱، ۶۴۶، ۴۹۴، ۴۶۴، ۴۶۲، ۴۰۵	۶۰۹، ۴۷۳، ۴۶۸، ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۶۵، ۱۱۰/۸
۷۵۱، ۷۵۰، ۷۳۳، ۷۳۲، ۷۲۹، ۷۲۳، ۷۲۱، ۷۱۱	اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعض فوائد:
۷۸۴، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۵۵، ۷۵۳	۶۶۳، ۴۷۵/۸
ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے:	لفظ ”اللہ“ کا مفہوم:
۶۳۸/۱	۶۱۳/۱
۲۳/۲	الحج القیوم کی تشریح:
۴۴۱، ۴۳۵، ۴۱۷، ۴۱۵/۳	۶۱۳/۱
۵۷۸، ۵۴۹، ۵۲۷، ۱۴۹، ۱۲۴، ۱۲۳/۴	کلی اختیار اور علم غیب کی صفات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ
۵۶۵، ۴۹۶، ۳۹۴، ۲۲۳، ۲۱۹، ۲۰۳، ۱۹۵/۵	اختصاص:
۷۴۲، ۶۴۸، ۴۳۵، ۴۲۳، ۴۱۹/۶	۶۱۳/۱
۷۰۹، ۶۷۱، ۵۹۷، ۵۷۲، ۵۷۱، ۵۵۸، ۴۲۱/۷	۳۳۵/۳
۷۸۶، ۷۷۵، ۷۳۶، ۷۱۰	۵۲۱/۴

اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں:	۶۰۷، ۱۵۳، ۱۵۲/۸
۱۹۲/۲	اللہ تعالیٰ کی اہم صفات:
۵۲۸، ۲۱۹، ۱۹۰/۳	۱۸، ۱۷/۲
۴۴۴، ۲۶۵/۳	۳۴۵/۳
۳۲۸/۵	۱۳۶/۳
۷۰۳/۷	۵۸۹، ۵۸۸، ۵۸۳، ۵۸۳، ۵۷۹/۷
اللہ تعالیٰ کا مؤمن اور کافر میں فرق کرنے کا طریقہ:	۷۱۲، ۷۱۱، ۴۶۹، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۹۴، ۳۹۰/۸
۱۹۲/۲	حسب الہی کے دعویٰ کی کوئی:
۲۰۰/۳	۵۵، ۵۳/۲
اللہ تعالیٰ بہتر کارساز ہیں:	اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ:
۶۱۵، ۵۶۹، ۴۸۷، ۴۳۹/۲	۱۹۲، ۵۳/۲
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت:	اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں سے تین عہد:
۵۴۸، ۲۶۹، ۲۶۳/۲	۹۹/۲
۶۱۱، ۵۳۸، ۵۰۱، ۱۳۶، ۱۳۳/۳	اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں:
۵۳۲، ۵۴۱، ۳۷۶/۵	۱۳۳/۲
۶۵۷، ۴۵۷، ۴۵۶، ۵۸/۶	اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ چیزیں:
۵۳۵/۷	۱۳۳/۲
۸۴۴، ۸۴۳، ۸۴۲/۸	۶۶۱/۳
اطاعت الہیہ کی تین عملی صورتیں:	اللہ تعالیٰ کی شانِ عدل:
۴۵۲، ۳۵۰/۲	۴۱۹، ۲۵۱، ۱۵۳، ۱۳۶/۲
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کی گواہی:	۶۸۰، ۵۳۹، ۵۳۵/۳
۴۸۱/۲	۵۳۳/۵
اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے:	۱۳۹/۸
۵۵۲، ۴۹۷/۲	اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر لعنت کرتے ہیں:
اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اعزاز:	۴۴۳، ۴۳۱، ۱۰۴، ۸۳/۲
۵۲۳/۲	۵۰۴، ۲۰۹، ۱۸۲/۳
	۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۳/۵

۲۳۳،۲۳۰/۵	اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا معیار:
۶۸۳،۵۷۴،۵۱۰،۵۰۱،۲۸۰/۶	۵۸۲،۵۵۵/۲
۵۲۲۵۲۰،۳۳۱،۳۱/۷	عزت صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہئے:
۸۳۳،۸۳۲،۳۶۲،۱۷۳،۱۷۱،۵۱،۴۸،۴۷/۸	۵۸۲/۲
اللہ تعالیٰ کی طرف غلط حکم کی نسبت کی قباحت:	اللہ تعالیٰ نیکی کے قدر دان ہیں:
۵۳۰/۳	۵۸۹/۲
استواء علی العرش کا مفہوم:	اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ:
۵۷۳/۳	۷۶/۳
۵۰۱،۳۹۶/۴	اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا جبالت ہے:
عزت، ذلت صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں:	۱۵۹/۳
۳۵۳۳۳/۲	اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ:
۵۱/۳	۲۱۱،۱۷۳/۳
اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہونا چاہئے:	اللہ تعالیٰ کے قابل تعریف ہونے کی وجہ:
۱۷،۱۶/۴	۲۷۸/۳
۱۶۱/۵	اللہ تعالیٰ کے متعلق مختلف فرقوں کے عقائد:
آسماء حسنیٰ کی تشریح:	۲۷۹،۲۷۸/۳
۱۳۱۷۱۲۹/۴	زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے:
اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا مددگار ہے:	۲۵۰/۳
۳۹۳،۳۶۹،۲۷۷،۲۵۰،۲۳۲،۱۹۹/۴	۷۳۳/۶
۳۳۵،۳۱۹/۵	۷۸۷،۷۵۶/۷
اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی قباحت:	۵۱۵،۵۱۰،۴۹۱،۱۵۲،۱۵۱/۸
۳۰۶/۴	اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس کرنا جبالت ہے:
۴۱۳/۵	۳۵۱/۳
الہی انعامات کی بقاء کا ضابطہ:	رؤیت باری تعالیٰ کی بحث:
۳۶۲/۴	۳۱۲۳۳۰۸/۳
اللہ تعالیٰ کا فضل ہی اصل خوشی کی چیز ہے:	اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی:
۵۳۳/۴	۳۵۶،۳۵۹/۳
	۵۹۱،۳۸۷،۳۵۷/۴



غیر اللہ کے عاجز ہونے کی مثال:	۶۲۷/۴	ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے:	۲۸۶، ۲۸۵/۶
بقاء صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے:	۱۰۵/۵	اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہئے:	۶۷۱، ۶۷۰/۶
اللہ تعالیٰ کے حلم و کرم کا ایک عجوبہ:	۳۷۸/۵	اللہ تعالیٰ کو دنیوی بادشاہوں سے تشبیہ دینا غلط ہے:	۲۵۲، ۲۵۱، ۲۴۹/۸
اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز:	۳۹۲۴۲۸۷/۵	اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات:	۱۰۱/۷
اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں:	۲۸۷، ۲۸۶/۵	زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے:	۲۹۸/۷
	۷۲۸، ۴۳۳، ۴۳۲، ۵۹، ۶/۶		۱۱۵/۱
	۲۶۰/۷		۶۰۲، ۳۹۸، ۳۰۳/۷
اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو تھامنے والے ہیں:	۴۶۱، ۴۳۳، ۴۳۳، ۴۳۱، ۴۳۰، ۳۹۳، ۳۵۶، ۲۹۱/۸		۳۵۳/۷
	۳۶۲		اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان:
اللہ تعالیٰ کے کمالات غیر محدود ہیں:	۶۶۰/۵		۳۱۶، ۳۰۸/۷
کسی معبود باطل کا نام اللہ نہیں:	۳۹/۶		پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں:
اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے:	۵۳۹، ۴۸/۶		۳۲۶، ۳۲۳/۷
اللہ تعالیٰ غلطی کرنے اور بھولنے سے پاک ہیں:	۱۱۶، ۱۱۵/۶		غیر اللہ کی طرف صفت تخلیق منسوب کرنے کا عدم جواز:
قیامت کے دن الہی ہیبت:	۱۳۹، ۱۳۸/۶		۴۷۳/۷
اللہ تعالیٰ کی عظمت شان:	۳۳۸، ۱۳۹/۶		اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں:
زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے:	۲۲۸۴۲۳۶/۶		۵۳۲، ۵۳۰/۷
			اللہ تعالیٰ کی کج روی سے نفرت:
			۵۹۸، ۵۹۷/۷
			بارش کے متعلق الہی ضابطہ:
			۷۰۰/۷
			اصل حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے:
			۶۷۳/۷

اللہ تعالیٰ کے مخصوص ناموں کے آداب:	اولاد دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے:
۷۲۲/۸	۷۱۲، ۷۱۱/۷
اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں:	اللہ تعالیٰ کے انسانوں سے کام کرنے کا طریقہ:
۷۵۴، ۴۵۷/۸	۷۱۲ تا ۷۱۵/۷
اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لائق بعض امور:	اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی:
۸۵۵ تا ۸۴۵/۸	۷۷۱، ۶۶۹/۷
حضرت الیاس علیہ السلام	اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کی شرط:
آپ کی نبوت کا اثبات:	۲۹، ۲۸/۸
۳۸۵/۳	اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا مطلب:
آپ کا مختصر تعارف:	۱۷۰/۸
۴۷۰، ۴۶۹/۷	انس و جن کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کا مقصد:
قوم کو دعوت و تبلیغ اور اس کی سرکشی:	۱۷۱/۸
۴۷۰/۷	خوشی، غمی اور فقر و غنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے:
آپ کو نبی نہ ماننے والوں کی ہلاکت:	۲۲۰/۸
۴۷۲/۷	اللہ تعالیٰ کی ایک روحانی نعمت:
آپ کیا حیات ہیں:	۲۳۱/۸
۴۷۲/۷	ہر وقت، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہوتی ہے:
أمانت	۲۵۳، ۲۴۹/۸
أمانت ادا کرنے کی تاکید:	أول، آخر، ظاہر، باطن کی تشریح:
۴۳۶، ۴۳۳/۲	۲۹۳، ۲۹۲/۸
خیانت کی قباحت:	اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی دو چیزیں:
۴۳۶، ۴۳۰/۲	۳۱۹ تا ۳۱۷/۸
أمانت کی قسمیں:	اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کی مخالفت کی سزا:
۴۴۷، ۴۴۶/۲	۵۷۳، ۵۷۲، ۴۶۵، ۴۵۷، ۳۳۷، ۳۳۳/۸
خیانت کرنے کی ممانعت:	رضائے الہی کے لئے کسی محبوب چیز کو چھوڑنے کا ثمرہ:
۲۱۱/۳	۴۰۹/۸
۶۹۱، ۶۹۰/۸	حدود الہیہ کی خلاف ورزی کا نقصان:
	۴۸۱/۸

ہر امت پر قربانی کی فرضیت:	۲۶۶، ۲۶۴/۶	آمانت کا وسیع مفہوم:	۲۸۸/۳
ہر امت کے لئے جداگانہ ذبح کرنے کا طریق:	۲۸۲/۶	ناپ تول میں کمی کی حرمت:	۲۹۸/۶
گزشتہ امتوں کی سرکشی:	۳۱۷/۳	انسان کا پارہ آمانت کو قبول کرنا:	۲۳۳/۷
	۶۲۹/۴	عرض آمانت کی تحقیق:	۲۳۳، ۲۳۲/۷
	۳۵۸، ۳۵۷/۵	تمام امت بھی گمراہ نہ ہوگی:	۲۳۸، ۲۳۵/۷
	۶۸۱/۶	امت محمدیہ	
۸۰۲، ۷۸۹، ۷۲۰، ۶۴۳، ۵۸۰، ۳۵۶/۷	۱۸۳/۱	امت کا مفہوم:	۵۰۳/۱
امت محمدیہ کی خصوصیات:	۶۹۸، ۳۹۶، ۳۷۳، ۳۶۵/۱	قیامت کے دن امتوں کے احوال:	۳۱۹/۲
	۴۲۳، ۱۳۹/۲		۳۸۵/۵
	۷۴، ۳۶/۳	دوزخ میں امتوں کے احوال:	۶۶۰، ۶۰۷/۶
۲۳۸، ۲۳۷، ۱۷۴، ۱۳۵، ۸۹، ۷۷/۴	۳۳۵، ۳۳۳/۷	ہر امت کے لئے ایک رسول ہے:	۵۵۵/۳
	۵۲۶، ۲۹۱، ۲۸۷/۶		۵۳۷/۴
	۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۳، ۲۷۰/۸	امتوں کی ہلاکت کے متعلق ضابطہ:	۳۳۶/۵
امت محمدیہ پر تین باتوں کا خوف:	۲۱/۳		۲۷۹/۵
امت محمدیہ پر کفار کا غلبہ:	۳۶/۲		۳۱۳/۶
اصلاح امت کا طریقہ:	۱۸۷/۳		

حقیر چیزوں کی مثالوں پر کافروں کا اعتراض اور اس

کا جواب:

۱۶۷/۱، ۱۶۷/۱

مثالیں ذکر کرنے کا فائدہ:

۱۶۸/۱

۳۲۰/۶

مثال میں کسی حقیر یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی عیب نہیں:

۱۶۹/۱

کافروں کی مثالیں:

۳۱۳، ۳۱۲/۱

۱۵۳/۲

۳۳۶۵۳۳۳/۳

۶۰۸، ۱۲۸۵۱۲۳/۴

۳۱۰، ۲۳۵، ۲۳۳، ۲۳۰، ۱۸۶، ۱۷۹/۵

۶۰۲، ۶۰۱، ۳۳۱، ۳۲۰/۶

۶۰۸، ۵۵۴، ۳۶۳، ۳۶۱، ۳۳۲/۷

۳۲۳/۸

غیر مقبول صدقہ کی مثال:

۶۳۳، ۶۲۹، ۶۲۸/۱

مقبول صدقہ کی مثال:

۶۳۳، ۶۳۱، ۶۲۹، ۶۲۸/۱

عیسیٰ علیہ السلام کی مثال:

۸۴/۲

مسلمانوں کی مثالیں:

۳۳۶۵۳۳۳، ۳۶۹/۳

۶۰۸/۴

۶۰۸، ۵۵۴، ۳۳۲، ۳۳/۷

امت محمدیہ پر دنیوی عذاب:

۳۶۲/۳

امت محمدیہ سے الہی خطاب:

۵۱۵/۳

امت محمدیہ کے زوال کی وجوہ:

۱۳۶/۴

غیر مسلموں کی ترقی کے متعلق ایک شبہ کا جواب:

۱۳۶/۴

امت محمدیہ کی بنی اسرائیل سے تشبیہ:

۳۱۹/۴

امت محمدیہ کو خصوصی ہدایات:

۱۵۱، ۳۶/۵

امت کے پہلے اور آخری طبقہ میں فرق:

۲۷۹/۵

اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ سے اجتماعی وعدہ:

۳۳۸/۶

امت محمدیہ کی تین قسمیں:

۳۳۵/۷

ایک شبہ کا جواب:

۳۳۶/۷

امت محمدیہ کو تشبیہ:

۳۵۵/۷

حضور علیہ السلام کی اپنی امت پر شفقت:

۷۹۹/۸

امثال

منافقوں کی مثالیں:

۱۲۳، ۱۲۲/۱

۳۸۶، ۳۸۵/۸

ایمان و کفر کی مثال:	۳۳۲/۷	بلعم باعور کی مثال:	۱۲۲، ۱۲۱، ۱۱۸/۴
اعمال صالحہ کی مثال:	۳۳۳/۷	خالص دنیا داروں کی مثال:	۲۶۶/۴
انسانی دنیوی زندگی کی مثال:	۵۳۹/۷	دنیوی زندگی کی مثال:	۵۳۴/۴
خواہشات نفسانی کی مثال:	۷۸۷/۷	منکر قرآن کی مثال:	۶۰۶، ۶۰۵، ۶۰۲/۴
صحابہ کرام کی مثال:	۹۴، ۹۳، ۸۹/۸	حق اور باطل کی ایک مثال:	۱۸۶/۵
نجیبت کی مثال:	۱۲۱/۸	توحید اور شرک کی مثالیں:	۳۷۶، ۳۷۱، ۳۷۰، ۱۸۶/۵
موت کے قبضہ قدرت میں ہونے کی مثال:	۲۸۸/۸	کلمہ ربطیہ کی مثال:	۲۴۷، ۲۴۵، ۲۴۳/۵
قبیلہ بنو نضیر کی مثال:	۳۸۵/۸	عہد معنی کی مثال:	۳۹۴، ۳۹۳/۵
قرآنی تاثیر کی مثال:	۳۹۳، ۳۹۲، ۳۸۹/۸	دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری کی مثالیں:	۵۹۴، ۵۹۳، ۵۹۰/۵
عالم بے عمل کی مثال:	۴۳۷، ۴۳۶، ۴۳۳/۸		۳۱۵، ۳۱۴/۸
قرآن مجید سے اعراض کرنے کی مثال:	۶۰۸/۸	شرک کی مثالیں:	۶۹۳، ۶۹۲، ۲۶۲/۶
امر بالمعروف ونہی عن المنکر		ابطال شرک کی مثال:	۷۴۵، ۷۴۱، ۲۸۶، ۲۸۵/۶
امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی اہمیت:	۱۳۲، ۱۳۷، ۱۳۳/۲	نور ہدایت کی مثال:	۴۲۳، ۴۲۲، ۴۱۹، ۴۱۸/۶
	۲۰۹/۳	حق کے ساتھ باطل کے ٹکرانے کی مثال:	۳۱۲/۷
	۴۱۳، ۴۱۰/۴		
	۸۱۴، ۷۵۲/۸		

انبیاء و اولیاء کے ساتھ برے سلوک کی قباحت:	۱۲۸/۱	س کام کی حدود و قیود:	۱۳۳، ۱۳۸/۱
سحر، انبیاء کرام کی شان کے لائق نہیں:	۲۷۲/۱	امر بالمعروف کے درجات:	۲۵۲، ۲۵۱/۳
کیا انبیاء پر بھی جاؤ ہو سکتا ہے:	۲۷۸/۱	دعوت الی الخیر کے دو درجے:	۱۳۹/۲
مؤمنوں کا تمام انبیاء کرام پر ایمان:	۶۹۶، ۶۹۳، ۳۳۰، ۳۵۳/۱	معروف و منکر کا مفہوم:	۱۳۰/۲
ایک شبہ کا ازالہ:	۹۹/۲	ایک ضروری ہدایت:	۲۵۱/۳
بعض انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے کچھ احوال:	۵۱۰/۱	۳۸، ۳۳/۷	
بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت:	۶۰۸/۱	اُمّ ولد	
سابقہ انبیاء کے تذکرہ کا مقصد:	۶۰۹/۱	اُمّ ولد کو فروخت کرنے کی ممانعت:	۲۳/۸
تمام انبیاء کرام کو ماننا ضروری ہے:	۳۹۶/۵	انبیاء کرام علیہ السلام	
انبیاء کرام کی مشترکہ صفات:	۶۹۶/۱	انبیاء کرام کی مشترکہ صفات:	۵۱۰، ۵۰۷، ۵۰۶، ۳۳۹، ۳۳۶، ۱۱۷/۱
انبیاء کرام کا گناہوں سے معصوم ہونا:	۲۵۹/۵	۵۷۱، ۹۶، ۳۶، ۱۶/۲	
نبی اور غیر نبی میں واضح فرق:	۲۷۲/۱	۶۰۸، ۳۵۷، ۳۹۵، ۳۷۱، ۲۶۳، ۱۶۳، ۱۵۵/۳	
	۹۶/۲	۶۱۶، ۳۲۲، ۳۱۵، ۱۲۳/۳	
	۳۷۱/۳	۳۳۵، ۲۲۳، ۱۵۹، ۱۲۶، ۱۲۹، ۵۶، ۲۸، ۷۷، ۱۹/۵	
	۱۶۳/۲	۵۳۳، ۵۱۲، ۵۱۰	
	۱۶۳/۲	۳۸۳، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۲۷، ۳۱۱، ۱۱۳، ۱۰۷، ۷۷/۶	
	۱۶۳/۲	۶۵۳، ۵۷۲، ۵۶۶، ۳۸۳	
	۱۶۳/۲	۶۹۰، ۶۱۸، ۵۷۲، ۵۶۶، ۲۳۰، ۲۰۳، ۱۷۷، ۱۵۷/۷	
	۱۶۳/۲	۷۳۹، ۷۲۸، ۷۱۵، ۷۱۳	
	۱۶۳/۲	۱۶۹/۸	

- انبیاء کرامؑ کے غیب دان ہونے کی نشی: ۲۰۰/۲
- ۶۱۶، ۱۲۷/۳
- کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے: ۵۹۳، ۵۹۲/۲
- ہر امت میں نبی آتے رہے ہیں: ۵۳۷/۳
- اکثر انبیاء نے حرام جانوروں کی وضاحت کی ہے: ۲۴۳/۳
- خواب کے جزء نبوت ہونے کا معنی: ۲۰/۵
- انبیاء کے نامین کی دو قسمیں: ۱۵۹/۳
- انبیاء سے اجتہادی غلطی ممکن ہے: ۱۲۸، ۳۸/۵
- قیامت کے دن انبیاء سے امتیوں کے متعلق سوال: ۵۱۷، ۵۱۶، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۱، ۲۶۰/۳
- پیغمبرانہ شفقت کی عجیب مثال: ۶۹/۵
- ایک شبہ کا ازالہ: ۲۶۱/۳
- شان نبوت: ۱۳۸/۵
- مؤمنوں کو انبیاء سے معجزہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے: ۲۶۸/۳
- انبیاء کرامؑ کے بشر ہونے کی وضاحت: ۵۳۳، ۲۱۲، ۱۵۷/۵
- مکفرین انبیاء کو تنبیہ: ۳۱۹/۳
- عورت نبی بن سکتی ہے یا نہیں: ۱۵۹/۵
- ۱۶۱/۵
- انبیاء کرامؑ اور مجتہدین میں فرق: ۱۶۲/۵
- کیا انبیاء کرامؑ سے نسیان ممکن ہے: ۳۷۱/۳
- کیا ہر قوم اور ہر ملک میں نبی آنا ضروری ہے: ۱۷۶/۵
- سترہ انبیاء کرامؑ کا تذکرہ: ۳۸۸، ۳۸۵/۳
- اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں سے وعدہ: ۲۷۳، ۲۷۰/۵
- انبیاء کرامؑ کے دشمن کون رہے ہیں: ۲۱۷/۳
- ہر جماعت کا رسول، اسی جماعت کے لوگوں میں سے بھیجا گیا: ۱۹/۳
- ۲۸۵/۵
- گزشتہ انبیاء کرامؑ کی تعلیم: ۲۷۳، ۲۷۲/۶
- ۳۳۶/۵
- ۷۱۷، ۳۳۲، ۲۹۷/۷

- کیا ہندوستان و پاکستان میں بھی کوئی نبی آیا ہے: ۳۳۷/۵
- ۴۶۷/۷
- پینچیرانہ بلاغت و رعایت ادب کی ایک مثال: ۶۲۲/۵
- ۵۰۳/۷
- رسول اور نبی کی تعریف میں فرق اور باہمی نسبت: ۲۷۷، ۴۲/۶
- ۷۲۵/۷
- بعض پیغمبروں کا اجمالی تذکرہ: ۸۱۶، ۳۲۶، ۳۲۳/۸
- ۱۶۲/۷
- چند تلیل القدر انبیاء کی عظمت شان: ۳۲، ۳۸/۶
- ۲۰۹، ۶۰۷، ۴۸۸، ۳۸۶/۷
- دو پیغمبروں میں آجر و اجیر کا معاملہ اور اس کی حکمتیں: ۱۰۶/۶
- ایک شبہ کا جواب: ۶۰۹/۷
- ۱۰۶/۶
- ایک اہم ہدایت: ۱۵۸/۶
- ۶۰۹/۷
- شہید ہونے والے بعض انبیاء کرام: ۱۵۸/۶
- ۶۰۹/۷
- ہر نبی کے مقابلہ میں شیطانی طرز عمل: ۲۷۶/۶
- ۶۷۷، ۶۷۵/۷
- سابقہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کو دیئے گئے بعض احکام: ۲۸۷/۶
- ۶۷۷، ۶۷۵/۷
- نبوت وہی ہے، کسی نہیں: ۲۸۷/۶
- جھوٹے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی: ۵۳۳/۶
- ۶۹۳/۷
- ایک پیغمبر کی تکذیب کا نتیجہ: ۵۳۳/۶
- نبی اور ساحر میں فرق: ۶۹۳/۷
- ۶۹۳/۷
- انبیاء کرام کی اپنی امتوں کے متعلق گواہی: ۶۶۰/۶
- ۶۶۰/۶
- انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ کا عہد: ۹۰/۷
- ۳۲۰، ۳۱۹/۸
- ۹۰/۷
- انبیاء کرام کے واسطے سے نازل ہونے والی اشیاء: ۳۲۰، ۳۱۹/۸
- ۳۲۰، ۳۱۹/۸
- انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کا غلبہ: ۱۵۷/۷
- ۳۵۰/۸
- ۱۵۷/۷
- تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں: ۲۰۳، ۱۷۷/۷
- ۲۰۳، ۱۷۷/۷
- (مزید تفصیل کے لئے "نبوت" کا عنوان ملاحظہ فرمائیں)



مسلمانوں کی صفتِ انذار:

۴۸۷/۴

قرآن مجید کی صفتِ انذار:

۵۳۸/۵

۶۲۵، ۴۰۶/۷

انسان

انسان کو تشبیہات:

۸۶/۱

۴۰۳/۳

۱۳۸/۴

۳۷۸، ۳۷۵، ۳۶۸/۵

۵۶/۶

۱۵۳، ۴۰۶، ۴۰۴، ۴۰۱، ۳۵۲/۷

۷۰۴، ۶۸۷، ۶۸۶، ۶۷۷، ۶۷۶، ۶۷۱، ۵۰۵/۸

۸۰۴، ۷۸۸، ۷۸۱، ۷۸۰، ۷۵۲، ۷۴۸، ۷۱۹، ۷۱۵

۸۴۸، ۸۴۰

انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف احتیاج:

۸۶/۱

نئی نوع انسان کی مختلف جماعتیں:

۱۳۲/۱

۵۰۹/۳

۸۶۰، ۶۳۶، ۶۳۱، ۴۶۳/۸

انسانوں کی گروہی و قومی تقسیم کا ضابطہ:

۱۳۲/۱

انسانی تخلیق کا تذکرہ:

۱۷۲/۱

۲۷۹، ۲۷۸، ۱۷، ۱۶/۲

سورة الانبياء

سورة کی فضیلت:

۱۶۹/۶

انجیل

اصل انجیل کی خصوصیت:

۱۶۲/۳

انجیل کو ماننے والوں کو دعوتِ فکر:

۱۶۲/۳

انذار

انذار کا معنی:

۱۱۷/۱

۵۸۵/۴

حضور علیہ السلام کی صفتِ انذار:

۴۰۶، ۴۰۵، ۱۱۷/۱

۵۱۵، ۴۹۲، ۴۲۳، ۸۹/۳

۶۱۰، ۵۹۶، ۵۸۵، ۵۸۳، ۴۹۸، ۱۳۵، ۱۳۳/۴

۴۱۲، ۴۲۱، ۲۶۹، ۱۷۳/۵

۶۱۳، ۵۵۲، ۵۴۹، ۴۵۶، ۱۸۶، ۵۸/۶

۳۵۹، ۳۵۶، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۰۸، ۱۷۲، ۵۷/۷

۶۷۲، ۶۷۱، ۶۳۱، ۵۸۸، ۵۲۹، ۴۹۱، ۳۶۱

۶۶۳، ۶۰۴، ۵۱۳، ۱۶۹، ۱۳۰، ۷۱، ۷۰/۸

سابقہ انبیاء کرام کی صفتِ انذار:

۵۰۵، ۵۰۲/۱

۶۱۰/۲

۵۹۸، ۵۹۱/۳

۶۰۰، ۴۱۵/۵

۶۳۲، ۵۷۵، ۴۳۰/۷

۲۳۷، ۲۳۳/۸

انسان کے بُرے اعمال کا نتیجہ:	۲۷۹، ۲۷۷/۳
۳۸۵/۲	۳۷۶، ۳۷۵، ۳۶۸/۵
تمام انسانوں کا انجام:	۷۶۳، ۶۲۲، ۳۰۲۵، ۳۰۰، ۲۳۰، ۲۳۹، ۱۱۸، ۱۱۷/۶
۲۷۹، ۸۷/۳	۵۳۸، ۷۲، ۶۰/۷
۷۲۵، ۶۷۶/۸	۲۳۶، ۲۳۳، ۲۳۱، ۲۳۷، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰/۸
انسانوں کے رنگ و مزاج میں اختلاف کی وجہ:	۶۷۵، ۶۷۱، ۶۳۹، ۶۳۶، ۶۳۵، ۶۳۱، ۵۵۳، ۴۶۴
۲۷۹/۳	۷۸۳، ۷۸۰، ۷۱۷، ۷۱۶، ۶۸۷، ۶۸۶
انسانی قائمہ کے لئے تخلیق کائنات:	انسان کا ایک بنیادی حق:
۳۲۶/۳	۱۹۳/۱
انسان کو اپنی صلاحیتوں پر ناز نہیں کرنا چاہئے:	انسانی مساوات کا حکم:
۳۸۷/۳	۴۸۹/۱
انسان کے لئے انجہائی قابل فخر چیز:	انسانی عادات، احوال و کیفیات:
۴۳۷/۳	۳۷۶، ۳۷۴، ۲۷/۲
انسان کو بے نیاز نہ بنانے کی الہی حکمت:	۳۵۳، ۵۳۲، ۲۸۰، ۲۷۹/۳
۴۵۹/۳	۵۹۷، ۵۹۵، ۵۲۳، ۵۱۵، ۲۰۷، ۱۴۹، ۱۴۵، ۲۰/۴
انسان کی آزمائش:	۳۷۶، ۳۷۴، ۳۵۹، ۳۶۸، ۲۵۶، ۲۵۱، ۸۶/۵
۵۱۱/۳	۵۳۶، ۵۳۵، ۵۲۳، ۵۱۳، ۴۹۹، ۴۵۳، ۳۸۳، ۳۸۰
۵۱۸، ۱۰۲/۴	۶۰۱
۵۶۵/۷	۳۰۳، ۳۰۰، ۲۸۱، ۲۳۱، ۲۳۹/۶
بنی نوع انسان کو شیطان سے بچنے کا حکم:	۷۲۰، ۶۶۷، ۶۶۶، ۴۰۶، ۳۰۴، ۲۳۳، ۶۰/۷
۵۳۲/۳	۶۷۲، ۶۷۱، ۶۳۱، ۵۵۷، ۵۵۶، ۵۵۳، ۵۵۲/۸
بنی نوع انسان سے عالم ارواح میں الہی خطاب:	۸۰۳، ۸۰۳، ۷۸۸، ۷۷۶، ۷۵۰، ۷۴۸، ۷۰۶
۵۵۳/۳	۸۱۱، ۸۰۵
انسان کو سب کاموں میں تدریج کی تعلیم:	انسانی زندگی کا مقصد:
۵۸/۴	۵۲/۲
ہر انسان کے متعلق چار فیصلے:	۴۳۸، ۴۳۶، ۴۳/۳
۵۹۷/۴	انسان کو نعمت کیسے ملتی ہے:
	۴۸۴/۲

انسان ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں:

۳۵۳/۷

انسان پر مصائب آنے کی وجہ:

۷۰۱/۷

اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ قربت:

۱۳۰، ۱۳۷/۸

ہر انسان کا قول و فعل لکھا جاتا ہے:

۱۳۲، ۱۳۸/۸

ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں:

۱۳۲، ۱۳۱/۸

انسان کے لئے بڑا فتنہ:

۴۷۰/۸

انسان کو مشقت کے لئے تیار رہنا چاہئے:

۷۵۰/۸

انسان میں نیکی اور گناہ کی صلاحیت:

۷۶۰، ۷۵۹، ۷۵۶، ۷۵۳، ۷۵۱/۷

مردہ انسان کو دفن کرنے کا وجوب:

۶۷۶/۸

انسان حسین ترین مخلوق ہے:

۷۷۵، ۷۷۳/۸

### سورۃ الشقاق

سورۃ میں سجدہ تلاوت ہونے، نہ ہونے کی بحث:

۷۰۸، ۷۰۷/۸

### انصاف

”عدل“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں۔

کامل انسانوں کی جزا:

۵۹۸/۳

سرکش انسانوں کی تین صفات اور ان کی سزا:

۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶/۵

انسانی نجات کا واحد راستہ:

۲۱۹/۵

انسانی فلاح کے بنیادی اصول:

۵۲۳، ۴۰۰، ۲۶۱/۵

۸۵۳، ۸۱۳/۸

انسانی فضیلت کی وجہ:

۵۰۵/۵

۶۱۶/۷

علم، انسان کا ذاتی کمال نہیں:

۳۸۱/۵

انسان پر چند الہی انعامات:

۵۳۲/۳

۵۰۵/۵

۲۸۱، ۲۸۰/۶

۸۰۸، ۷۳۳، ۶۱۶، ۴۸۳/۷

۶۷۶، ۶۷۵، ۶۷۲، ۶۷۱، ۴۸۰، ۲۳۳، ۲۳۲/۸

۷۲۸، ۷۲۳

سائنسی تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا:

۳۹۵/۶

انسانی تخلیق اور زندگی سے وجود قیامت پر استدلال:

۷۶۵، ۶۸۳/۷

انسان کی بار امانت اٹھانے کی صلاحیت:

۲۳۸/۷

۱۰۹، ۱۰۸/۲	
۱۹۹/۵	
۱۶۰/۸	
انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب:	
۶۳۳، ۶۳۹، ۶۲۸، ۶۰۰/۱	
۳۳۰، ۱۸۷/۳	
۳۸۶/۳	
۴۷۲، ۱۹۹، ۱۹۲، ۱۸۹، ۱۸۸/۵	
۵۰۳/۶	
۳۰۱/۷	
۷۶۰، ۷۵۹، ۵۸۸، ۴۶۹، ۳۰۶، ۳۰۵، ۲۹۵/۸	
۷۶۲	
آداب و احکام:	
۶۶۱، ۶۴۱، ۶۳۹، ۶۳۵، ۶۱۰، ۵۱۲/۱	
۴۱۸، ۱۱۰، ۱۰۷، ۱۰۶/۲	
۴۷۳، ۴۷۲/۵	
۵۰/۸	
لوگوں کے تین گروہ:	
۶۰۱/۱	
مؤمنوں کے خرچ کرنے کی مثال:	
۶۳۰، ۶۲۹، ۶۲۸/۱	
۴۷۱/۳	
۴۷۶/۵	
انفاق فی سبیل اللہ کے ثواب کو ضائع کرنے والے کام:	
۶۲۹، ۶۲۸/۱	
منافقوں کے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی مثال:	
۶۳۳، ۶۲۸/۱	
۴۹۹/۶	

## انطاکیہ

انطاکیہ والوں کی سرکشی و ہلاکت:

۳۷۹، ۳۶۹/۷

## انعام

منعم علیہم گروہوں کے درجات کی تفصیل:

۴۷۰/۲

الہی انعامات کی بقا کا ضابطہ:

۴۶۲/۳

## سورة الانعام

سورة کی فضیلت:

۵۱۴، ۴۷۷/۳

الانعام ۱۵۲، ۱۵۳ کی فضیلت:

۴۷۹/۳

## انفاق فی سبیل اللہ

مؤمن اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں:

۱۱۰، ۱۰۶/۱

۱۸۴، ۲۸/۲

۱۸۰، ۱۷۷/۳

۶۳۳، ۴۶۵/۶

۷۰۷، ۷۰۳، ۶۶/۷

انفاق کا مفہوم:

۱۱۰/۱

اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا حکم:

۶۳۷، ۶۱۰، ۴۷۳، ۴۷۲/۱

۲۵۱/۵

۵۸۸، ۴۵۷، ۲۹۳/۸

صدقات سے متعلق چند مسائل:

۶۳۲، ۶۳۸، ۶۳۷، ۶۳۱، ۵۳۸، ۵۱۴/۱

انفاق فی سبیل اللہ کو قرض سے تعبیر کرنے کی حکمت:	۶۰۰/۸	انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت:	۶۳۰/۱
صحابہ کرامؓ کے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا ثواب:	۶۵۸/۸	صدقہ کے قبول و رد ہونے کی مثالیں:	۶۳۳/۱
<b>انفال</b>		اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے متعلق شیطانی وساوس:	۶۳۷/۱
انفال، غنیمت اور فئے کی تعریف:	۱۷۴/۳	صدقات کے حقدار لوگ:	۶۳۸/۱
<b>اُذاب</b>		کافروں کا صدقہ خیرات رائیگاں ہے:	۱۵۴/۲
اُذاب کا معنی و تعریف:	۱۴۷/۸	اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ نہ کرنے کی مذمت:	۴۱۶، ۴۵۰/۲
<b>اولاد</b>			۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۴/۳
کافروں کا مال و اولاد ان کے کام نہ آئے گی:	۱۵۴، ۴۲/۲	انفاق کی شرائط کا لحاظ نہ رکھنے والوں کو وعید:	۶۴۱/۱
	۳۹۷، ۳۵۰/۸		۴۱۷/۲
اولاد کو قتل کرنے کی قباحت:	۴۶۵/۳		۳۹۰/۳
اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت:	۴۸۳/۳		۷۴۴/۶
	۴۷۴/۵	صد سے زائد خرچ کرنے کی ممانعت:	۲۹۶، ۲۹۵/۸
کافروں کی معاشی فراخی اور اولاد پر تعجب نہ کرنا چاہئے:	۴۳۸، ۴۹۰/۴		۴۷۱/۳
اولاد کی اصلاح کا طریقہ:	۱۰۴/۵	سائلمین کی دل آزاری جائز نہیں:	۴۷۱/۵
اولاد کی معاشی راحت کا انتظام، زہد کے خلاف نہیں:	۲۶۲/۵	شریعت کے مطابق خرچ کرنے کا نعم البدل ملتا ہے:	۳۰۲/۷
لڑکی کو مصیبت سمجھنے کی ممانعت:	۳۵۶/۵	اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی ترغیب:	۲۱۶/۸
			۵۸۸، ۴۵۹، ۲۹۴، ۵۱، ۵۰، ۴۶/۸

کسی ولی کے لئے ظاہر شریعت کے حکم کی خلاف ورزی  
جائز نہیں:

۶۱۲/۵

اولیاء اللہ کا غلبہ:

۲۸۷/۷

اولین و آخرین

اولین و آخرین کا مطلب:

۲۷۰/۸

اہل بیت

اہل بیت کی فضیلت:

۶۹۱/۷

سورۃ احزاب میں اہل بیت سے کیا مراد ہے:

۱۳۹/۷

اہل الذکر

اہل الذکر کا مصداق لوگ:

۳۴۳/۵

اہل کتاب

اہل کتاب کا مسلمانوں سے حسد و عناد:

۳۶۳، ۲۸۲، ۲۸۱/۱

۲۵۰/۲

اہل کتاب کے مختلف دعوے اور ان کا رد:

۲۸۹/۱

۸۹، ۸۸، ۴۱/۲

۸۷، ۸۶/۳

یہود و نصاریٰ کی طرف سے ایک دوسرے کا رد:

۲۹۰/۱

لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت:

۳۵۶/۵

مؤمن بیٹا، کافر باپ کے کام نہ آسکے گا:

۳۰۰، ۲۹۸، ۵۰/۷

مال و اولاد امتحان کا باعث ہیں:

۲۱۱، ۱۱۳/۷

۳۶۹، ۳۶۸/۸

اولاد صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں:

۷۱۲، ۷۱۱/۷

اولاد کی دینی اصلاح کا موثر ترین طریقہ:

۷۲۶/۷

اولاد کے متعلق ایک تشبیہ:

۳۵۸، ۳۵۷/۸

اولوالالباب

اولوالالباب کا معنی:

۲۶۳/۲

اولوالامر

اولوالامر کون لوگ ہیں:

۳۹۲/۲

اولیاء اللہ

اولیاء اللہ کی تعریف و علامات:

۵۰۰، ۵۳۶/۳

اولیاء اللہ کے لئے بشارت:

۵۵۱، ۵۳۶/۳

ولایت حاصل کرنے کا طریقہ:

۵۳۹/۳

اولیاء کی قبروں کے نزدیک مسجد بنانے کا جواز:

۵۷۷/۵

اہل کتاب کو دعوت ایمان:	اہل کتاب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہوگا:
۴۲۸، ۴۲۷، ۸۶/۲	۲۹۱، ۲۹۰/۱
۳۹۱، ۱۹۹، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۰، ۱۸۲، ۹۲، ۵۸۹، ۸۶/۳	اہل کتاب کے مذاہب اور اسلام میں قدر مشترک:
اہل کتاب کو تنبیہات:	۲۹۱/۱
۱۲۳، ۱۲۳/۲	بعض اہل کتاب کی انصاف پسندی:
۱۸۲/۳	۳۰۷/۱
۳۳۰، ۳۲۵/۸	۶۳۶، ۶۳۳/۶
اہل کتاب کی گروہ بندی:	اہل کتاب کی مسلمانوں کو کفر کی طرف دعوت اور اس
۲۷۲، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۴۹/۲	کا جواب:
۱۶۲، ۱۵۹، ۸۳/۳	۳۵۳، ۲۸۸/۱
۲۰۸/۵	۳۲۵، ۹۱، ۵۸۹/۲
اہل کتاب کی دنیوی ذلت کی وجہ:	اہل کتاب کے ایمان کو پرکھنے کے لئے ایک کسوٹی:
۱۵۱/۲	۳۵۳/۱
اہل کتاب کو دیئے گئے بعض احکام:	۶۰۶/۳
۶۱۵، ۴۳۶، ۴۳۳/۲	اہل کتاب کی ضد اور ہٹ دھرمی:
۲۱۰، ۲۰۹/۳	۳۸۲، ۳۵۸/۱
۷۹۶/۸	۵۹۷، ۹۱، ۳۹/۲
اہل کتاب کے فخریہ دعوے:	۶۹۷، ۷۹۵/۸
۵۵۳، ۵۵۲/۲	اہل کتاب کا حضور علیہ السلام سے عناد:
اہل کتاب کے غلط مطالبات اور ان کا جواب:	۳۸۶، ۳۸۵/۱
۵۹۷/۲	۲۹۷، ۲۹۶/۳
اہل کتاب کا حالت نزع میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان:	اہل کتاب سے نکاح کی بحث:
۶۰۰/۲	۵۳۲، ۵۳۰/۱
اہل کتاب کے ذبیحہ کی بحث:	۶۳۵، ۶۰/۳
۵۱، ۴۳، ۴۲/۳	اہل کتاب کے بعض بُرے اعمال:
اہل کتاب کا کھانا کھانے کی بحث:	۴۳۳، ۴۳۱، ۲۵۷، ۲۵۶، ۹۵، ۹۲، ۹۰، ۴۱، ۴۰/۲
۴۹، ۴۶، ۴۲/۳	۳۶۷، ۳۶۵، ۳۶۳/۳

## ایصالِ ثواب

ایصالِ ثواب کے بعض مباحث:

۶۸۷، ۲۰۸/۱

۲۱۹/۸

## ایلاء

ایلاء کا حکم:

۵۳۵/۱

ایلاء کی چار صورتیں:

۵۳۷/۱

## ایمان

ایمان کے بنیادی اصول:

۱۰۴/۱

۵۹۵، ۵۷۸/۲

ایمان کی تعریف:

۳۵۹، ۱۲۷، ۱۰۹/۱

۴۳۸/۳

۱۲۹۵، ۱۲۷، ۲۱/۸

ایمان کے معتبر ہونے کی شرائط:

۳۵۴، ۱۹۰، ۱۲۷، ۱۲۵/۱

۴۶۳، ۴۶۰/۲

۳۵۹/۳

۶۲۳، ۶۲۲، ۶۰۰/۷

۷۳/۸

قادیانیوں کا ایمان معتبر نہیں:

۱۲۸/۱

اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مفہوم:

۱۲۸/۱

۵۲۱/۲

کتابی اور اہل کتاب کا مفہوم:

۴۷/۳

صابی اہل کتاب میں سے ہیں یا نہیں:

۴۷/۳

اہل کتاب کے متعلق مسلمانوں کو تشبیہات:

۴۹، ۴۸/۳

حضور علیہ السلام کو اہل کتاب کے متعلق ہدایات:

۱۵۸، ۸۱/۳

اہل کتاب کا تورات سے معاملہ:

۳۹۲، ۳۹۱/۳

اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم:

۳۵۹، ۳۵۸/۳

اہل کتاب کا توحید و آخرت پر ایمان معتبر نہیں:

۳۶۰، ۳۵۹/۳

اہل کتاب کا ایمان معتبر ہونے کی شرط:

۶۰۶/۳

اہل کتاب سے بحث کرنے کا طریقہ:

۷۰۲، ۷۰۰/۶

مؤمن اور اہل کتاب کی جزا:

۷۹۶، ۳۳۰، ۳۲۵/۸

کافر اہل کتاب کی جزا:

۷۹۶/۸

(مزید تفصیل کے لئے "نصاری" اور "یہود" کے

عنوانات ملاحظہ فرمائیں)

## ایام اللہ

ایام اللہ کا مطلب:

۲۳۱/۵



حلاوتِ ایمان حاصل کرنے کا طریقہ:	ایمان کی جگہ کفر اختیار کرنے کی قیاحت:
۳۳۲/۴	۲۸۷/۱
کلمہ کفر پر مجبور کئے جانے والے کے ایمان کی بحث:	۱۳۶، ۱۰۵، ۱۰۴/۲
۳۹۶۵۳۹۳/۴	۴۲/۳
سلبِ ایمان کی ایک صورت:	ایمان و عمل کی اہمیت:
۳۹۶/۵	۲۹۲/۱
ایمان والوں کو بعض احکام:	۲۶۳/۲
۷۷۹/۷	۳۳۳، ۳۳۲/۴
ایمان کا تقاضا:	۱۳۶/۵
۷۵۲، ۲۹۴، ۱۱۵/۸	۶۰۰/۷
مؤمن کا ایمان کسی کافر کے کام نہیں آسکتا:	ایمان و اطمینان میں فرق:
۵۰۶/۸	۶۲۳/۱
کسی کافر کا کفر، اس کے مؤمن رشتہ دار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا:	تکمیلِ ایمان کی علامات:
۵۰۷/۸	۵۳/۲
حضرت ایوب علیہ السلام	مؤمنوں کے ایمان میں زیادتی:
حضرت ایوب علیہ السلام کی فضیلت:	۲۳۹، ۲۳۸/۲
۶۱۰/۲	۳۹۳، ۱۷۸، ۱۷۷/۴
۳۸۵/۳	۳۵۱، ۱۰۸، ۶۸/۸
حضرت ایوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ:	کفار کو دعوتِ ایمان:
۲۱۶، ۲۱۵/۶	۱۹۹/۳
۵۲۳۵۵۲۰/۷	ایمان کے فوائد و ثمرات:
	۵۰۹، ۴۳۹/۳
	۴۹۴، ۳۶، ۱۵/۴
	۴۰۹، ۲۳۳/۵
	۵۶۹، ۵۶۸/۷
	ایمان کی علامات:
	۳۳۰/۴



کافر باطل طریقوں سے جھٹڑا کرتے ہیں:

۶۰۰/۵

اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود باطل ہیں:

۲۸۰/۶

۴۵/۷

باطل پر ایمان لانے کی قیامت:

۷۱۳، ۷۰۲/۶

ایک فائدہ:

۷۵۳/۷

بائبل

(”تورات“، ”زبور“ اور ”انجیل“ کے عنوانات ملاحظہ

فرمائیں)

بحر

دریا اور سمندر، قدرت الہی کی نشانیاں ہیں:

۳۰۷، ۳۰۶/۱

۳۰۳، ۳۹۹/۳

۵۲۳/۴

۵۰۵، ۳۲۵، ۳۲۳، ۲۵۱/۵

۵۹۳، ۴۸۶، ۴۷۹، ۲۸۱/۶

۷۷۹، ۶۹۷، ۴۲۹، ۳۲۵، ۴۵/۷

دریا کے شکار کے متعلق حکم:

۲۳۳/۳

اللہ تعالیٰ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں:

۳۴۸، ۳۴۳/۳

خشکی اور تری کے مصائب سے اللہ تعالیٰ ہی نجات

دیتے ہیں:

۳۵۲/۳

۵۰۵/۵

ب، پ

بارش

بارش کے متعلق الہی ضابطہ:

۷۰۰/۷

۶۵۵/۸

باطل

حق و باطل کو ملانے کی ممانعت:

۲۰۳/۱

باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت:

۳۵۷/۱

۶۰۶، ۳۷۷/۲

اہل کتاب کی حق و باطل کو چھپانے اور خلط ملط کرنے

کلی عادت:

۹۰/۲

باطل کے متعلق الہی طرز عمل:

۱۸۹/۴

یہودی علماء و مشائخ کا باطل طریقہ سے مال کھانا:

۳۶۳/۴

حق و باطل کی مثال:

۱۸۶/۵

اہل حق کی علامات اور ان کی سزا:

۱۸۹/۵

باطل مٹ کر رہتا ہے:

۵۱۳/۵

۱۷۵، ۱۷۳/۶

۶۹۶، ۶۹۳، ۳۱۲، ۳۰۹/۷

۴۲۲/۳، ۴۲۹، ۴۰۵، ۱۹۱، ۱۸۹، ۱۸۳، ۱۸۱، ۱۷۲/۳

۲۸۹، ۲۸۱، ۲۵۵، ۲۳۸

### بدعت

بدعت کے متعلق اہم ضابطے:

۴۸۸، ۴۶۸/۱

۶۲۱، ۵۵۶/۲

دین میں بدعت شامل کرنے پر سخت وعید:

۵۰۲/۳

بدعت والا عمل قبول نہیں:

۴۶۱/۵

### سورۃ براءت

سورۃ کا دوسرا نام:

۴۳/۳

۷

آبواب البر:

۴۳۱، ۴۳۰/۱

لفظ "۷" کی تشریح:

۱۰۶/۲

نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم:

۱۷/۳

نیکی کی باتوں میں سرگوشی کرنے کا حکم:

۳۳۲/۸

### برکت

برکت کا مطلب:

۱۴/۳

ظہور برکت کے دو طریقے:

۱۵/۳

دریائے شور کے کنارے رہنے والوں کا حال:

۹۷/۳

کافروں کے اعمال کی سمندر کے اندھیروں سے تشبیہ:

۴۲۱/۶

سمندری پانی کی مثال دے کر قدرت الہیہ کی تفہیم:

۵۰۵/۵

۴۷، ۴۳/۷

خسکی اور تری میں فساد کا سبب:

۷۵۲، ۷۵۱/۶

سوتی ہر قسم کے دریا میں پائے جاتے ہیں:

۳۲۹/۷

قیامت کے دن دریاؤں اور سمندروں کی حالت:

۶۸۶، ۶۸۱، ۶۷۹/۸

### بحیرہ

بحیرہ کا مفہوم:

۲۳۶/۳

### بخل

بخل کی تعریف، مذمت اور اس کی سزا:

۴۱۷، ۴۱۵، ۴۰۸، ۲۵۲، ۲۵۰/۲

۴۲۴/۳

۷۴۴/۶

۳۱۸، ۵۱، ۵۰، ۴۷/۸

بخل کی ممانعت:

۴۷۲/۵

### غزوۃ بدر

غزوۃ بدر کا واقعہ:

۲۳۱، ۱۷۲، ۱۷۰، ۱۶۲، ۲۵/۲

## بلوغت

بلوغت کے احکام:

۳۰۵، ۳۰۲/۲

۱۰۳/۷

## بنی اسرائیل

اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے خطاب:

۸۰۸، ۳۰۷، ۲۲۳، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۰۶، ۲۰۴/۱

۲۱۲/۳

۵۶۱، ۵۶۰/۳

بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات:

۲۲۵، ۲۲۳/۱

۹۷/۶

بنی اسرائیل پر فرعونی مظالم:

۲۲۵، ۲۲۳/۱

۳۷، ۳۳/۳

۶۱۶، ۸۶، ۸۵/۶

۵۹۵/۷

بنی اسرائیل کی ضد سرکشی:

۱۳۶/۱، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳

۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۳، ۵۰۰

۳۰/۲

۱۱/۳

۵۶۸، ۹۶، ۹۵، ۷۳، ۷۰، ۶۸، ۶۵، ۵۲، ۵۱/۳

۲۳۶، ۲۳۵/۵

۱۳۳، ۱۳۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۷/۶

۷۸۲/۷

بنی اسرائیل کی وجہ تسمیہ:

۲۰۵/۱

## برزخ

حیات برزخیہ کا اثبات:

۳۹۷، ۱۷۳/۱

کافروں کا قبر میں حساب و کتاب:

۳۹/۲

۳۱۹/۳

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ کی حیثیت:

۷۳/۱

متعلقہ احکام:

۷۷، ۷۴، ۷۳/۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر:

۷۵/۱

## سورة البقرة

سورة کا تعارف:

۶۹۴، ۱۰۳، ۱۰۳/۱

سورة کے فضائل:

۱۰۳/۱

آخری دو آیتوں کے فضائل:

۶۹۴/۱

## بِیَعْمِ بِاَعْمُورِ

بِیَعْمِ بِاَعْمُورِ کا واقعہ:

۲۳۳/۲

۱۳۳، ۱۳۱، ۱۱۸/۳

## بِیَقِیْسِ

(”ملکہ سبا“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں)

بنی اسرائیل کی فضیلت:	۳۰۷، ۲۲۳/۱
بنی اسرائیل کا استغفار کرنا:	۶۸، ۶۵/۳
بنی اسرائیل کے علماء کے دو گروہ:	۷۸۲/۷
بنی اسرائیل پر الہی انعامات:	۱۰۵/۳
بنی اسرائیل کی حضرت یوسفؑ کے بعد حالت:	۲۲۳، ۲۲۸/۱
بنی اسرائیل کی ترقی:	۷۷/۳
بنی اسرائیل پر رحم کئے جانے کی واحد صورت:	۵۲۸۵۵۶۶، ۹۵، ۷۴، ۷۱، ۵۲، ۵۰/۳
ایک عجیب معاملہ:	۲۲۳/۵
بنی اسرائیل کی چاہی کے چھ واقعات:	۱۳۰، ۱۲۸، ۱۰۲/۶
بنی اسرائیل کی مصر سے ہجرت:	۲۸۲، ۷۸۱، ۷۶۸، ۷۶۶/۷
بنی اسرائیل کا وادی تیبہ میں قیام:	۲۳۱، ۲۳۰/۱
موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ:	۱۰۶/۳
بنی اسرائیل کی تعداد جو فرعون کی غلامی تھی:	۲۵۶۵۲۵۳/۱
بنی اسرائیل کے مصر میں داخلہ کی بحث:	۲۰۴، ۱۰۶، ۹۵، ۸۴، ۷۸، ۷۶، ۷۳/۳
بنی اسرائیل کے غلو کا انجام بد:	۲۵۸/۱
بنی اسرائیل پر حلال و حرام کی جانے والی بعض اشیاء:	۶۸/۲
بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت:	۱۱۳/۲
بنی اسرائیل پر بارہ سرداروں کا تقرر:	۳۱۰، ۲۰۹/۳
ایک تاریخی اشکال و جواب:	۷۷، ۷۶/۳
	۲۱۳/۳

۲۶۳/۵	فرآن مجید بنی اسرائیل کے اختلافی امور کی حقیقت
۲۵۶/۶	ظاہر کرتا ہے:
۲۰۰/۶	
۲۲۰، ۳۱۶/۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو بشارت:
تعمیر بیت اللہ:	۳۲۶، ۳۲۲، ۳۲۱/۸
۳۱۶/۱	بنی اسرائیل کی دو جماعتیں:
۱۱۶۵، ۱۱۴/۳	۳۲۹، ۳۲۸/۸
۲۶۳/۵	(مزید تفصیل کے لئے "موسیٰ علیہ السلام" اور "فرعون"
۲۶۰۵۳۵۵/۶	کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں)
بیت اللہ کے متعلق حضرت ابراہیم کی دعائیں:	سورۃ بنی اسرائیل
۳۲۵/۱	آخری دو آیات کی فضیلت:
حج بیت اللہ کی فرضیت:	۵۳۳/۵
۱۲۲/۲	
۲۵۶، ۱۶۰/۶	غزوہ بنی قریظہ
ایک جاہلانہ رسم کا انسداد:	مکمل واقعہ:
۵۳۰۵۵۳۸/۳	۱۲۱۵، ۱۱۶/۷
بیت اللہ کا دوسرا نام:	غزوہ بنی نضیر
۲۶۰/۶	مکمل واقعہ:
بیت المعمور	۳۶۰۵۳۵۸/۸
تفصیلی تعارف:	بہیمۃ الأنعام
۱۷۹/۸	بہیمۃ الأنعام کی تحقیق:
بیت المقدس	۱۳/۳
تعمیر ہونے کی تاریخ:	بیت اللہ
۲۷۵۵۲۷۳/۷	بیت اللہ کی فضیلت و اہمیت:
بیت المقدس کے لئے سلیمان کی دعائیں:	۳۲۱، ۳۱۶/۱
۲۷۵/۷	۱۲۲، ۱۲۰، ۱۱۸، ۱۱۶، ۱۱۳/۲
	۲۳۸، ۲۳۷/۳

طلاق کے متعلق اصل ضابطہ:	بیعت
۵۷۴/۱	بیعت کی حقیقت:
مطلقہ عورت کے متعلق ایک حکم:	۷۲/۸
۵۷۴/۱	حضور علیہ السلام کو مسلمان عورتوں سے بیعت لینے کا حکم:
دودھ پلانے کا احکام:	۳۱۸۵۳۱۶، ۳۰۹/۸
۵۷۹/۱	بیعت میں ذکر کئے گئے امور کی تشریح:
زوجہ کا نفقہ کس طرح متعین کیا جائے:	۳۱۸، ۳۱۷، ۳۰۹/۸
۵۸۱/۱	بیعت رضوان
عدت کے بعض احکام:	کمل واقعہ:
۵۸۵/۱	۶۰۵۵۸/۸
طلاق قبل از دخول کے بعض احکام:	فضیلت:
۵۸۶/۱	۸۰، ۷۹، ۷۰/۸
حق مہر کے متعلق مظالم کا انسداد:	شجرہ رضوان:
۲۹۷/۲	۸۱/۸
میراث میں بیوی کا حصہ:	بیوی
۳۳۵/۲	غذا اور خوراک میں بیوی، شوہر کے تابع نہیں:
بدکار عورت سے نمٹنے کا شرعی طریقہ:	۱۹۳/۱
۳۳۵/۲	مسلمان اور کافر کے باہمی نکاح کی ممانعت:
بیوی پر شوہر کے مظالم کی روک تھام:	۵۳۰/۱
۳۵۳۵۳۵۱، ۳۳۸، ۳۳۷/۲	نکاح و طلاق کی شرعی حیثیت:
بصورت علیحدگی عورت سے مہر واپس نہ لینے کا حکم:	۵۵۵/۱
۳۵۲، ۳۳۹/۲	حق مہر کی واپسی کی ایک صورت:
نیک بیوی کی فضیلت:	۵۵۸/۱
۳۹۸/۲	عورت سے زوج و طلاق کے متعلق ہدایات:
تافرانان بیوی کی اصلاح کا طریقہ:	۵۷۳۵۷۰، ۵۶۲، ۵۶۱/۱
۳۹۹/۲	نکاح و طلاق کو کھیل نہ بنانے کا حکم:
ازدواجی زندگی سے متعلق چند قرآنی ہدایات:	۵۷۳/۱
۵۶۱/۲	

ت، ث

تبع

قوم تبع کا واقعہ:

۷۷۰، ۷۶۹/۷

۱۳۶، ۱۳۳/۸

(غزوہ) تبوک

مکمل واقعہ:

۴۲۸، ۴۲۳، ۴۲۱، ۴۸۷، ۴۳۲، ۴۲۸، ۴۲۶/۴

۴۸۶، ۴۷۴، ۴۵۸، ۴۵۲، ۴۴۶، ۴۳۳، ۴۳۰، ۴

تثلیث

عقیدہ تثلیث کا رد:

۲۰۷/۳

تحریف

کلام الہی میں لفظی تبدیلی کا شرعی حکم:

۲۳۱/۱

یہودیوں کی کلام الہی میں تحریف:

۲۳۹، ۲۳۸/۱

۲۲۶، ۲۲۵/۲

۱۵۰، ۱۳۳، ۸۱/۳

تأویلوں کی صحت و خطا کو پرکھنے کا معیار:

۳۵۶/۱

قرآن مجید کی تحریف سے حفاظت:

۱۵۰/۳

تحقیقات

بے فائدہ تحقیقات مذموم ہیں:

۲۳۶/۳

۱۵۰/۴

زوجین میں صلح صفائی کے احکام:

۵۶۳، ۵۶۱/۲

امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہیں:

۵۶۶/۲

اصلاح عقائد و اعمال کی دعوت، اپنے گھر اور خاندان

سے شروع کرنی چاہئے:

۳۷۹/۳

بیوی کا نفقہ ضروریہ شوہر کے ذمہ ہے:

۱۵۷/۶

عام مجالس میں بیوی کا ذکر نہ کرنا بہتر ہے:

۶۵۱/۶

پندے

(”ٹیور“ کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں)





کسی کے لئے اپنی مدح جائز نہیں:	۹۷/۱
روحانی امراض کی اصل وجہ:	۱۲۴/۱
روحانی امراض کا مہلک نتیجہ:	۱۳۰/۱
تزکیہ نفس کا مفہوم و اہمیت:	۳۳۶، ۳۳۵/۱
ایک غلطی کی نشاندہی:	۳۳۸/۱
اخلاقِ حسنہ کے فضائل:	۴۶۲/۱
	۲۴۴، ۲۴۱، ۱۸۹، ۱۰۶/۲
	۱۷۳، ۱۱۵، ۸۳/۳
	۳۱۲، ۵۸/۴
	۵۶۸، ۳۹۰، ۱۳۶، ۱۳۲، ۱۲۹/۵
	۶۴۷، ۲۷۹/۶
	۴۷۹، ۳۶۱، ۲۴۲، ۲۴۱/۷
	۷۹۹، ۷۵۶، ۷۵۳، ۷۴۳، ۷۲۶، ۷۲۲/۸
وصول الی اللہ کا طریقہ:	۷۰/۲
فوت شدہ امور کے متعلق ایک ضابطہ:	۱۹۳/۲
مرشد و مربی کی خاص صفات:	۲۱۶/۲
إخلاص کی اہمیت:	۲۴۱/۲
	۱۱۳/۳

تحقیقات کے مختلف درجے اور ان کا حکم:

۲۸۲/۵

فضول تحقیقات سے بچنا چاہئے:

۵۲۹/۵

## تخلیق

غیر اللہ کی طرف تخلیق کا عدم جواز:

۴۷۴/۷

انس و جن کی تخلیق کا مقصد:

۱۷۱/۸

تخلیق کائنات کی دقیق حکمتیں:

۷۲۳/۸

تمام مخلوق کی جوڑا جوڑا تخلیق:

۷۴۰/۸

آنکھ اور زبان کی تخلیق کی چند حکمتیں:

۷۵۰/۸

اللہ تعالیٰ کی صفتِ تخلیق:

(لفظ "اللہ جل شانہ" کے تحت ملاحظہ فرمائیں)

## تزکیہ نفس

روحانی امراض اور ان کا علاج:

۵۰۱، ۳۲۸، ۲۱۹، ۲۱۳، ۱۲۸، ۱۲۲، ۹۷/۱

۴۳۹، ۴۳۳، ۴۳۰، ۴۲۹، ۲۱۵، ۲۰۱/۲

۳۰۴، ۲۷۴، ۱۰۱/۳

۳۲۸، ۶۶، ۱۹/۴

۴۸۳، ۴۸۱، ۹۰/۵

۴۳۸، ۳۹، ۳۸، ۳۲/۷

۸۴۹، ۴۶۹، ۴۲۱، ۳۱۹، ۲۱۰، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۵/۸

ایک فائدہ:	۵۹۳/۴
۲۹۳/۵	عبادت کی ایک صورت:
لذیذ چیز کا استعمال، زہد کے خلاف نہیں:	۲۶۶/۲
۳۵۹/۵	زہد کے ساتھ جمع مال کا جواز:
چند شرطوں کے ساتھ حب جاہ کا جواز:	۳۰۳/۲
۵۲۹/۶	امور اختیار یہ وغیر اختیار یہ کی تمنا کرنا:
اپنے لئے جمع کا صیغہ بولنے کا مشروط جواز:	۳۸۹/۲
۵۶۶/۶	اصلاح نفس کی اہمیت:
تکلف و تصنع کی مذمت:	۴۸۲/۲
۵۳۲/۷	اصلاح اعمال کا طریقہ:
ظن کے مختلف درجات اور ان کا حکم:	۳۴۴، ۱۸۲/۳
۱۱۹/۸	اہم تنبیہات:
سچی توبہ کی تلقین:	۵۸۱، ۵۵۰، ۵۳۴، ۴۸۳، ۴۷۵، ۴۷۰، ۱۹۷/۳
۵۰۵، ۵۰۴/۸	۳۵۱/۴
سچی توبہ کی شرائط:	۶۶۴، ۴۹۹، ۸۵/۵
۵۰۶/۸	۷۳۷، ۶۶۸، ۶۴۱، ۵۷۰، ۴۷۶، ۴۹۷، ۴۵/۶
صحبت صالحین کی اہمیت:	۵۳۲/۷
۷۴۴/۸	۸۱۴، ۶۶۷، ۴۱۸، ۴۱۱/۸
(مزید تفصیل کے لئے "اخلاق"، "اعمال" اور "تقویٰ"	بعض گناہوں کا نقصان:
کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں)	۲۲۸/۳
تسبیح و تہلیل	زیادہ کھانے کا ضرر:
ملائکہ کا تسبیح بیان کرنا:	۵۴۳/۳
۱۷۶/۱	قدحہ معاشرت:
۱۶۵/۳	۵۹۵/۳
۱۸۴، ۱۷۹/۵	رذیل و کمینہ کون شخص ہے:
۱۷۸، ۱۷۵/۶	۶۱۵/۳
۶۷۰، ۶۵۴، ۵۸۰، ۵۷۶/۷	لمبی امیدیں رکھنے کا مفہوم:
	۲۷۹/۵

۲۱۳، ۲۱۲/۵	تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے:
۱۵۳/۷	۳۸۷، ۳۸۶/۵
تعدّ و ازدواج کے بعض احکام:	۳۶۱، ۳۳۲، ۳۲۰، ۳۹۳، ۳۹۰، ۳۵۶/۸
۲۹۵۲۲۹۳/۲	حضرت موسیٰ و ہارون کی تسبیح و تہلیل:
ایک اہم فائدہ:	۷۱۷، ۷۱۶/۶
۵۶۷/۲	حضور علیہ السلام کو تسبیح و تہلیل کا حکم:
تعلیم و تربیت	۳۸۰، ۱۶۲، ۱۶۱/۶
اہم تنبیہ:	۶۰۸/۷
۳۸۹، ۳۲۹/۱	۸۳۵، ۸۲۱، ۷۲۱، ۶۳۳، ۵۳۳، ۲۷۹، ۱۸۶، ۱۳۹/۸
تعلیم و تربیت کے مؤثر ہونے کی اہم شرط:	۸۳۷
۳۳۱/۱	پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح:
اولاد کی تعلیم و تربیت کی اہمیت:	۲۱۱/۶
۳۵۰/۱	مؤمن، تسبیح و تہلیل کرتے ہیں:
تعویذ	۳۲۰/۶
تعویذ کا معنی و حکم:	۶۵/۷
۷۷/۱	۷۲۱، ۷۰/۸
۴۰۰/۵	حضرت زکریا علیہ السلام کو تسبیح کا حکم:
بعض مسائل:	۶۳/۷
۴۰۱/۵	مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم:
تفسیر	۶۳/۷
تفسیر کا لغوی و اصطلاحی معنی:	تصویر سازی
۴۹/۱	تصویر بنانے کے متعلق احکام:
علم تفسیر کے سرچشمے:	۷۰/۲
۵۱، ۵۰/۱	۲۷۱۴۲۶۸/۷
اسرائیلیات کا حکم:	تعدّ و ازدواج
۵۲/۱	حضور علیہ السلام کے تعدّ و ازدواج کی بحث:
ایک شدید غلط فہمی کا ازالہ:	۲۹۲۵۲۸۶/۲
۵۳/۱	

۵۹۹/۶	تفسیر بالرائے کی وعید:
۳۶۲/۷	۵۵/۱
تقدیر کی اقسام:	مشہور تفسیریں:
۲۱۶/۵	۵۸۵۵۶/۱
تقدیر پر بحث کرنے کی ممانعت:	تقدیر
۴۵۱، ۴۵۰/۷	تقدیر پر ایک شبہ اور اس کا جواب:
۲۳۸، ۲۳۷/۸	۳۳۷/۱
دہر یا زمانے کو برا کہنا صحیح نہیں:	۱۱۰/۵
۴۸۸/۷	تدبیر پر تقدیر کا غلبہ:
تقدیر کے متعلق اہل السنّت والجماعت کا عقیدہ:	۳۹۵/۱
۵۴۲/۷	وبائی امراض والی جگہ پر آنے جانے کی بحث:
۲۳۸/۸	۵۹۵/۱
تقدیر پر ارضی ہونے کی اہمیت:	وہ امور جو تقدیر کے تابع ہیں:
۷۴۴/۸	۲۱۴/۲
تقویم اسلامی	۵۹۳/۴
چاند سے متعلق دینی مصلحتیں:	۳۲۷، ۳۲۵، ۳۲۴/۷
۴۶۷/۱	۶۷۶، ۵۶۴، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۱۸، ۴۱۷، ۱۶۲/۸
قمری و شمسی حساب کی شرعی حیثیت:	اللہ تعالیٰ کے نکوینی انتظامات:
۴۶۷/۱	۵۸۹۵۵۸۵، ۴۰۷۷۳۸۹، ۴۵۱۴۳۴۴/۳
تقلید	۵۰۸۵۵۰۳/۴
آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے کی ممانعت:	۴۵۸، ۴۵۷، ۴۰۷۷۳۰۰/۶
۴۱۳/۱	۶۹۷، ۶۹۶، ۶۳۴، ۶۳۳، ۴۸۱، ۱۳۷/۷
تقلید کا اثبات:	۶۷۶، ۶۷۱، ۶۶۳، ۵۸۸، ۵۸۷، ۴۷۸، ۲۲۹/۸
۴۹۳/۲	۷۲۱
۳۶۵/۴	سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے:
۱۷۱/۶	۴۴۳/۳
تقلید کی حقیقت:	۵۹۴، ۵۸۸/۴
۲۴۹/۳	۲۹۴۵۲۸۹، ۲۱۵/۵

۲۵۷، ۲۱۹، ۱۶۱، ۱۲۵، ۷۳، ۶۷، ۶۶، ۴۰، ۲۷، ۱۷/۳

۴۹۴

۲۷۲، ۲۸۲، ۱۷۲/۳

۳۵۳، ۳۱۶/۵

۴۷۲، ۴۳۶، ۳۱۵، ۲۳۵/۶

۵۴۱، ۴۳۸، ۷۷، ۴۹/۷

۴۰۹، ۳۸۹، ۳۶۵، ۳۳۲، ۳۲۵، ۱۱۹، ۱۱۰، ۹۸/۸

۴۹۴، ۴۷۳، ۴۶۸

اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے کی وعید:

۴۹۶/۱

تقویٰ اختیار کرنے کی ترغیب:

۶۸۸، ۶۸۵، ۵۴۴/۱

۲۷۸/۲

۴۸۵/۳

۵۷۰/۶

تقویٰ کا معنی و مفہوم اور اس کے درجات:

۲۴۱، ۱۲۷/۲

۲۱۸/۴

۲۸۶/۸

تقویٰ کی اہمیت:

۲۷۸/۲

۲۳۷، ۱۱۳/۳

تقویٰ کی ایک علامت:

۶۷/۳

۲۶۲/۶

تقویٰ کے بعض فوائد:

۳۳۷، ۳۸/۴

۱۳۸، ۸۱/۵

ایک شیطانی استدلال:

۲۴۹/۳

نااہل کا مقتدا بنانے کی قباحت:

۲۴۹/۳

اقتدار کا معیار:

۲۵۰/۳

تقویٰ

حصولِ تقویٰ میں معاون امور:

۶۴۶، ۵۴۴، ۴۴۳، ۴۴۲، ۱۳۱/۱

۴۸۵/۳

تقویٰ کی فضیلت:

۵۰۱، ۴۷۲، ۴۶۵، ۲۷۲، ۲۷۰، ۲۰۲/۱

۲۷۸/۲، ۴۳۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۶، ۹۲، ۳۱، ۲۷/۲

۲۷۳، ۲۷۲، ۲۵۲، ۲۳۸

۵۴۲، ۴۴۹، ۴۰۷، ۳۳۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۰۸، ۷۶/۳

۴۶۹، ۳۶۶، ۲۱۸، ۲۱۶، ۹۹، ۷۷، ۴۰، ۱۴، ۱۲/۴

۶۴۰، ۵۴۶، ۴۹۳

۵۶۴، ۴۱۹، ۳۳۳، ۳۵۱، ۳۰۸، ۱۵۴، ۱۳۳، ۹۳، ۸۵/۵

۴۶۷، ۳۶۶، ۱۲۲، ۶۸، ۵۵، ۴۹، ۴۸، ۴۴/۶

۶۶۷

۵۵۵، ۵۴۶، ۵۳۵، ۵۴۱، ۵۲۵، ۵۱۰، ۲۸۲/۷

۷۷۲، ۷۴۸، ۷۳۳، ۵۷۶، ۵۶۹

۶۴۴، ۵۲۷، ۵۵۴، ۴۷۲، ۲۳۷، ۱۷۷، ۱۵۶، ۱۲۳/۸

۷۵۹، ۷۵۴، ۶۹۲، ۶۵۲

اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم:

۵۷۰، ۴۷۲، ۴۷۰، ۴۶۵، ۳۳۳، ۳۰۸، ۲۰۳/۱

۶۴۶، ۵۷۹

۵۶۹، ۳۰۸، ۲۷۳، ۲۳۳، ۱۷۰، ۱۲۶، ۱۲۵، ۷۳، ۶۹/۲

۵۴۳، ۳۳۵/۲	۲۳۱/۶
۴۹۷، ۳۳۰/۳	۳۸۹، ۳۸۶/۸
۵۸۶/۳	متقین کو ایک اہم ہدایت:
۶۹۵/۷	۹۰/۵
۵۰۶/۸	متقین کی ایک خاص صفت:
توبہ صرف اللہ تعالیٰ ہی قبول کر سکتے ہیں:	۱۳۹/۵
۴۰۲، ۲۰۱/۱	خوفِ خدا سے رونے کی فضیلت:
۵۳۷، ۳۵۶، ۳۳۳، ۳۳۵/۲	۵۳۰/۵
۷۱/۳	متقین کے اوصاف:
۴۵۲، ۳۳۳، ۷۲/۳	۴۳۹، ۱۳۹/۵
۴۱۳/۵	۷۶۰، ۷۵۹، ۱۶۲، ۱۵۹، ۱۵۷، ۱۵۶/۸
۳۵۶، ۳۵۳، ۱۲۹/۶	خوفِ خدا کی مطلوبہ کیفیت:
۶۹۳، ۵۸۳، ۵۷۹/۷	۵۰/۷
۱۳۵، ۱۱۹/۸	تقویٰ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ:
توبہ کرنے کی فضیلت:	۲۳۱/۷
۵۴۳، ۴۰۲، ۲۰۱/۱	تقویٰ کی دو شاخیں:
۵۸۹/۲	۵۳۱/۷
۳۳۹، ۳۳۷، ۳۳۱، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۱۵/۳	(مزید تفصیل کے لئے "اعمال"، "خوفِ خدا" اور
۵۸۶، ۴۶۶، ۴۲۳، ۴۰۲، ۴۰۱، ۳۰۵، ۳۰۴، ۱۱۷/۳	"تزکیہٴ نفس" کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں)
۶۴۱	تنور
۴۱۳، ۴۱۳/۵	لفظ "تنور" کی تحقیق:
۶۵۶، ۵۰۶، ۵۰۰، ۳۵۶، ۴۳/۶	۶۲۲/۳
۶۹۳، ۵۷۰/۷	(سورۃ) تکاثر
۵۰۴/۸	سورۃ کی فضیلت:
وہ لوگ جن کی توبہ قبول نہ ہوگی:	۸۱۰/۸
۱۰۴/۲	توبہ
توبہ کے قبول ہونے، نہ ہونے کی صورتیں:	توبہ کی حقیقت:
۳۳۲/۲	۲۰۰/۱

سورۃ کا شان نزول:	توبہ کرنے کا وقت:
۳۰۷/۲	۳۳۲/۲
آخری دو آیات کی فضیلت:	توبہ کی فرضیت:
۳۹۶/۲	۳۳۵/۲
توحید	توبہ کی ترغیب:
	۲۰۶/۳
توحید کا مفہوم:	۵۸۶، ۵۸۳، ۲۵۳/۲
۱۳۷/۱	توبہ قبول نہ ہونے کا وقت:
توحید کی اہمیت:	۳۹۷/۳
۱۱۹، ۱۳۷/۱	۵۳۹/۲
۳۰۹، ۱۶/۲	۳۳۳/۵
۳۸۶/۳	۳۹۱/۷
۱۳۸/۲	حقوق العباد کی کوتاہیوں سے توبہ کرنے کی صورت:
۱۷۵/۶	۱۳۶، ۱۳۵/۵
۶۰۳/۸	توبہ کرنے کا حکم:
توحید کے مفہوم کی وسعت:	۵۸۶/۲
۳۰۶/۱	۳۰۷، ۳۹۸/۶
موحد اور مشرک میں فرق:	۵۰۵، ۵۰۳/۸
۳۰۸/۱	گناہوں سے توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں:
توحید کے عقلی و نقلی دلائل:	۱۱۵/۸
۳۵۹، ۳۳، ۱۸، ۱۶، ۱۵/۲	توبہ انصوح کا مطلب:
۵۰۷ تا ۳۹۸، ۳۷۰، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۷۹، ۳۷۸/۳	۵۰۵/۸
۵۷۵، ۵۷۳	توبہ نہ کرنے کی سزا:
۵۰۸ تا ۵۰۱/۲	۷۱۳، ۷۱۱/۸
۳۵۳، ۳۲۸، ۳۲۱ تا ۳۱۸، ۳۱۶، ۳۳۷، ۳۳۶/۵	
۳۸۶، ۳۷۶، ۳۷۱، ۳۷۰، ۳۶۶ تا ۳۶۱، ۳۵۸	سورۃ توبہ
۳۷۷ تا ۳۷۲، ۳۷۲، ۱۸۳ تا ۱۸۰، ۱۷۸ تا ۱۷۲/۶	سورۃ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کی وجہ:
۷۵۰ تا ۷۵۱، ۵۱۳ تا ۵۱۱، ۳۸۱	۳۰۶، ۳۰۵/۲

گزشتہ انبیاء کے صحیفوں میں توحید کی تعلیم:	۲۰۹/۲، ۲۰۶، ۳۹۴/۲، ۳۸۰، ۲۹۱، ۲۸/۲، ۲۳/۲
	۷۳۹/۲، ۵۸۸، ۵۵۰/۲، ۵۲۸، ۵۳۵، ۴۲۲/۲، ۴۲۰، ۴۱۵
(مزید "اللہ جل شانہ" اور "شرک" کے عنوانات کے تحت ملاحظہ فرمائیں)	۷۱۹، ۶۶۸، ۶۶۵، ۶۵۳، ۶۳۳، ۶۳۲، ۵۸۹
	۷۹۲، ۷۲۰
	۱۸۳، ۱۶۹/۸
<b>تورات</b>	توحید کے متعلق نبی علیہ السلام کی ہدایات:
تورات کا تعارف:	۲۹۳/۳
۸۸، ۱۵/۲	صفات البیہ میں مخلوق کے شریک ہونے کی نفی:
۷۱/۳	۳۳۵/۲
۱۹/۶	غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت:
۷۹۹/۲	۱۵۱، ۱۳۵/۵
حضرت عیسیٰ کو تورات و انجیل کی وہی تعلیم:	انکار توحید کی سزا:
۶۹/۲	۳۰/۶
۲۶۰/۳	۱۶۹/۸
حضرت عیسیٰ کی طرف سے تورات کی تصدیق:	توحید پر ثابت قدم رہنے کا حکم:
۱۵۶، ۶۹/۲	۷۵۲/۶
۳۲۵، ۳۲۱/۸	۶۰۳/۸
یہود کا تورات پر عمل کرنے سے اعراض:	کافروں کا دعوت توحید پر اظہارِ تعجب:
۱۳۳/۲	۴۹۲/۲
حضرت موسیٰ پر تورات کا نزول:	موحدین کی مدح اور ان کو بشارت:
۱۵۹، ۱۵۵/۲	۵۳۱/۲
۳۹۳، ۱۵۵/۳	غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت:
۶۸۵، ۶۳، ۵۶/۳	۶۰۹/۲
۶۳۹/۶	کافروں کے موحدین کے ساتھ اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے:
تورات کا حکم قصاص:	۶۷۳/۲
۱۶۱، ۱۵۶/۲	
تورات کے مضامین:	
۱۵۵/۳	



توفی

لفظ ”توفی“ کی تشریح:

۷۳/۲

۵۶۲/۳

توکل

مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ترغیب:

۲۳۰، ۲۲۸، ۱۶۲/۲

۷۳/۳

۳۸۳، ۲۵۵، ۱۷۹، ۱۷۷/۳

۲۳۸، ۲۳۷، ۱۰۵/۵

توکل کا مفہوم:

۱۶۹/۲

۱۷۹/۳

۵۹۵/۸

حضور علیہ السلام کو توکل کرنے کا حکم:

۳۸۸، ۳۸۷، ۲۱۵/۲

۶۷۶، ۳۹۵، ۲۷۱/۳

۱۸۶/۵

۶۰۰، ۵۳۹، ۳۸۰/۶

۶۷۳، ۱۷۲، ۷۸/۷

توکل کرنے کی اہمیت و فضیلت:

۲۱۵/۲

۷۶/۳

۲۳۸/۵

۳۱۸/۷

۳۸۸، ۳۷۳/۸

تورات کے منسوخ ہونے کا اشارہ:

۱۵۹/۳

تورات و انجیل کے واجب الاتباع احکام:

۱۶۵/۳

تورات و انجیل میں حضور علیہ السلام کی صفات و علامات:

۸۰/۳

تورات، انجیل اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا مجاہدین

سے عہد:

۳۶۹۷، ۳۶۶۶/۳

تورات کا خلاصہ:

۳۸۳/۵

کافروں کا تورات و قرآن کو مماثل قرار دینا:

۶۳۰/۶

عوام کو تورات وغیرہ کا مطالعہ کرنے کی ممانعت:

۶۳۲/۶

موجودہ تورات و انجیل کے متعلق حکم:

۷۰۳/۶

تورات و انجیل میں مذکور صحابہ کرامؓ کے فضائل:

۹۵۷، ۹۳، ۸۹/۸

حاملین تورات کی مثال:

۳۳۷، ۳۳۳/۸

تور یہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تور یہ:

۳۵۲/۷

تور یہ کا شرعی حکم:

۷۵۳/۷

نماز تہجد کی مخصوص دُعا:

۵۶۶/۷

تیمم

وہ صورتیں جن کی وجہ سے تیمم جائز ہے:

۳۳۳، ۳۳۲/۲

۶۶، ۶۵/۳

تیمم ایک خصوصی حکم ہے:

۲۲۳/۲

سورة التین

سورة کے اختتام کا ایک آداب:

۷۷۷، ۶۲۸/۸

شمود

قوم کا تعارف:

۵۹۹/۳

قومِ شمود کو دعوتِ ایمان، ان کی سرکشی و ہلاکت:

۶۱۳ تا ۶۰۵/۳

۶۴۴ تا ۶۳۸، ۴۱۹/۴

۶۹۲، ۶۹۱، ۵۹۰، ۵۸۹، ۵۳۹، ۴۷۵، ۲۷۳/۶

۶۴۲، ۶۴۱، ۴۹۳/۷

۵۴۲، ۴۴۳، ۲۴۲، ۲۲۱، ۲۱۵، ۱۶۶، ۱۳۶، ۱۳۳/۸

۷۵۴، ۷۳۶، ۷۱۴



توکل کرنے کا طریقہ:

۲۴۳، ۲۳۲، ۲۲۶/۲

اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں:

۲۸۴/۲

۱۱۲/۵

۷۳۷، ۵۶۰، ۲۴/۶

توکل کرنے کا حکم:

۷۳/۳

۲۹۱/۶

توکل کے بعض ثمرات:

۲۵۵/۴

مؤمنوں کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے نتائج:

۷۰۶/۶

۷۰۳، ۵۵۹/۷

۵۱۴، ۴۶۸، ۴۳۲/۸

تہجد

حضور علیہ السلام کو تہجد پڑھنے کا حکم:

۵۱۳/۵

۶۳۴، ۵۸۶/۸

نماز تہجد کے احکام و مسائل:

۵۱۹ تا ۵۱۵/۵

۵۹۹ تا ۵۸۶/۸

تہجد کی فضیلت:

۵۰۳/۶

۶۹/۷

۵۹۲/۸

کافر، جانوروں کی طرح ہیں:

۱۲۳/۴

۲۷۵/۶

۳۲/۸

حیوانات بھی حکم الہی کے تابع ہیں:

۳۵۳/۵

۲۳۷/۶

قربانی کے جانوروں کے متعلق حکم:

۲۶۵، ۲۶۳، ۲۵۵/۶

جانور کو معتدل مزادینے کا جواز:

۵۷۱/۶

حضرت جبرائیل علیہ السلام

آپ کا دوسرا نام:

۲۵۸/۱

حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ:

۲۵۸/۱

یہود کی حضرت جبرائیل و میکائیل وغیرہ سے عداوت:

۱۶۷/۱

آپ کی طاقت جسمانی:

۱۹۰، ۱۸۹/۸

حضور علیہ السلام کا آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا:

۶۸۳، ۱۹۸ تا ۱۹۵، ۱۹۰/۸

حضرت جبرائیل کی حضور علیہ السلام کو تسلی:

۱۹۰/۸

چند شبہات کا ازالہ:

۲۰۱، ۱۹۸، ۱۹۱/۸

ج، ج، ج

سورۃ جاثیہ

سورۃ کا تعارف:

۷۷۷/۷

جاؤ و

”سحر“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں۔

جالوت

مکمل واقعہ:

۶۰۳/۱

جانور

حیوانات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہیں:

۴۰۶/۱

۴۶۶/۳

۳۸۳، ۳۸۱، ۳۵۸، ۳۱۹، ۳۱۸/۵

۷۰۹، ۷۰۷، ۳۰۷، ۳۰۰/۶

۷۲۰، ۶۹۷، ۶۷۳، ۵۳۵، ۳۳۵، ۲۸/۷

جانوروں سے انسانی محبت:

۲۷/۲

جانوروں کے متعلق شیطانی تعلیم:

۵۳۹/۲

حلال و حرام جانور:

۶۲۱، ۴۷۴، ۴۷۲، ۴۶۵ تا ۴۶۳، ۴۵۸، ۱۷، ۱۱/۳

۲۶۳، ۲۶۱/۶

قیامت کے دن جانور بھی زندہ کئے جائیں گے:

۳۱۶، ۳۱۴/۳

دوزخ میں کافر جنات سے اللہ تعالیٰ کا خطاب:	ایک مفید تحقیق:
۵۵۵، ۳۵۱/۳	۲۰۱/۸
کیا جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں:	آپ کے فضائل:
۳۵۵/۳	۶۸۳، ۶۸۰/۸
ہندوؤں کے اوتار بھی عموماً جنات ہیں:	جزیہ
۳۵۵/۳	لغوی و اصطلاحی معنی:
کافر جنات کا دوزخ میں داخلہ:	۳۶۱، ۳۶۰/۳
۱۲۳/۳	جعفر طیارؒ
تمام جن و انس کی قرآن کی مثل لانے سے عاجزی:	آپ کی چار خصالتیں:
۵۳۰، ۵۲۵/۵	۵۳۳/۱
ابلیس جنات میں سے تھا:	جمعة المبارک
۵۹۹/۵	جمعة المبارک کے احکام:
سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کی تسخیر:	۴۲۳ تا ۴۲۹/۸
۵۸۳، ۵۶۵/۶	یوم جمعہ کی فضیلت:
۲۶۹ تا ۲۵۸/۷	۴۴۰/۸
جنات کے عالم الغیب ہونے کی نفی:	سورہ جن
۲۵۹/۷	شان نزول:
جنات کو مسخر کرنے کی بحث:	۵۷۳، ۵۷۰/۸
۲۶۵/۷	جنات
کافروں کا جنات کی عبادت کرنا:	جنات و شیاطین، اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں:
۳۰۵، ۳۰۳/۷	۴۰۶/۳
کافر انسان و جنات خسارے میں ہیں:	۴۸۵ تا ۴۸۲/۷
۸۰۲، ۶۳۳/۷	بعض جنات کی انبیاء و شہداء:
کافروں کا دوزخ میں گمراہ کرنے والے جن و انس سے جھگڑا:	۴۱۷/۳
۶۴۷/۷	کافر جنات سے قیامت کے دن مواخذہ ہوگا:
بعض جنات کا قبول اسلام:	۴۵۳، ۴۴۶/۳
۸۱۳، ۸۱۳/۷	
۵۷۳ تا ۵۷۰/۸	

۶۵۹، ۶۵۷، ۳۳۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۸/۵	جن و انس کی تخلیق کا مقصد:
۷۰۶، ۳۳۹، ۳۶، ۳۳/۶	۱۷۳، ۱۷۱/۸
۳۳۷، ۳۳۳، ۳۰۳، ۳۰۰، ۳۵۰، ۳۳۹، ۳۳۱، ۶۶/۷	جنات کی آگ سے تخلیق:
۷۷۸، ۶۸۸، ۶۵۲، ۶۵۱، ۶۳۹، ۵۹۸، ۵۲۵، ۳۳۹	۲۳۶، ۲۳۱/۸
۷۷۶، ۷۷۴، ۷۷۳، ۷۷۲، ۷۳۹	تمام جن و انس اللہ تعالیٰ کے مخلوم ہیں:
۳۳۷، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۵۶، ۱۴۸، ۱۳۶، ۳۳، ۳۲/۸	۲۵۰/۸
۳۳۸، ۳۳۳، ۲۷۶، ۲۷۳، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۲، ۲۵۷	جنات کی حقیقت:
۶۹۴، ۶۹۲، ۶۵۲، ۶۳۳، ۶۳۸، ۶۳۳، ۶۳۱، ۵۳۳	۵۷۴/۸
۷۲۹	ایک صحابی جن کا واقعہ:
ایک شبہ کا جواب:	۵۷۷/۸
۵۱۰/۱	حضرت رافع بن عمیر کا اسلام بہ سبب جنات:
دنیا اور جنت کی نعمتوں کا تقابل:	۵۷۸/۸
۳۲، ۳۱/۲	جنات آسمانی خبریں سننے کے لئے کہاں تک جاتے تھے:
۷۰۰/۷	۵۷۹/۸
جنت کی وسعت:	جنات کے مشرک ہونے کی وجہ:
۱۸۲، ۱۷۷/۲	۵۷۱/۸
۳۱۶، ۳۱۳/۸	جنات کے آسمان کی طرف جانے پر پابندی:
حصولِ جنت کی ترغیب:	۵۷۹، ۵۷۱/۸
۵۳۹، ۱۸۱/۱	
۶۹۸، ۶۵۲/۸	<b>جنت</b>
جنت پیدا ہو چکی ہے:	جنت میں جانے کا اصل سبب:
۱۸۳/۲	۲۹۱، ۱۳۸/۱
جنت کا مقام:	۱۸۲/۲
۱۸۳/۲	۶۵۸، ۵۰۶، ۳۱۷/۸
۶۹۵، ۳۰۰، ۱۹۲/۸	جنت کی نعمتیں:
جنت سے محروم لوگ:	۱۶۶، ۱۶۵/۱
۳۸۷/۲	۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۱، ۲۷۲/۲
۵۶۰، ۵۵۷، ۲۰۶/۳	۵۲۹، ۵۰۹، ۳۲۱، ۳۳۳/۳

جنت کو دارالسلام کہنے کی وجہ:

۵۲۸/۴

جنت الفردوس کی دُعا کرنی چاہئے:

۶۵۹/۵

جنت میں بعض نعمتوں سے محرومی کی ایک صورت:

۳۳۹/۷

جنت اور دوزخ کا تقابل:

۳۳۱، ۳۳۰/۷

جنت کے حق دار لوگ:

۷۹۶، ۱۳۶/۸

دُنیا میں چار جنتی پہاڑ:

۱۷۹/۸

جنت میں امتِ محمدیہ کی اکثریت:

۲۷۳۳۲۷۱/۸

جنتیوں کی خاص علامات:

۶۶۶، ۳۷۹/۸

جو دی

جو دی پہاڑ کا تذکرہ:

۶۲۷، ۶۲۳/۴

جہاد

کافروں سے جہاد کرنے کا حکم:

۵۹۲، ۴۷۲، ۴۷۱، ۴۶۶/۱

۵۰۹، ۴۹۴، ۴۷۶، ۴۷۵، ۱۶۸/۲

۱۲۵/۳

۴۶۶، ۴۵۸، ۴۰۵، ۴۰۴، ۴۷۶، ۴۴۳، ۴۴۲/۴

۴۹۴، ۴۹۳، ۴۴۲، ۴۴۱، ۴۷۵، ۴۶۹

۲۷۰، ۴۶۹/۶

۴۲۳، ۴۲۱، ۴۲، ۴۱/۸

جنت میں مومنوں کے چار درجے:

۴۶۶/۲

جنت میں ملاقات کی چند صورتیں:

۴۶۷/۲

حضور علیہ السلام کی رفاقت:

۴۶۹/۲

جنت کی آفتوں اور مصیبتوں سے پاکیزگی:

۴۳۸/۳

جنتیوں کے دلوں میں کدورت نہ ہوگی:

۵۶۱، ۵۵۷/۳

۳۰۱/۵

جنتیوں اور دوزخیوں کا مکالمہ:

۵۶۳/۳

اہل اعراف کا جنت میں داخلہ:

۵۶۳/۳

جنت کی نعمتوں کا دوام:

۶۶۸، ۴۳۷/۴

۶۵۷، ۴۷۷، ۳۰۲، ۳۰۱/۵

بلند درجات حاصل کرنے کا طریقہ:

۵۰۱/۴

جنتیوں کے مختلف حالات:

۵۱۳۵۱۱/۴

۵۸۷، ۵۸۶، ۴۰۲، ۴۴۳، ۱۹۳، ۱۸۹/۵

۴۴۹/۶

۵۷۲، ۵۷۷، ۴۴۹، ۴۴۴، ۴۵۰، ۴۴۹، ۴۰۳/۷

۵۸۵، ۵۷۷، ۵۷۶

۷۷۱، ۶۹۲، ۶۴۸، ۶۰۸، ۱۷۸، ۱۴۸، ۴۲، ۴۰/۸

۷۹۹، ۷۹۸

۶۰۴/۱	جہاد کے متعلق پہلی آیت:
جہاد کے ذریعہ مؤمنوں کی آزمائش:	۴۶۹/۱
۱۹۳/۲	۴۶۸/۴
۴۱/۸	۲۵۰، ۲۶۹/۶
کافروں پر غلبہ پانے کی شرط:	جہاد کے مسائل و احکام:
۱۹۴/۲	۵۷۳، ۵۱۹، ۵۱۷، ۵۱۵، ۴۷۳، ۴۶۹/۱
بعض سابقہ قوموں کا جذبہ جہاد:	۵۳۳، ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۸، ۵۰۹، ۵۰۸، ۴۷۳، ۴۷۳، ۴۰۲/۲
۲۰۰/۲	۴۷۳، ۴۶۹، ۴۵۲، ۴۵۰، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۰۱، ۱۹۸/۴
جہاد کے متعلق کافروں کا طرز عمل:	۴۹۳، ۴۱۳، ۴۸۷، ۴۷۹، ۴۷۷
۵۰۸، ۵۰۷، ۴۸۰، ۴۷۳، ۴۷۳، ۴۳۱، ۴۰۸، ۴۰۷/۲	۷۴۸، ۴۳۵ ۴۱/۸
۴۳۲، ۴۳۱، ۴۲۶/۴	جہاد چھوڑنے کی سزا:
جہاد کے متعلق کافروں کا رویہ:	۵۷۴/۱
۴۱۴/۲	۳۸۰، ۴۳۲ ۴۳۸/۴
۹۵/۷	۴۱/۸
۳۸۵ ۴۳۴، ۴۹، ۴۸/۸	فرضیت جہاد:
جہاد کی ترغیب:	۵۱۵/۱
۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۳، ۴۷۲، ۴۱۴/۲	۵۲۳/۲
۴۲۲/۴	۴۸۷/۴
۴۲۸، ۴۲۷، ۴۶/۸	مجاہدین کی فضیلت:
جہاد کی تیاری کا حکم:	۵۱۶/۱
۴۷۳ ۴۷۲/۲	۴۱۴/۲، ۵۱۸، ۴۷۵، ۴۷۳، ۴۷۱، ۴۳۶، ۴۳۴، ۴۳۱، ۴۱۴/۲
۴۷۲/۴	۵۲۴، ۵۲۳
جہاد کے مفہوم کی وسعت:	۴۶۷، ۴۶۶، ۴۳۸، ۴۳۶، ۴۳۴، ۴۳۲، ۴۹۳/۴
۴۷۳/۴	۴۸۶
جہاد کی اہمیت:	۴۷۸/۶
۴۷۶/۲	۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۵، ۴۲۱، ۴۹۵/۸
۱۲۸/۳	بنی اسرائیل کا جہاد سے فرار:
۴۳۳/۴	

جہاد سے مستثنیٰ لوگ:	جہاد کے اغراض و مقاصد:
۷۷، ۷۶/۸	۲۷۷/۲
جہالت	۲۷۳/۴
جہالت کی تشریح:	۲۷۰، ۲۶۹/۶
۳۳۹/۳	۳۱، ۲۹، ۲۸/۸
جہنم	بعض مسلمانوں کی حکم جہاد کے التوا کی تمنا اور اس کی وجہ:
دوزخ کے بعض حالات و کیفیات:	۲۷۹/۲
۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۲، ۲۵۷، ۱۶۳، ۱۳۰/۱	ایک عبرتناک واقعہ:
۵۳۹/۲	۳۸۳/۲
۳/ ۱۲۵، ۳۰۶، ۳۷۳، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۷، ۳۵۲، ۳۵۱، ۳۵۲	صحابہ کرامؓ کا جذبہ جہاد:
۵۷۰، ۵۶۳، ۵۶۳، ۵۵۷، ۵۵۵	۱۰۲/۳
۵۳۰، ۱۲۳، ۱۲۳/۳	جہاد، رہبرئی اور بغاوت میں فرق:
۶۰۰، ۳۸۵، ۳۰۰، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۳۲/۵	۱۲۸/۳
۳۳۷، ۲۶۳، ۵۶، ۵۰/۶	ایک شبہ کا جواب:
۶۱۸، ۶۰۵، ۵۷۵، ۵۲۶، ۵۲۵، ۳۳۱، ۳۳۱، ۶۵/۷	۳۲۳، ۳۲۲/۳
۷۳۹، ۶۱۹	جہاد کے فوائد و ثمرات:
۶۰۸، ۶۰۶، ۵۱۱، ۵۰۲، ۳۸۵، ۳۰۵، ۱۷۹، ۱۳۶/۸	۳۲۵/۴
۷۳۱، ۶۵۵، ۶۵۲	۳۳۰ تا ۳۲۷، ۳۲۱، ۱۲۷/۸
یہود کا چند دن دوزخ میں رہنے کا اعتقاد اور اس کی تردید:	جہاد کے درجات:
۲۵۲، ۲۵۱/۱	۷۱۶، ۲۸۹، ۲۸۸/۶
۴۲/۲	جہاد کا حق کیا ہے:
کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے:	۲۸۸/۶
۶۱۷، ۳۹۶، ۳۰۹، ۳۲۵، ۲۰۳، ۱۹۸/۱	جہاد اور فساد میں فرق:
۶۱۱، ۵۸۱، ۵۳۹، ۳۳۸، ۳۷۲، ۲۰۳، ۱۷۶، ۱۵۳، ۲۳/۲	۳۱۲/۴
۳۲۱، ۳۱۸، ۳۸۷، ۳۸۳، ۳۲۶، ۲۲۷، ۱۹۳/۳	جہاد میں اخلاص کی ضرورت:
۶۰۲، ۶۰۱، ۵۰۸	۳۲۵/۴
	مجاہدین کی استقامت:
	۳۸۳/۴



منافقوں کا دوزخ میں ٹھکانا ہے:	۳۳۱، ۱۷۲/۵
۵۸۹/۲، ۳۰۵، ۲۸۵، ۲۳۷، ۱۸۵، ۱۷۶، ۵۶، ۴۹، ۴۸/۶	
دوزخیوں کی علامات:	۶۳۶، ۶۳۲، ۶۰۹، ۵۹۹، ۵۶۹، ۵۵۵، ۴۳۹، ۳۳۲
۵۳۰، ۱۲۶/۳	۸۱۶، ۸۰۲، ۷۸۹، ۷۴۹، ۷۱۴، ۷۰۲، ۶۸۵
۶۶۶، ۲۵۶/۸	۶۱۸، ۶۰۵، ۵۸۶، ۴۵۱، ۳۳۱، ۲۶/۷
کافروں کا دوزخ میں زقوم درخت کے وجود سے انکار:	۵۰۵، ۴۶۲، ۳۵۷، ۳۰۵، ۱۵۶، ۱۳۹، ۶۹، ۳۲/۸
۵۰۰/۵	۷۹۶، ۷۶۲، ۷۶۱، ۷۱۱، ۵۱۱
تمام معبودانِ باطلہ دوزخ کا ایندھن ہیں:	دوزخ میں لے جانے والے بعض اعمال:
۲۳۰، ۲۲۸/۶	۶۳۵، ۴۹۶/۱
ایک شبہ کا جواب:	۵۴۵، ۵۱۴، ۴۷۷، ۳۳۲، ۳۰۹/۲
۲۳۰/۶	۵۲۶، ۵۲۵/۳
دوزخ سے بچنے کا طریقہ:	۳۲۸، ۳۲۳، ۱۹۸/۴
۵۰۴/۸	۵۰۲، ۲۹۷/۵
دوزخ کے دوام پر سوال و جواب:	دوزخ سے بچنے والا کامیاب ہے:
۶۵۶/۸	۲۵۱/۲
دوزخ کس جگہ ہے:	عذابِ دوزخ کی نقشہ کشی:
۶۹۵/۸	۴۰۹، ۴۰۲، ۲۵۷/۱
دوزخ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہئے:	۴۳۱/۲
۷۰۶/۸	۵۲۷، ۵۲۳، ۴۷۴، ۴۳۳، ۳۳۵، ۲۳۹، ۱۹۶، ۱۷۶/۳
	۶۳۳، ۵۴۵
جھوٹ	۵۸۶، ۲۷۱، ۲۶۹، ۲۳۵، ۲۳۹، ۱۷۲/۵
”کذب“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں۔	۴۷۳، ۴۶۳، ۳۳۷، ۳۳۲، ۲۳۹، ۲۲۸، ۲۲۸، ۱۴۲/۶
	۷۰۲
چاند	۵۵۳، ۵۵۲، ۵۴۵، ۵۲۵، ۴۳۰، ۳۳۱، ۲۳۷، ۶۶/۷
”قمر“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں۔	۷۷۷، ۷۷۳، ۷۷۲، ۷۴۹، ۶۱۹، ۶۱۸، ۶۰۹، ۶۰۵
	۴۵۰، ۲۶۸، ۲۵۶، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۳۶، ۱۷۷، ۳۲/۸
	۶۰۶، ۶۰۵، ۵۹۷، ۵۹۶، ۵۸۷، ۵۷۲، ۵۵۲، ۵۱۱
	۷۷۱، ۶۵۶، ۶۵۵، ۶۵۲، ۶۳۷، ۶۳۶، ۶۳۳، ۶۳۳
	۸۱۷، ۸۱۶، ۸۱۵، ۸۰۰، ۷۴۹، ۷۴۹



سورۃ حج

سورۃ کی خصوصیت:

۲۳۶/۶

سجدۃ تلاوت:

۲۸۸/۶

حجاب

عورتوں کے پردہ کے احکام:

۳۳۷ تا ۳۳۳، ۴۰۶ تا ۳۹۶/۶

۲۳۴ تا ۲۳۰، ۲۱۳ تا ۲۰۰، ۱۳۳ تا ۱۳۱/۷

حدیبیہ

معاہدہ صلح حدیبیہ کی بعض شرائط کی تحقیق:

۴۱۰/۸

(مزید تفصیل کے لئے "صلح حدیبیہ" کا عنوان ملاحظہ

فرمائیں)

حدیث

حدیث نبوی کا مرتبہ و مقام:

۴۵۴، ۴۰۴/۱

۵۴۴، ۴۴۱، ۱۸۱ تا ۱۷۸/۲

۱۹۷/۳

۴۴۸، ۴۸۳، ۱۶۶/۵

۴۵۹، ۱۴۱/۷

۴۷۰، ۴۶۲، ۷۷، ۷۶/۸

حدود

حدود کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام:

۳۳۹ تا ۳۳۶/۲

۱۳۷ تا ۱۱۴/۳

ح

حای

حای کا معنی:

۲۳۶/۳

حج

حج کے بعض احکامات:

۴۸۶، ۴۸۴ تا ۴۸۱، ۴۸۰، ۴۷۷، ۴۶۵، ۴۰۰/۱

۴۹۱، ۴۹۰، ۴۸۷

۶۲۰/۲

۱۹، ۱۸/۳

۳۱۵/۴

۲۶۵ تا ۲۵۸/۶

حج مقبول کی علامت:

۴۹۴/۱

اعمال حج کی زوج:

۴۹۵، ۴۹۴/۱

ایک عجیب نشانی کا ظہور:

۱۱۹/۲

حج کی فرضیت:

۱۴۲، ۱۱۸، ۱۱۲/۲

یوم حج اکبر کی تعیین:

۴۱۴/۴

حج کے لئے مال خرچ کرنے کا صلہ:

۲۵۷/۶

حج کے فوائد:

۲۵۷/۶

اہل کتاب کا مسلمانوں سے حسد:	۴۲۲/۴
۲۸۸/۱	۶۲۲، ۴۵۶، ۴۵۲/۶
۴۳۹، ۴۳۸/۲	سورۃ حدید
حسد کا علاج:	بعض خصوصیات:
۱۱۳/۳	۲۹۲/۸
کینہ اور حسد سے پاک ہونے کا مقام:	حروف مقطعات
۳۷۹/۸	حروف مقطعات کی تحقیق:
سورۃ حشر	۱۰۶/۱
سورۃ کی خصوصیات:	۴۹۹/۴
۳۵۷/۸	حرم
آخری آیات کے فوائد:	حرم کعبہ کی تاریخ:
۳۹۴/۸	۳۱۶/۱
حق	حرم سے متعلقہ مسائل و احکام:
حق کے ساتھ باطل کو ملانے کی ممانعت:	۴۷۱، ۴۶۶، ۴۸۸، ۴۸۱، ۴۸۰، ۴۲۰/۱
۲۰۸، ۲۰۴/۱	۲۳۳/۳
حق کو چھپانے کی ممانعت:	۲۵۴، ۲۵۳، ۲۲۸، ۲۲۶/۴
۲۰۳/۱	۷۱۶، ۷۱۵، ۶۵۱، ۶۱۳، ۲۵۳/۶
اہل کتاب کی حق شناسی:	حرم کعبہ کے دو امتیازی وصف:
۳۷۹/۱	۶۵۱/۶
اہل کتاب کا کتمان حق:	حضرت حزقیل علیہ السلام
۳۸۶/۱	کمل واقعہ:
۹۰/۲	۵۹۳/۱
حق پر ہونے کا ایک غلط معیار:	حسد
۴۴۳/۳	حسد کی قباحت:
وزن اعمال برحق ہے:	۴۳۹، ۴۸۹، ۱۸۲/۲
۵۱۸/۳	حسد کی تعریف و حکم:
	۴۳۹/۲

انسان کا فطری حق:	۱۹۳/۱	اللہ تعالیٰ حق کو عملاً ثابت کرتے ہیں:	۱۸۹/۴
حقوق ادا کرنے کی اہمیت:	۵۵۱، ۲۵۳/۱	اسلام دینِ حق ہے:	۳۶۶، ۳۶۵/۴
	۲۸۳، ۱۸۶/۲	حق کی ضد گمراہی ہے:	۵۲۸/۴
	۳۱۶/۳	حق اور باطل کے درمیان کوئی واسطہ نہیں:	۵۳۱/۴
والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض:	۲۱۳/۴	اللہ تعالیٰ ہی امرِ حق کا راستہ بتاتے ہیں:	۵۳۲/۴
	۳۵۰/۱	حق کے مقابلہ میں باطل نہیں ٹھہر سکتا:	۵۲۱، ۵۱۳/۵
	۴۰۹/۲		۱۷۷، ۱۷۴/۶
۴۷۴، ۳۶۹، ۳۶۳، ۲۶۲/۵	۶۷۶، ۶۷۵، ۱۷/۶	حق کی علامات اور ان کی جزا:	۶۹۳، ۳۱۲، ۳۰۹/۷
	۸۰۱، ۳۸۵، ۳۶، ۳۲/۷	اہل حق کی علامات اور ان کی جزا:	۱۹۳، ۱۸۸/۵
زکوٰۃ کے علاوہ مالی حقوق:	۴۷۳/۱	دینِ حق کا مقابلہ کرنے والوں کا انجام:	۵۸۰/۷
	۴۷۳/۱		
قیموں کے حقوق:	۵۲۸/۱		
	۴۷۳/۱		
۸۲۵، ۷۵۲، ۷۴۸، ۷۳۷، ۳۶۷، ۳۶۴/۸	۵۶۸، ۵۵۹		
	۲۷۹/۵		
۸۲۵، ۷۵۲، ۷۴۸، ۷۳۷، ۳۶۷، ۳۶۴/۸	۲۷۹/۵	حقوق	
ایک اہم تنبیہ:	۵۵۳/۱	حقوقِ شرعیہ کی خلاف ورزی کی قباحت:	۱۷۰/۱
	۵۵۳/۱	میاں نبوی کے حقوق و فرائض:	۵۸۳، ۵۵۴، ۵۴۷، ۵۴۳، ۳۵۳، ۳۵۲، ۱۹۳/۱
سکینوں کا حق:	۲۳۹، ۶۳۸، ۶۲۹، ۶۲۸/۱		۳۷۰، ۳۵۴، ۳۴۷، ۳۰۰، ۲۹۳، ۲۸۹، ۲۸۵/۲
	۳۱۱/۲		۵۶۷، ۵۵۸، ۳۷۳
	۳۹۴، ۳۹۳/۴		۱۶۵، ۱۶۲، ۲۸/۶
	۴۷۱، ۴۶۹/۵		۵۰۳، ۵۰۲، ۴۹۲، ۴۷۳، ۴۷۰، ۴۶۸/۸



۱۶۵۴۱۵۴/۳	حکم
۵۲۰،۳۱۸،۴۲/۴	اصل علم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے:
۹۹،۵۷،۵۶،۴۸،۴۷/۵	۶۷۴/۷
۵۷۰،۷۸/۶	حکام
۵۱۴،۵۰۹،۵۰۴،۵۰۳/۷	حکام و مشائخ کے لئے ایک ضروری امر:
۳۶۰/۸	۵۷۰/۶
دستور مملکت کی چند اہم دفعات:	حکمت
۱۸۶/۱	حضور علیہ السلام کی تعلیم حکمت:
۴۴۹/۲	۳۹۱،۳۳۰/۱
۷۰۴۶۸،۴۵۴۲۳/۳	۲۳۰/۲
۴۵۵،۴۰۴،۴۶۷/۴	۴۳۲/۸
۶۵۳/۶	حکمت کا مفہوم:
۵۰۸،۴۱۷،۱۰۳/۷	۶۴۰،۶۰۶،۴۳۵،۴۳۰/۱
۸۳۳،۶۳۶،۴۶۳،۴۵۴/۸	۵۴۳/۲
مغربی جمہوریت اور اسلامی شوراہیت میں فرق:	۴۲۰،۴۱۸/۵
۱۸۶/۱	۴۹۷،۱۴۱،۱۴۱/۷
اسلامی سیاست کا امتیاز:	۴۳۵/۸
۵۲۶/۱	حکمت و دانائی کے چند کلمات:
قانون سازی اور اس کی تنفیذ کا قرآنی اصول:	۲۰۹/۴
۵۷۷/۱	۶۲۱/۵
جمہوریت کے متعلق سوال و جواب:	حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنے کا حکم:
۴۲۶/۲	۴۱۸/۵
نظام حکومت کی ابتری کی وجہ:	حکومت و سلطنت
۴۴۷/۲	حکمرانوں کو ضروری ہدایات:
ایک اہم تنبیہ:	۱۸۱/۱
۴۴۹/۲	۴۸۷،۴۴۶/۲
اولی الامر کون لوگ ہیں:	
۴۹۴،۴۵۰/۲	

حلال و حرام

حرام کھانے کی ممانعت:	۴۵۲/۲	خلاف شرع کام میں امیر کی اطاعت جائز نہیں:
۴۵۷، ۱۵۷/۱		باہمی تعاون کا اصول:
۳۷۸، ۳۷۷/۲		۲۲/۳
۲۱۹، ۴۳/۳		یورپین اقوام کے غلط طرز عمل کی نشاندہی:
۳۱۵/۶		۲۲/۳
اشیاء میں اصل اباحت ہے یا حرمت:		غیر مسلموں کے مقدمات کا ضابطہ:
۱۷۴/۱		۱۳۸۴، ۱۳۶/۳
۵۳۵/۳		وزیر خزانہ کے مطلوبہ اوصاف:
سید ذرائع کا مسئلہ:		۸۸/۵
۱۹۵/۱		حکومت کا کوئی عہدہ طلب کرنے کی مشروط اجازت:
حلال کھانے کا حکم:		۹۰/۵
۴۱۵، ۴۱۱/۱		کیا کسی کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے:
۴۱۳، ۴۱۲/۵		۹۱/۵
شریعت کی حرام کردہ اشیاء:		عورت کے حکمران ہونے کی بحث:
۶۴۹، ۶۴۵، ۴۲۱، ۴۱۵/۱		۵۷۳/۶
۳۲۵، ۳۲۷، ۱۹، ۱۸، ۱۴، ۱۱/۳		کسی قوم کا مقتدا بننے کی دو شرطیں:
۴۱۳/۵		۷۳/۷
حرام کو حلال سمجھنے کی ممانعت:		بیت المال سے وظیفہ لینے کی بحث:
۴۱۵/۱		۲۶۳/۷
اضطراری حالت کے احکام:		عدلیہ و انتظامیہ کا رشتہ:
۴۲۵، ۴۲۳، ۴۱۵/۱		۵۰۸/۷
۴۸، ۴۸/۳		حکومت و اقتدار کی دعا کے متعلق ایک ضابطہ:
۴۱۳/۵		۵۱۹/۷
حلال کی برکات اور حرام کی نحوست:		اسلامی نظام حکومت کی خوبی:
۴۶۲، ۴۶۱، ۴۶۶/۱		۷۰۵/۷
۲۲۲، ۴۳/۳		

یہود پر بہت سی پاکیزہ اشیاء کی حرمت:	۲۳۰/۳
۶۰۶/۲	۳۱۶/۶
۴۷۳/۳	سیتہ کے احکام:
حلال کو حرام سمجھنے کی حرمت:	۳۱۷/۱
۵۳۸، ۲۱۹/۳	خون کے متعلق مسائل:
۴۹۷/۸	۳۱۹/۱
بعض جانوروں کے حرام ہونے کی دو وجہیں:	کسب مال کے ذرائع کی اچھائی، بُرائی کا معیار:
۴۴/۳	۳۵۸/۱
حلال و حرام کی حکمت:	حرام کمائی کی سخت مذمت:
۴۳، ۱۳/۳	۴۶۰/۱
شکار کے حلال و حرام ہونے کی بعض صورتیں:	حرمت اشیاء کے متعلق چند ضابطے:
۲۳۵ تا ۲۳۱، ۳۹/۳	۵۳۶/۱
اہل کتاب کے ذبیحہ و نکاح کی حلت و حرمت کی بحث:	۴۳۳، ۲۲۰، ۴۶۵، ۴۴/۳
۶۴ تا ۴۲/۳	سود کو جائز سمجھنے والے کی سزا:
خبیث اور طیب کی تشریح:	۶۴۷، ۶۳۵/۱
۲۴۱، ۴۳/۳	یہود کا ایک دعویٰ اور اس کا رد:
رشوت کی حرمت:	۱۱۲/۲
۱۵۱/۳	حلت و حرمت کے احکام کی وجوہ تلاش کرنے کی
ایک سوال و جواب:	ممانعت:
۴۳۲، ۴۳۱/۳	۲۶۸/۲
غیر اللہ کے ذبیحہ کی حرمت:	وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے:
۴۳۴ تا ۴۳۲/۳	۳۶۹ تا ۳۵۵/۲
حلال و حرام کے متعلق مشرکوں کی غلط رسمیں:	اونڈیوں سے نکاح کی حلت:
۴۶۵ تا ۴۶۳/۳	۳۷۳ تا ۳۷۰/۲
بعض حلال جانور:	پاکیزہ کمائی کی خاص شرائط:
۴۷۲/۳	۳۸۰، ۳۷۹/۲
بعض حرام اشیاء:	
۴۹۳ تا ۴۷۳/۳	



بعض جانوروں کی حلت:	فحش کاموں کی حرمت:
۲۶۱/۶	۵۵۲، ۵۳۹، ۵۳۸/۳
مشرک مرد و عورت سے نکاح کی حرمت:	چند غلط فہمیوں کا ازالہ:
۵۰۵، ۴۹۹/۶	۵۵۲/۳
سورۃ حم السجدہ	مال غنیمت کی حلت:
آیت سجدہ کی تعیین:	۲۸۲/۳
۶۵۵/۷	حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھنے کی قباحت:
غزوۃ حراء الہاسد	۵۳۵، ۵۳۱، ۳۶۰/۳
اجمالی واقعہ:	اہل کتاب کا حرام کو حلال کرنا:
۲۴۰، ۲۳۹/۲	۳۶۹/۳
غزوۃ حنین	گھڑ دوڑ اور تیر اندازی کی جائز و ناجائز صورتیں:
تفصیلی واقعہ:	۴۰/۵
۳۵۱۳۳۳/۳	گھوڑے، خیر اور گدھے کی حلت و حرمت کی مختصر بحث:
حوا علیہا السلام	۳۲۱/۵
حضرت حوا علیہا السلام کا تذکرہ:	کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے:
۱۹۷۳۱۹۱/۱	۴۱۲/۵
۵۳۱، ۵۳۰/۳	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے چار سے زائد نکاحوں کی حلت:
۱۶۰۳۱۵۲/۶	۱۹۶۳۱۸۳/۷
حوا میم	مچھلی کی حلت:
حوا میم سورتوں کا تعارف:	۳۲۹/۷
۶۲۶/۷	مسلمان عورتوں کے کافروں سے نکاح کی حرمت:
حیاتِ طیبہ	۴۱۳، ۴۰۸/۸
حیاتِ طیبہ کی تشریح:	حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دینے کی تین صورتیں:
۳۹۸/۵	۴۹۹/۸
	مردوں کے لئے ریشمی کپڑے کی حرمت:
	۲۵۰/۶

خ

خاوند

زوجین کے حقوق و فرائض:

۳۵۳،۵۵۲/۱

متعدّد بیویوں میں انصاف کرنے کا حکم:

۵۶۰،۲۹۳،۲۶۵/۲

مرد کے لئے گھریلو کام کرنے کا بہترین طریقہ:

۳۹۷،۳۹۶/۲

میاں بیوی میں صلح کرانے کا طریقہ:

۴۰۵ تا ۴۰۱/۲

اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید اور اس کی حکمت:

۱۶۵/۶

ازدواجی زندگی کے لئے ایک ضروری امر:

۷۳۵/۶

بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا حکم:

۵۰۲/۸

بیوی اور اولاد کی تعلیم و تربیت کی فرضیت:

۵۰۳/۸

خبر

خبر دینے کے چار قطعی ذرائع:

۶۳۹/۶

خبیث

بُری اور گھٹی چیز خرچ کرنے کی ممانعت:

۶۳۹،۶۳۷/۱

حیلہ

جائز و ناجائز حیلے:

۲۳۲/۱

حیلہ کے جواز کی شرط:

۱۱۸/۵

حیلوں کی شرعی حیثیت:

۵۲۲/۷

حیض

حیض کے متعلق چند احکام:

۵۴۳/۱



نبوت کے مفہوم میں تحریف:

۱۶۵/۷

خشوع و خضوع

خشوع و خضوع کی اہمیت:

۲۱۴/۱

حصول کا طریقہ:

۲۱۴/۱

خشوع کی حقیقت:

۲۲۰/۱

نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت:

۲۲۲، ۲۲۱/۱

حضرت خضر علیہ السلام

حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا واقعہ:

۶۲۶، ۶۰۳/۵

اس واقعہ سے مستنبط فوائد و ابحاث:

۶۲۳، ۶۲۱، ۶۱۳، ۶۱۲، ۶۱۱، ۶۰۹/۵

خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو چکی ہے:

۶۲۳/۵

خطبہ

خطبہ کے آداب:

۶۹۳/۶

خط نویسی

خط نویسی کے چند آداب:

۵۷۹، ۵۷۷، ۵۷۵/۶

خلافت

حضرت آدم کی خلافت:

۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۵/۱

ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے:

۲۳۱، ۲۳۶/۳

گندی چیزوں کی حرمت:

۷۸/۴

آخرت میں پاک و ناپاک لوگوں میں امتیاز:

۲۲۷/۴

گندی چیزوں کی مثال:

۲۳۴/۵

اللہ پاکیزہ چیزوں سے رزق دیتے ہیں:

۶۱۵/۷

ختم نبوت

ختم نبوت کے دلائل:

۱۱۳/۱

۳۲۱، ۳۲۰/۲

۲۹۶، ۲۹۵، ۲۳۵/۳

۹۰، ۸۹/۴

۲۲۴/۵

۱۶۸، ۱۶۵/۷

انکار ختم نبوت کے چور دروازے:

۳۵۶/۱

تمام انبیاء کرام کا ختم نبوت کا اعتراف:

۹۰/۷

لفظ "خاتم" کی تحقیق:

۱۶۰/۷

صفت خاتمیت کی اہمیت:

۱۶۲، ۱۶۱/۷

ایک شبہ کا ازالہ:

۱۶۳/۷

شراب کی ممانعت:	خلافتِ ارض کا مسئلہ:
۲۲۵/۳	۱۸۲/۱
<b>خواب</b>	۵۱۱/۳
حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب:	۵۱۸/۳
۱۶،۱۵/۵	اللہ تعالیٰ کا زمین میں آخری خلیفہ کون ہے:
خواب کی حقیقت، درجہ اور قسمیں:	۱۸۳/۱
۱۸/۵	حضور علیہ السلام کے بعد نظامِ خلافت:
خواب کے جزئِ نبوت ہونے کے معنی:	۱۸۵/۱
۲۰/۵	بارہ خلفاءِ واپی روایت کا مطلب:
قادینی دجال کے ایک مخالف کی تردید:	۷۸/۳
۲۰/۵	خلفائے راشدین کی فضیلت:
کیا کافر اور فاسق کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے:	۲۳۱، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۷۱/۶
۲۱/۵	امتِ محمدیہ گوزمین کا حکمران بنانے کا الہی وعدہ:
خواب ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں:	۲۳۹، ۲۳۸/۶
۲۲/۵	<b>خلع</b>
خواب کی تعبیر فوراً ظاہر ہونا درست نہیں:	خلع کا جواز:
۲۳/۵	۵۵۸، ۵۵۴/۱
عزیزِ مصر کا خواب اور اس کی تعبیر:	<b>خلق</b>
۷۸۷۷۳/۵	خلق اور امر کا مطلب:
حضرت یوسفؑ کے خواب کی تعبیر:	۵۷۵/۳
۱۳۵، ۱۳۱/۵	<b>خمر</b>
کافروں کا قرآن مجید کو پریشان خواب قرار دینا:	حرمتِ شراب کی تاریخ:
۱۷۱، ۱۷۰/۶	۵۲۳، ۵۲۱/۱
حضرت ابراہیمؑ کا خواب اور اس کی تعبیر:	۲۲۳، ۲۲۲/۲
۳۶۱۳۳۵۶/۷	شراب کے مفاسد اور فوائد میں موازنہ:
حضور علیہ السلام کا خواب اور اس کی تعبیر:	۵۳۰، ۵۲۷/۱
۹۰، ۸۸/۸	۲۲۷/۳

### خوفِ خدا

قیامت کے دن کن لوگوں کو خوف اور غم نہ ہوگا:

۶۳۶، ۶۳۹، ۶۴۸، ۴۹۰، ۴۳۹، ۱۹۸/۱

۲۳۲، ۲۰۲/۲

۵۶۵، ۵۵۴، ۳۲۲، ۱۹۶/۳

۵۳۶/۴

۸۰۰، ۷۴۸/۷

خوف اور حزن میں فرق:

۲۰۲/۱

خوفِ خدا سے پتھروں کے گرنے کی بحث:

۲۳۷/۱

اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم:

۳۸۸/۱

۲۷۹، ۲۷۸/۲

۱۶۱، ۱۵۵، ۳۷/۳

۳۲۵، ۳۲۲/۴

۴۹/۷

۶۶۳، ۶۱۷، ۶۰۹، ۳۹۰، ۳۸۹/۸

خوف اور مصائب کے ساتھ انسانی آزمائش:

۳۹۶/۱

خوفِ خدا کی اہمیت:

۶۹۲، ۴۷۴/۱

۴۹۳، ۱۱۵، ۱۷/۳

ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت:

۵۴۳/۱

خوفِ خدا کا مفہوم:

۲۳۳/۲

### خواہشات

کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا حکم:

۳۸۵، ۳۰۶/۱

۴۷۶، ۳۳۱، ۱۵۸/۳

۵۸۶، ۴۰۹/۵

۷۸۲، ۶۷۶/۷

نفسانی خواہشات کی پیروی کی ممانعت:

۵۷۱/۲

۷۲، ۶۷/۶

نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ایک شخص کا

عبرت ناک واقعہ:

۱۴۱۵۱۱۸/۴

نفسانی خواہشات کی پیروی کی قیامت:

۷۴۲، ۶۳۱، ۴۷۶، ۴۷۵/۶

۶۸۷، ۶۸۶/۷

۳۴، ۳۳، ۳۲/۸

حضور علیہ السلام اپنی خواہشات سے قرآن نہیں بتاتے:

۱۸۹/۸

کافر، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں:

۲۲۴، ۲۰۷/۸

نفسانی خواہشات سے رُکنے کا اجر:

۶۶۷، ۶۶۳/۸

مخالفتِ نفس کے تین درجے:

۶۶۷/۸

(مزید تفصیل کے لئے "تزکیہ نفس" کا عنوان ملاحظہ فرمائیں)

### خودکشی

خودکشی کا حکم:

۳۸۱/۲

(غزوہ) خیبہ

مکمل واقعہ:

۸۴۴۷۵/۸

خیر

لفظ ”خیر“ کی تشریح:

۱۳۰/۲



اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم:

۲۲۹/۲

۷۴۵/۷

اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور وہشت زدہ ہونے میں فرق:

۳۳۰/۳

۱۹۱، ۱۹۰/۵

مؤمن، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں:

۱۹۰، ۱۸۸/۵

۳۱، ۱۹۱/۶

۵۵۱، ۵۴۹، ۳۶۱، ۳۴۱/۷

خوفِ خدا کی فضیلت:

۵۴۰/۵

۷۹۹، ۷۹۶/۶

۵۵۲/۷

۶۶۷، ۶۶۳، ۵۱۱، ۴۷۵، ۲۸۹، ۲۶۱، ۲۵۸، ۱۴۶/۸

۷۹۹، ۷۹۶

انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے:

۱۵۷، ۱۴۸/۷

اللہ تعالیٰ سے کون لوگ ڈرتے ہیں:

۳۳۸، ۳۳۵/۷

خوفِ خدا کا پہاڑوں پر ممکن اثر:

۳۹۳، ۳۹۲، ۳۸۹/۸

(مزید تفصیل کے لئے ”تقویٰ“ کا عنوان ملاحظہ

فرمائیں)

(غزوہ) خندق

دیکھئے: (غزوہ) احزاب

آپ کا اظہارِ شکر:

۵۶۶۵۵۶۳/۶

۲۷۳،۲۷۲/۷

آپ کے لئے لوہے کی تسخیر:

۲۶۱،۲۵۸/۷

پہاڑوں کے آواز ملانے کی حقیقت:

۲۶۰/۷

آپ کی شانِ عبادت:

۳۹۶،۳۹۵،۲۷۲/۷

تین کاموں پر فضیلتِ آلِ داؤد ملنے کی بشارت:

۲۷۳/۷

آپ کا فنِ خطابت:

۳۹۷،۳۹۵/۷

آپ پر ایک بنی اسرائیلی الزام اور اس کی تردید:

۵۰۰/۷

آپ کو حکومت و سیاست کے لئے الٰہی حکم نامہ:

۵۰۸،۵۰۷/۷

### دارالفاستقین

دارالفاستقین کے دو معنی:

۶۲/۳

### دجال

ظہورِ دجال کے واقعات:

۶۳۹/۵

دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا عمل:

۶۳۰/۵

دجال کا قتل:

۶۳۱/۵

د

### دابۃ الارض

قیامت کے نزدیک دابۃ الارض کا خروج:

۶۰۳/۶

دابۃ الارض کا تعارف:

۶۰۳/۶

### حضرت داؤد علیہ السلام

حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت:

۶۰۶/۱

۳۸۵/۳

۵۶۳/۶

۲۶۳۵۲۶۰،۲۵۸،۲۵۷/۷

آپ کے چند واقعات:

۶۰۶/۱

۲۰۸۵۲۰۵/۶

۳۹۸/۷

آپ پر نزولِ زبور:

۶۱۰/۲

۳۹۷،۳۹۶/۵

حضرت داؤد و عیسیٰ کی وحی میں بنی اسرائیل پر لعنت:

۲۰۹/۳

آپ کے لئے پرندوں اور پہاڑوں کی تسخیر:

۲۱۱،۲۰۶/۶

۳۹۶،۳۹۵/۷

آپ کی صفتِ زرگری:

۲۱۱،۲۰۶/۶

۵۲۱/۵	دُخان
۶۲۹،۵۰۹/۶	دخان سے کیا مراد ہے:
دُعا کے فوائد:	۷۶۳،۵۹۷/۷
۴۷۷/۲	سورة الدخان
۶۱۱/۷	سورة کی فضیلت:
دُعا کا مفہوم:	۷۵۶/۷
۵۷۶/۳	وریا
۱۳۹/۳	”بحر“ کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔
۶۱/۷	دُعا
اتمہ مساجد کو تنبیہ:	دُعا کرنے کے آداب:
۵۷۸/۳	۳۵۱،۹۳/۱
دُعا میں حد سے تجاوز کرنے کی صورتیں:	۵۸۳،۵۷۸،۵۷۶،۳۲/۳
۵۷۹/۳	۵۶۳،۱۳۰/۳
دُعا قبول نہ ہونے کی وجوہ:	۲۶۸،۱۳۳،۶۳/۵
۵۸۳/۳	۱۷/۶
۶۹۸/۷	بددُعا کرنے کی ممانعت:
۵۱۶/۳	۶۶۷،۵۶۶،۲۷۶/۷
بددُعا کے متعلق اللہ تعالیٰ کی عادت:	۷۸۹،۲۵۲/۸
۵۱۷/۳	روزہ دار کی دُعا کی خصوصیت:
کافر و ظالم کے لئے دُعا جائز نہیں:	۳۵۱/۱
۶۳۱/۳	مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ:
بعض دُعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ:	۳۵۲/۱
۳۵۳/۵	دنوی حاجات کے لئے دُعا مانگنے کا جواز:
مضطر شخص کی دُعا کی قبولیت:	۳۹/۱
۵۹۵/۶	بعض قرآنی دُعا میں:
حکومت و اقتدار کے لئے دُعا مانگنا جائز ہے یا نہیں:	۶۹۳،۳۹۲/۱
۵۱۹/۷	۳۵۹،۱۹۹،۳۲،۲۶،۲۲/۲



نصیحت کرنے کا ایک بدیہی فائدہ:

۱۱۹/۱

دعوت و تبلیغ کی عظمت و اہمیت:

۱۳۷/۲

تبلیغ کی فرضیت:

۵۱۷/۳

آج کل وعظ و تبلیغ غیر موثر ہونے کی وجہ

۴۹۱/۴

وعظ و نصیحت پر اجرت لینے کی بحث:

۶۴۱/۴

۵۳۳/۶

دعوت الی اللہ کی فرضیت:

۶۵۲، ۶۳۹/۷

دل

دل پر قفل لگانے کا مفہوم:

۴۳/۸

سنگِ دلی کی ایک علامت:

۴۳/۸

(مزید بحث ”قلب“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں)

دعویٰ

دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے تین قسم کے دلائل ہوا

کرتے ہیں:

۴۸۳/۷

دنیا

دنیا کی کوئی چیز بے کار نہیں:

۱۷۳/۱۱

نبی علیہ السلام کی تہجد کے وقت کی دعا:

۵۶۶/۷

دنیا میں کافروں کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے:

۶۰۵/۷

دُعا نہ کرنے والے کی سزا:

۶۱۱/۷

قبولیتِ دعا کی شرائط

۶۱۲/۷

سفر کے وقت کی دعائیں:

۷۲۳/۷

دعا کفارہ مجلس:

۱۸۷/۸

دعوت و تبلیغ

مہلغین کے لئے ضروری آداب و تنبیہات:

۵۰۸، ۲۵۴، ۱۱۸، ۱۱۷/۱

۲۵۵، ۲۱۷/۲

۳۳۳، ۲۸۲، ۲۵۰، ۲۴۷، ۲۳۶، ۱۷۲/۳

۵۲۷، ۴۳۳، ۸۲، ۷۰/۵

۴۰/۶

۷۱۸، ۶۵۲، ۶۳۹، ۵۸۲، ۳۷۷، ۲۹۲/۷

۷۷۳، ۷۷۲، ۶۰۳، ۴۳۳/۸

دعوت و تبلیغ کے آداب و احکام:

۸۷، ۷۱/۲

۵۹۵، ۴۲۳، ۳۱۵، ۳۷۹، ۲۵۰، ۱۸۳/۳

۵۸۶، ۵۳۲، ۴۹۶، ۴۳۲، ۳۱۹، ۳۱۳، ۷۱/۵

۶۴۳، ۵۵۲، ۵۱۸، ۱۰۹، ۴۳/۶

۷۵۲، ۷۵۳، ۵۱۰، ۴۸۳/۷

۶۷۳/۸

طالبِ دُنیا کا انجام:	دُنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی سزا:
۱۹۸، ۱۹۶/۲	۲۷۹، ۲۵۷/۱
۶۰۳، ۶۰۱/۳	۳۳۹، ۳۳۸/۳
۴۶۱، ۴۶۰/۵	۴۰۶، ۴۰۵، ۴۳۰، ۴۱۸/۵
۶۸۵/۷	۸۰۲، ۷۹۰، ۷۸۹/۷
دُنیا کی حیثیت:	۸۰۹، ۸۰۸، ۷۲۶، ۶۶۳/۸
۲۵۱/۲	طلبِ دُنیا کی حدود:
۴۰۴، ۳۳۱، ۳۰۷/۳	۴۹۲، ۴۹۱، ۴۷۹/۱
۵۹۸، ۵۵۳، ۵۱۸، ۱۰۳/۴	۶۲۱، ۴۰، ۲۸، ۲۷/۲
۵۹۳، ۵۹۰، ۵۲۸، ۳۹۷، ۳۹۵، ۱۹۵/۵	۲۲۰/۳
۶۵۳، ۶۵۲، ۶۵۰، ۱۸۵، ۱۸۳، ۱۶۳/۶	۳۵۸/۸
۵۹۸، ۴۴۰، ۶۱/۷	کافروں کے لئے دُنیا کی ترغیب:
۳۱۶، ۳۱۳، ۲۵۱، ۴۹، ۴۶/۸	۵۰۱/۱
آخرت کی دُنیا پر فضیلت:	۴۷۳/۲
۴۸۰/۲	۵۱۰ تا ۵۰۸/۳
۴۷۵/۳	دُنیا و آخرت کے امور میں غور و فکر کی دعوت:
۷۳۴، ۷۰۴، ۷۰۳/۷	۵۳۸/۱
۷۲۶، ۷۲۲/۸	دُنوی مرتبہ والے کافر کو اس کے نام سے تعبیر کرنے کا
دُنوی مصیبتوں کا فائدہ:	جواز:
۵۵۳/۲	۶۱۹/۱
۴۵۱/۵	حسبِ دُنیا، انسانی فطرت میں شامل کئے جانے کی چار
۷۰/۷	حکمتیں:
دُنوی نظام کی محکم بنیاد:	۲۹، ۲۸/۲
۲۰/۳	دُنیا اور آخرت کی نعمتوں کا تقابل:
دُنوی زندگی کی اہمیت:	۴۸۴، ۳۱/۲
۳۱۰، ۳۰۹/۳	۷۰۰/۷
دُنیا میں سزا ملنے کا مطلب:	دُنیا کی ملعونیت اور اس سے چند چیزوں کا استثناء:
۳۲۰/۳	۳۳/۲

دنیا میں زیادہ مشغول ہونے والا عقلمند نہیں:	۶۵۴/۶	ایک غلط فہمی کا ازالہ:	۳۲۱/۳
ذنیوی ساز و سامان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں:	۶۸۳،۲۹۸/۷	ذنیوی نعمتیں کن لوگوں کے لئے ہیں:	۵۵۱،۵۴۸/۳
ذنیواداروں کو تنبیہ:	۶۸۳/۷	ذنیوی فلاح و برکات حاصل کرنے کا طریقہ:	۱۵،۱۴/۴
ذنیوی دولت کی فراوانی کا نتیجہ:	۶۹۸/۷	دنیا کی وجہ تسمیہ:	۱۰۳/۴
دنیا میں مکمل راحت ممکن نہیں:	۷۵۰/۸	ایک اسرائیلی روایت کی نشاندہی:	۱۴۳/۴
ذنیوی آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم:	۸۳۵/۸	دنیا میں کوئی واقعہ اتفاقی نہیں:	۲۳۷،۲۳۶/۴
دَوَا			۳۸/۵
دوا اور جھاڑ پھونک کا جواز:	۳۶۷/۵	دنیا کی محبت کی قباحت:	۳۷۸/۴
دوستی		ذنیوی زندگی کی مثال:	۵۲۴/۴
دوستی درحقیقت وہی ہے جو اللہ کے لئے ہو:	۷۴۹/۷		۵۹۴/۵
(مزید تفصیل "غیرتِ دینی" کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں)			۵۴۹،۵۴۸/۷
دیت			۳۱۳/۸
"قصاص" کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔		دنیا طلبی کی مختلف کیفیات اور ان کا حکم:	۶۰۵/۴
دین		دنیا و شرطوں سے مشروط ہے:	۶۰۵/۴
دین میں جبر نہیں:	۶۱۶،۲۴۰/۱	کفار کا ذنیوی عیش و آرام پر اترانا فضول ہے:	۱۸۵/۵
	۱۰۷/۴		۱۶۱/۶

دینی معاملات میں باطل حیلوں کی حرمت:	۲۳۲/۱
دین کے معاملہ میں تنبیہات:	۳۵۶/۱
دین کو مذاق بنانے والوں سے تعلقات کی ممانعت:	۳۳۵/۳
دین میں شرح صدر کی علامات:	۶۶۳، ۶۰۶، ۵۶۹/۴
دین کو مکمل طور پر اختیار نہ کرنے کی مذمت:	۳۳۸/۶
دین میں اضافہ پر شدید وعید:	۶۷۸/۷
دین کو مذاق بنانے والوں کی سزا:	دین اسلام کی خصوصیات:
دین اسلام سے روکنے کے لئے مال خرچ کرنے کی سزا:	۳۶۰/۱
لفظ "دین" کی تشریح:	۱۰۳۵۱۰۱، ۴۸۵۳۳/۲
دینی رشتہ کی نسبی رشتہ پر ترجیح:	۵۰۸، ۵۰۷/۳
دین کے معاملہ میں لوگوں سے ڈرنا جائز نہیں:	۳۶۴/۴
دین اسلام کا خلاصہ:	۶۷۷، ۶۷۵/۷
دین میں سنگی نہیں:	۳۳۳، ۸۸/۸
دین کو کھلے کھلے کرنے والوں کی روش:	دین فروشی کی سزا:
	۳۲۸/۱
	وحدتِ ادیان کا زمانہ:
	۵۰۵۵۵۰۳/۱
	وحدتِ ادیان کی بنیاد:
	۵۰۸/۱
	کافر، مسلمانوں کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں:
	۵۱۶/۱
	دین کا لغوی و اصطلاحی معنی:
	۳۶/۲
	دین میں غلو کی مختلف صورتیں اور ان کی حرمت:
	۶۱۹۵۶۱۵/۲
	۷۴۸، ۷۳۲، ۳۱۵/۶
	۲۱۱۵۲۰۹/۳

ذ

ذبیحہ

ذبیحہ کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام:

۳۲۲/۳، ۵۶، ۵۵، ۵۱، ۴۸، ۴۶، ۴۵، ۴۸، ۲۷/۳

۳۳۳

۲۸۳، ۲۸۲/۲

ذکر

ذکر کا مفہوم:

۳۹۲/۱

ذکر کے فضائل:

۳۹۲/۱

۲۶۵، ۲۶۳/۲

۵۷۸/۳

۳۳۵/۲

۱۹۵/۵

۶۹۸، ۶۹۵/۲

۱۷۵، ۱۷۱/۷

ذکر کرنے کی مختلف صورتیں:

۳۹۲/۱

۵۳۲، ۲۶۰/۲

۱۶۷/۳

ذکر اور نماز سے غفلت کی خرابیاں:

۲۲۹/۳

ذکر کرنے کے آداب:

۵۷۶/۳

۱۶۸۵، ۱۶۵/۳

دین پر ثابت قدم رہنے کا حکم:

۷۵۲/۶

دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کی سزا:

۶۸۸، ۶۷۶/۷

تمام ادیان کی مشترکہ باتیں:

۶۷۸/۷

ممنوعہ دینی تفرقہ کی حدود:

۶۷۹/۷

خود ساختہ دین معتبر نہیں:

۶۸۸/۷

دین سے غفلت کی ممانعت:

۳۵۸، ۳۵۷/۸

دین کے دو دشمنوں سے بچنے کا حکم:

۳۶۸/۸

انسان کے لئے دین کی آزمائش:

۳۷۰، ۳۶۹، ۳۶۸/۸

دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ممانعت:

۷۲۸، ۷۲۲/۸

دین سے روکنے کی سزا:

۷۸۱/۸



## حضرت ذوالکفل علیہ السلام

آپ نبی تھے یا ولی:

۲۱۷/۶

آپ کا عجیب قصہ:

۲۱۷/۶

آپ کی فضیلت:

۲۱۷/۶

آپ کا اجمالی تذکرہ:

۵۲۵/۷

ذکر کرنے کا حکم:

۱۶۸، ۱۶۵/۳

۱۷۳، ۱۷۱، ۱۳۳/۷

۳۹۸، ۳۱۰، ۳۰۵، ۱۷۶/۸

ذکر کی تاثیر:

۱۷۸/۳

ذکر ایک آسان عبادت:

۲۵۱/۳

ذکر کرتے وقت مومنوں کی حالت:

۲۶۵/۶

مومنوں کو کوئی چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی:

۳۲۰/۶

ذکر کی اہمیت:

۵۹۳/۸



## ذمی

اسلام میں ذمیوں کے متعلق احکام:

۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۱، ۳۰۹، ۲۹۷، ۲۶۸، ۲۳۳/۳

۳۲۳، ۳۲۳

## ذوالحجہ

عشرۃ ذوالحجہ کی فضیلت:

۷۳۹/۸

## حضرت ذوالقرنینؑ

حضرت ذوالقرنینؑ کے تین سفر:

۶۳۳ تا ۶۲۷/۵



رَبِّ

لفظ "رَبِّ" کی تشریح:

۸۲۳۸۰/۱

لفظ "رَبِّي" کی تشریح:

۲۰۰/۲

رَبَا

سود کے متعلق تفصیلی مباحث:

۶۸۰۴۶۳۵/۱

۱۷۶/۲

۷۵۰،۷۴۳/۶

رَحْمَت

اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت:

("اللہ تعالیٰ" کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں)

سورة الرحمن

"قَبَائِيْ اِلَآءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِيْنَ" کے تکرار کی حکمت:

۲۳۰/۸

سورة کا تعارف:

۲۳۲/۸

سورة کو لفظ "رحمن" سے شروع کرنے کی حکمت:

۲۳۲/۸

رِزْق

اللہ تعالیٰ کی صفتِ رزاقیت:

۵۰۱،۵۰۰،۴۴۴،۴۱۵،۱۶۶،۱۶۵،۱۳۸۴۱۳۱/۱

۵۹،۴۷،۴۳/۲

۴۸۳،۴۷۸/۳

۵۹۳۴۵۸۸،۵۲۷/۳

،۴۷۶،۴۷۲،۴۷۰،۴۵۸،۴۹۲،۴۸۹،۱۹۵/۵

۵۰۵،۴۷۳،۴۷۲

،۷۰۹،۷۰۷،۶۶۳،۵۹۳،۴۰۵،۴۷۸،۱۶۵،۱۶۲/۶

۷۴۳

،۵۸۵،۵۶۵،۴۱۶،۴۰۲،۴۰۱،۴۹۹،۴۹۸،۴۹۱/۷

۷۷۶،۷۶۸،۶۸۷،۶۸۳،۶۷۳،۶۱۵

،۴۸۶،۴۷۶،۴۷۳،۴۷۹،۴۷۸،۱۷۱،۱۵۷،۱۳۲/۸

۴۹۳،۴۹۲

رزقِ طلال کھانے کا حکم:

۴۱۵/۱

۴۰۱،۴۱۹/۳

رزق صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں:

۵۱۹،۵۱۲/۲

۷۴۳،۲۲۳/۶

ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے:

۵۸۹،۵۸۸/۳

۱۶۲/۸

ایک سوال کا جواب:

۵۹۰/۳

رزق کی آسانی کا طریقہ:

۱۶۵/۶

فراخی رزق کو خوش نصیبی سمجھنا غلط ہے:

۶۶۳،۶۶۳/۶

۸۴۱/۸

اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے کا حکم:

۶۸۱/۶

رشوت کی شرعی تعریف:	وسعت رزق کے لئے ایک مجرب عمل:
۱۵۱/۳	۶۸۷/۷
۳۹۷/۵	تمام انسانوں کے لئے رزق وسیع نہ ہونے کی حکمت:
رضاعت	۶۹۶/۷
بچے کو زودھ پلانے کے متعلق مسائل و احکام:	رزق پہنچانے کا نظام قدرت:
۵۸۳۳۵۷۹/۱	۲۳۶/۸
۳۶۱۶۳۵۹/۲	رزق کی وسعت وحشی کے ساتھ انسان کی آزمائش:
۸۰۵، ۸۰۴، ۳۷/۷	۷۳۶/۸
۳۹۲، ۳۹۱، ۳۷۵/۸	رزق کے متعلق انسانی احوال:
رقیم	۷۷۶، ۷۳۲، ۷۴۱، ۷۳۷، ۷۳۶/۸
رقیم کا مطلب:	رسم و رواج
۵۵۰/۵	عید و تہوار منانے کا اسلامی اصول:
اصحاب رقیم کون ہیں:	۳۳/۳
۵۵۱/۵	عید و تہوار منانے کے جدید طریقے اور ان کا رد:
رمضان المبارک	۳۵/۳
رمضان المبارک کی اہمیت:	چند رسوم جاہلیت کا انسداد:
۳۳۸، ۳۳۷/۱	۳۶۳/۳
۷۹۳/۸	رسم و رواج کے تحفظ کی دو دلیلیں اور ان کا رد:
رواداری	۵۳۹/۳
رواداری کے متعلق احکامات:	رسم و رواج کی نحوست:
۳۷۰، ۳۶۹/۱	۶۷۰/۱
۵۹۳، ۱۵۸، ۹۳، ۵۰، ۳۸/۲	رشوت
۲۰۲، ۸۳/۳	رشوت کی تباہ کاریاں:
۳۱۹، ۳۱۷، ۳۱۶، ۲۷۳، ۲۷۱، ۲۳۵، ۲۳۳/۴	۱۵۱/۳
۳۹۵، ۳۹۴/۵	۳۹۶/۵
۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۶۰/۸	رشوت کی حرمت:
	۱۵۱/۳



روایت	روح
روایت بالمعنی کے متعلق حکم:	بنی نوع انسان سے عالم ارواح میں خطاب:
۲۳۳، ۲۳۲/۱	۵۵۳/۳
تاریخی روایات نقل کرنے میں احتیاط اور سچائی کی ضرورت:	روح اور نفس کے متعلق ایک تحقیق:
۱۱۱/۳	۲۹۸/۵
رُؤیا	۶۶۵/۸
لفظ "خواب" کے تحت دیکھیں۔	روح سے کیا مراد ہے:
رُؤیتِ باری تعالیٰ	۵۲۵/۵
رُؤیتِ باری تعالیٰ کی بحث:	کفار کا سوال اور اس کا جواب:
۴۱۲ تا ۴۰۸/۳	۵۲۸ تا ۵۲۶/۵
۶۱/۴	روح کی اقسام:
موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دیدار کا مطالبہ:	۴۰۳/۶
۶۱/۴	۶۹۸/۸
رُؤیتِ باری تعالیٰ کی بحث:	سورۃ النبا میں روح سے کیا مراد ہے:
۶۱/۴	۶۵۹/۸
جنت میں دیدارِ باری تعالیٰ:	موت کے بعد انسانی رُوحوں کا مقام:
۶۹۶، ۶۲۷/۸	۷۴۴، ۶۹۷، ۶۹۴، ۶۹۱/۸
کافروں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا:	شہداء کی ارواح کا مقام:
۶۹۲/۸	۶۹۷/۸
سورۃ رُوم	نیک ارواح سے الہی خطاب:
سورۃ کا شانِ نزول:	۷۴۵، ۷۳۸/۸
۷۴۱ تا ۷۱۹/۶	چند عجیب واقعات:
رہبانیت	۷۴۵/۸
راہبوں کے دو گروہ:	روزہ
۳۲۳/۸	"صوم" کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

ز

زبور

زبور کے مشتملات:

۳۹۷، ۳۹۶/۵

سورۃ الانبیاء میں زبور سے کیا مراد ہے:

۲۳۱/۶

زقوم

زقوم سے دو زخیموں کی میزبانی:

۷۷۳، ۷۷۲، ۳۳۰/۷

۲۶۸/۸

زقوم کی حقیقت:

۳۳۱/۷

سورۃ زخرف

یہ سورۃ کہاں نازل ہوئی:

۷۱۷/۷

حضرت زکریا علیہ السلام

آپ کی طرف سے حضرت مریم کی کفالت:

۵۸/۲

آپ کی بڑھاپے میں اولاد کی دعا اور اس کی قبولیت:

۶۳۵، ۵۹/۲

۲۲۵، ۲۲۲، ۱۷۵، ۱۵/۶

آپ کی فضیلت:

۳۸۵/۳

۲۲۵، ۲۲۲/۶

ہبانیت کے متعلق احکام:

۳۲۹، ۳۲۳/۱

ریا کاری

ریا کاری کی مذمت:

۴۱۸، ۴۱۷/۱

۶۶۱/۵

۵۳۶/۷

بھلاوے کی نماز کی قباحت:

۸۲۶، ۸۲۵/۸



سورۃ زلزال	زکوٰۃ
سورۃ کی فضیلت:	بنی اسرائیل کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم:
۸۰۲/۸	۲۵۳، ۲۱۵، ۲۱۲/۱
زمین	۷۳، ۷۳/۳
زمین و آسمان کی پیدائش:	زکوٰۃ کا لغوی و اصطلاحی معنی:
۱۷۳/۱	۲۱۵/۱
۵۷۱/۳	زکوٰۃ کی فرضیت:
۵۸۹، ۵۰۱، ۴۹۸/۴	۴۸۸/۱
۱۶۷ ۵۱۶۵/۵	۴۳۹، ۴۹۷، ۴۹۱، ۴۸۸/۶
۴۸۰، ۱۸۱، ۱۸۰/۶	۶۰۰، ۵۸۸، ۴۳۳/۸
۶۳۲/۷	زکوٰۃ کا ذبیوی فائدہ:
۶۶۳/۸	۶۷۶/۱
اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں:	ایک تنبیہ:
۴۸، ۱۴/۴	۸۰، ۷۹/۳
آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے:	زکوٰۃ کے مسائل و احکام:
۶۱۴، ۶۵۹، ۵۵۳، ۴۵۰، ۱۷۵، ۱۴۶، ۹۹/۴	۴۷۰/۳
زمین پر ہجرت حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا چاہئے:	۴۵۵، ۴۱۱، ۴۰۹، ۴۰۷، ۳۶۸، ۳۶۷/۴
۱۸ / ۲	زکوٰۃ نہ دینے کی سزا:
قیامت کے دن زمین کی تبدیلی:	۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۴/۴
۲۷۳، ۲۷۰/۵	زکوٰۃ ٹیکس نہیں، عبادت ہے:
زمین کی زینت:	۴۵۷/۴
۵۴۹/۵	زکوٰۃ کا اجر و ثواب:
زمین و پہاڑ وغیرہ میں بھی شعور ہے:	۷۴۴/۶
۸۳، ۵۹/۶	زکوٰۃ کا حکم کب نازل ہوا:
اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں:	۱۹/۷
۴۵۴/۷	زکوٰۃ کی مقداریں من جانب اللہ مقرر ہیں:
	۵۵۷/۸

س

سابقون

سابقون کی تفسیر:

۲۷۰/۸

سائبہ

سائبہ کا مفہوم:

۲۳۶/۳

سارہ

اولاد کی خوشخبری پر حضرت سارہؓ کا اظہارِ تعجب اور

فرشتوں کا جواب:

۶۳۶، ۶۵۳/۳

۱۶۷، ۱۶۵/۸

سامری

سامری کی فتنہ پر دازی:

۲۲۵/۱

۶۸۵، ۶۳/۳

۱۹۹، ۱۹۸، ۱۳۹ تا ۱۳۲، ۹۹، ۹۸/۶

سامری کا انجام:

۷۰۰/۳

۱۳۶ تا ۱۳۳، ۱۰۰/۶

سامری کا تعارف:

۱۳۵، ۱۳۳، ۹۸/۶

سبا

قوم سبا کی خوش حالی، سرکشی و ہلاکت:

۲۸۷ تا ۲۷۷/۷

قیامت کے دن زمین کی کیفیت:

۵۲۸/۵

۵۷۳، ۵۷۲/۷

۸۰۱، ۸۰۰، ۷۴۳، ۷۳۷، ۷۰۳، ۷۰۱، ۵۸۷/۸

سات زمینیں کہاں واقع ہیں:

۸۰۲/۸

زنا

زنا کی حرمت اور زانیوں کی سزا کے احکام:

۳۳۸ تا ۳۳۵/۲

۵۷۲، ۴۷۵/۵

۳۵۳، ۳۴۹، ۳۳۸، ۳۳۶، ۳۳۳ تا ۳۳۱، ۲۹۷/۶

۵۰۵، ۴۹۹، ۴۱۷، ۴۱۶

زوجہ

لفظ ”بیوی“ کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

زُہد

زُہد کے ساتھ جمع مال کا جواز:

۳۰۳/۲

زیتون

روغن زیتون کی برکات:

۳۲۳/۶

حضرت زید بن حارثہ

آپ کا تعارف و مکمل واقعہ:

۱۵۷ تا ۱۳۶/۷

حضرت زینب بنت جحش

حضرت زید بن حارثہ کے آپ سے نکاح کا واقعہ:

۱۵۷ تا ۱۳۹/۷

سحر	قوم سبا کا تعارف:
جاؤ و کے متعلق اسلامی احکام:	۲۸۰، ۲۷۹/۷
۲۷۸۲۷۳/۱	سجدہ تعظیمی
۱۰۸/۶	فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی:
۲۸۷۲۳۸۵/۸	۱۸۷/۱
سدرۃ المنتہی	۵۲۶، ۵۲۵/۳
سدرۃ المنتہی کا تعارف:	۵۹۹، ۵۰۲، ۲۹۶/۵
۱۹۲، ۱۹۱/۸	۵۲۹/۷
سرگزشت مصنف	اسلام میں سجدہ تعظیمی کی حرمت:
حضرت مفتی اعظم پاکستان کی سرگزشت:	۱۸۹، ۱۸۸/۱
۶۰/۱	۱۶۹، ۱۶۵/۳
۵۳۳، ۵۳۳، ۲۷۷، ۲۷۶/۵	۱۵۱، ۱۴۵/۵
سفارش	۳۸۷، ۳۸۱/۶
سفارش کے شرعی احکام:	۶۵۳/۷
۵۰۰۲۳۹۷/۲	۵۸۱، ۵۷۲، ۵۲۸/۸
سفر	سجدہ تلاوت
تجربہ سفر کرنے کی ممانعت:	سجدہ تلاوت کے بعض مسائل:
۳۷۳/۲	۲۸۸/۶
سفر و قصر کے احکام:	۶۵۵، ۵۰۶/۷
۵۳۳، ۵۳۳/۲	حجین
۳۳۳۲۳۳۱/۵	حجین کا تعارف:
سفر کے وقت کی دعائیں:	۶۹۵، ۶۹۱/۸
۷۲۳/۷	حج
سلام	”صدق“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں۔
لفظ ”تہیہ“ کی تشریح:	
۵۰۱/۲	

آپ کی ملکہ بلقیس سے مراسلت:	اسلامی سلام کا امتیاز:
۵۸۷۳۵۷۵/۶	۵۰۱/۲
ملکہ سبا کا آپ پر ایمان لے آنا:	آداب و فضائل:
۵۸۸/۶	۵۰۶۳۵۰۲/۲
کیا بلقیس حضرت سلیمان کے نکاح میں آگئی تھیں:	۶۳۸/۳
۶۸۸/۶	کافر کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں:
آپ کا واقعہ وفات:	۳۵/۶
۲۷۳،۲۵۹/۷	
اس واقعہ کے نتائج:	حضرت سلیمان علیہ السلام
۲۷۵،۲۷۴،۲۵۹/۷	حضرت سلیمان کی طرف جاؤ کی نسبت کی حقیقت:
بیت المقدس کے لئے آپ کی دعائیں:	۲۷۱،۲۷۰/۱
۲۷۶،۲۷۵/۷	حضرت سلیمان کے فضائل:
آپ کے چند واقعات:	۶۰۱/۲
۵۱۵۳۵۱۲/۷	۳۸۵/۳
آپ کی بے مثال سلطنت ملنے کی دعا:	۵۶۵،۵۶۳/۶
۵۱۹،۵۱۸/۷	۵۱۲،۲۵۸/۷
سماع موتی	آپ کا ایک فیصلہ:
مردوں کے سننے، نہ سننے کی بحث:	۲۰۸۳۲۰۵/۶
۷۶۱،۶۰۳۳۶۰۲/۶	آپ کے لئے ہوا اور جنات و شیاطین کی تسخیر:
۳۳۳/۷	۲۱۳،۲۱۲،۲۰۷،۲۰۶/۶
سمندر	۵۱۸،۲۵۸/۷
”بحر“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں۔	ایک لطیفہ:
سنت اللہ	۲۱۳/۶
اللہ تعالیٰ کی سنت:	آپ کا چوٹیوں کے میدان سے گزرنے کا واقعہ:
۵۱۲،۵۱۰/۵	۵۶۵/۶
۶۲۲،۲۳۲،۱۳۶/۷	آپ کے پاس ہدہ کا ملکہ سبا کی خبر لے آنا:
۸۵/۸	۵۷۰،۵۶۹/۶

نفس بُری بات ہی بتاتا ہے:	اللہ تعالیٰ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا:
۸۴/۵	۳۵۶/۷
مومن بُرے حساب سے ڈرتے ہیں:	۸۵/۸
۱۹۱، ۱۸۸/۵	سود
کافروں کا بُرا انجا	لفظ ”ربا“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔
۳۳۱، ۳۳۰/۵	سورج
۶۰۹، ۶۰۸/۷	لفظ ”شمس“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔
نیک اور بُرے کام کرنے والے برابر نہیں:	سوء (بُرائی)
۳۲۰/۷	شیطان بُری اور گندی باتوں کی تعلیم دیتا ہے:
۳۲/۸	۴۱۱/۱
سوال	بُرے اعمال کرنے والوں کی قیامت کے دن آرزو:
سوال کرنے والوں کا حق:	۴۸/۲
۴۳۰/۱	بُرے اعمال کرنے والوں کی توبہ کی قبولیت:
لوگوں کے حضور علیہ السلام سے سوالات:	۵۳۷، ۳۳۲/۲
۵۳۳، ۵۳۸، ۵۲۱، ۵۱۲، ۵۱۱، ۴۶۵، ۴۵۱/۱	۳۳۹، ۳۳۱/۳
۳۹/۳	۴۱۳/۵
۱۷۲/۴	۵۶۰/۶
۶۲۸، ۶۲۷، ۵۲۳/۵	۵۷۰، ۵۶۹/۷
کافروں کے حضور علیہ السلام سے سوالات:	بُرے اعمال کی سزا ملے گی:
۵۹۷/۱	۵۵۳، ۵۵۲/۲
۱۳۹/۴	دوسروں کے بُرے کاموں کو معاف کرنے کی فضیلت:
۱۳۹/۶	۵۹۳، ۵۹۲/۲
۲۳۶/۷	کافروں کے لئے بُرے اعمال کی ترمیم:
بے ضرورت سوال کرنے کی ممانعت:	۳۷۰/۴
۲۴۵/۳	سوء اور فحشاء میں فرق:
کافروں سے سوالات:	۵۱/۵
۴۱۵/۴	

ش

شانِ نزول

- البقرہ ۱۱۳: ۲۹۸، ۲۹۵/۱  
 البقرہ ۱۸۸: ۳۶۰/۱  
 البقرہ ۱۹۱، ۱۹۰: ۳۷۰، ۳۶۶، ۳۶۵/۱  
 البقرہ ۱۸۹: ۳۶۷، ۳۶۶/۱  
 البقرہ ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۷: ۳۹۶/۱  
 البقرہ ۲۰۸: ۳۹۸/۱  
 البقرہ ۲۱۵: ۵۱۱/۱  
 البقرہ ۲۱۷: ۵۱۵/۱  
 البقرہ ۲۱۹: ۵۲۱، ۵۱۲/۱  
 البقرہ ۲۲۰: ۵۳۸/۱  
 آل عمران ۲۷، ۲۷: ۳۳، ۳۲/۲  
 آل عمران ۹۸: ۱۲۳/۲

- ۷۰۷/۶  
 ۷۵۲، ۵۵۹، ۴۳/۷  
 قیامت کے دن کن امور کے متعلق سوال ہوگا:  
 ۴۸۱، ۴۷۹، ۳۹۴، ۳۵۳/۵  
 ۶۷۸/۶  
 ۷۲۱، ۹۶/۷  
 اللہ تعالیٰ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا:  
 ۱۷۵/۶  
 جنتیوں کے باہمی سوالات:  
 ۴۳۳/۷

سیاست

اسلامی سیاست کا ایک امتیاز:  
 ۵۲۶/۱

سیر و سیاحت

سیر و سیاحت کا شرعی مقصد:  
 ۲۷۳/۶





النساء ۱۰۵ تا ۱۱۲:	آل عمران ۱۱۸:
۵۳۸/۲	۱۵۶/۲
النساء ۱۲۷ تا ۱۳۰:	آل عمران ۱۲۸:
۵۵۸/۲	۱۷۵، ۱۷۳/۲
النساء ۱۵۳، ۱۵۴:	آل عمران ۱۸۱:
۵۹۷/۲	۲۵۳/۲
النساء ۱۶۶:	آل عمران ۱۸۳:
۶۱۳، ۶۱۲/۲	۲۵۳/۲
المائدة ۲:	آل عمران ۱۹۰ تا آخر:
۱۵/۳	۲۶۱/۲
المائدة ۳:	النساء ۳:
۳۳، ۳۲/۳	۲۸۵/۲
المائدة ۴:	النساء ۴۳:
۳۹/۳	۳۲۲/۲
المائدة ۱۱:	النساء ۵۱، ۵۲:
۷۵/۳	۳۳۲/۲
المائدة ۴۱ تا ۴۳:	النساء ۶۰ تا ۶۳:
۱۳۹/۳	۷۵۷، ۳۵۶/۲
المائدة ۵۲، ۵۳:	النساء ۶۶ تا ۶۸:
۱۷۰/۳	۳۶۳/۲
المائدة ۵۵:	النساء ۶۹، ۷۰:
۱۷۸/۳	۳۶۷/۲
المائدة ۵۸:	النساء ۷۷ تا ۷۹:
۱۸۰/۳	۳۸۱/۲
المائدة ۹۳:	النساء ۸۳:
۲۳۱/۳	۳۹۱/۲
المائدة ۱۰۰:	النساء ۹۳ تا ۹۶:
۲۳۲/۳	۵۱۹/۲

الانفال ۱۱ تا ۱۴:	المائدة ۱۰۱ تا ۱۰۳:
۱۹۷/۳ تا ۱۹۳/۳	۲۳۵/۳
الانفال ۱۵ تا ۱۹:	المائدة ۱۰۴:
۲۰۳/۳ تا ۱۹۸/۳	۲۳۸/۳
الانفال ۲۰:	المائدة ۱۰۶ تا ۱۰۸:
۲۱۵/۳	۲۵۳/۳
الانفال ۳۰ تا ۳۳:	الانعام ۷:
۲۲۵/۳ تا ۲۱۷/۳	۲۸۶/۳
الانفال ۳۶:	الانعام ۸:
۲۲۹/۳	۲۸۷/۳
الانفال ۴۲ تا ۴۴:	الانعام ۱۹:
۲۴۹/۳ تا ۲۴۳/۳	۲۹۵/۳
الانفال ۴۸، ۴۹:	الانعام ۳۳:
۲۵۹/۳ تا ۲۵۵/۳	۳۱۵/۳
الانفال ۶۷ تا ۶۹:	الانعام ۵۰:
۲۸۸/۳ تا ۲۸۱/۳	۳۲۶/۳
الانفال ۷۰، ۷۱:	الانعام ۱۰۸:
۲۹۱/۳ تا ۲۸۸/۳	۳۱۸/۳
الانفال ۷۲ تا ۷۵:	الانعام ۱۱۸ تا ۱۲۱:
۳۰۲/۳ تا ۲۹۲/۳	۳۳۲/۳
التوبة ۵:	الانعام ۱۲۳:
۳۱۳/۳ تا ۳۰۷/۳	۳۳۲/۳
التوبة ۱۹ تا ۲۲:	الانفال ۱:
۳۳۳/۳ تا ۳۳۳/۳	۱۷۳/۳ تا ۱۷۲/۳
التوبة ۶۰:	الانفال ۶۰، ۶۵:
۳۹۳/۳	۱۸۸/۳ تا ۱۸۴/۳
التوبة ۷۴:	الانفال ۷ تا ۱۰:
۴۲۵/۳	۱۹۳/۳ تا ۱۸۹/۳

١٢: دود:	التوبه ٤٥:
٥٩٩، ٥٩٨/٣	٣٢٦/٣
يوسف:	التوبه ٨٣:
١٥٥، ٢٩، ١٤/٥	٣٣٣/٣
الرعد ٣٢:	التوبه ٨٩ تا ٤٥:
٢٠٣، ٢٠٣/٥	٣٣٩/٣
النحل ٣٢، ٣١:	التوبه ٩٠:
٣٣٩/٥	٣٣٠/٣
النحل ١٢٦:	التوبه ٩١ تا ٩٣:
٣٣٣/٥	٣٣٢، ٣٣١/٣
بنى اسرائيل ١:	التوبه ٩٣ تا ٩٦:
٣٣٨/٥	٣٣٥ تا ٣٣٣/٣
بنى اسرائيل ١١:	التوبه ٩٤ تا ٩٩:
٣٥٣/٥	٣٣٨ تا ٣٣٦/٣
بنى اسرائيل ٢٨:	التوبه ١٠١:
٣٤١/٥	٣٥١/٣
بنى اسرائيل ٣٥، ٣٦:	التوبه ١٠٢ تا ١٠٦:
٣٩١/٥	٣٥٨ تا ٣٥٢/٣
بنى اسرائيل ٤٣ تا ٤٥:	التوبه ١٠٤ تا ١١٠:
٥١١، ٥١٠/٥	٣٦٥ تا ٣٥٩/٣
بنى اسرائيل ٨٥:	التوبه ١١١، ١١٢:
٥٢٤ تا ٥٢٥/٥	٣٦٩ تا ٣٦٦/٣
بنى اسرائيل ٩٠ تا ٩٥:	التوبه ١١٣، ١١٤:
٥٣٢، ٥٣١/٥	٣٧٢ تا ٣٧٠/٣
بنى اسرائيل ١٠١:	التوبه ١١٤ تا ١١٩:
٥٣٠/٥	٣٨٥ تا ٣٨٢/٣
بنى اسرائيل ١١٠، ١١١:	التوبه ١٢٢:
٥٣٢/٥	٣٨٦/٣

الفرقان ۷۰:	الکہف:
۵۰۶/۶	۵۳۶/۵
القصص ۵۶:	الکہف ۲۸:
۶۲۸/۶	۵۸۷، ۵۸۶/۵
العنکبوت ۱۰ تا ۱۳:	مریم ۶۳:
۶۷۸/۶	۴۷/۶
الروم:	مریم ۸۲ تا ۷۷:
۷۱۹/۶	۵۳/۶
لقمان ۶:	طہ ۵۳ تا ۵۵:
۱۹/۷	۶۳/۶
لقمان ۴۷:	الحج ۱۱ تا ۱۳:
۴۸/۷	۲۳۳/۶
الاحزاب:	الحج ۱۹:
۷۹، ۷۸/۷	۲۳۹/۶
الاحزاب ۴، ۵:	الحج ۲۵:
۸۵ تا ۸۳/۷	۲۵۲/۶
الاحزاب ۴۸، ۴۹:	الحج ۶۷:
۱۴۷، ۱۴۶/۷	۲۸۲/۶
الاحزاب ۳۶ تا ۳۹:	النور ۶ تا ۱۰:
۱۴۸/۷	۳۶۱ تا ۳۵۸/۶
الاحزاب ۵۴، ۵۵:	النور ۵۷ تا ۵۵:
۲۰۱، ۲۰۰/۷	۳۳۹/۶
سبا ۳۳ تا ۳۸:	النور ۶۱:
۲۹۸/۷	۳۵۰، ۳۳۹/۶
الصف ۶۲ تا ۷۴:	النور ۶۲ تا ۶۴:
۳۳۱/۷	۳۵۳/۶
ص ۱۶ تا ۱۶:	الفرقان ۲۸:
۳۹۳/۷	۴۷۰/۶

الحجرات ١٣ تا ١٨:	الزمر ٤، ١٨:
١٢٨/٨	٥٢٤/٤
النجم ٣٣ تا ٢١:	الزمر ٣٦:
٢١٢/٨	٥٥٩/٤
الحجادة ١ تا ٣:	الزمر ٥٣:
٣٣٢/٨	٥٦٩/٤
الحجادة ٤ تا ١٣:	الشورى ٢٤:
٣٣٦، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٩/٨	٦٩٨/٤
الحشر:	الزخرف ٥٤، ٦٥:
٣٦٥، ٣٥٥/٨	٤٣٥/٤
الممتحنة ١ تا ٦:	الحاشية ٤ تا ١١:
٣٠١، ٣٩٩/٨	٤٤٨/٤
الممتحنة ٨، ٩:	الحاشية ١٣، ١٥:
٣٠٥/٨	٤٨٠/٤
الممتحنة ١٠ تا ١١:	محمد:
٣١١، ٣١٠، ٣٠٨، ٣٠٤/٨	٢٠/٨
القصف ١ تا ٣:	الفتح ٢٤:
٣٢٣/٨	٨٩/٨
المجده ٩ تا ١١:	الحجرات ١ تا ٣:
٣٢٢، ٣٢٣/٨	٩٨/٨
المنافقون:	الحجرات ٢، ٥:
٥٥٣، ٣٢٨/٨	٣٠٢، ٩٩/٨
التغابن ١٢:	الحجرات ٦:
٣٦٩/٨	١٠٣/٨
التغابن ١٦:	الحجرات ٩، ١٠:
٣٤١/٨	١١١، ١١٠/٨
الطلاق ٢، ٣:	الحجرات ١٣:
٣٨٦/٨	١٢٣/٨

الاخلاص:	التحریم:
۸۴۲/۸	۴۹۸/۸
شام	الجن:
ملک شام کی فضیلت:	۵۷۳، ۵۷۰/۸
۲۰۳، ۱۹۶، ۱۹۵/۶	المزمل:
شر	۵۸۹، ۵۸۸/۸
شر کا معنی:	المدثر:
۷۴۸/۸	۶۱۰، ۶۰۹/۸
شرافت	المدثر ۱۱:
اعلیٰ درجہ کی عزت و شرافت:	۶۱۳ تا ۶۱۲، ۶۰۵/۸
۵۲۳/۲	المدثر ۳۱:
عزت اللہ ہی سے طلب کرنا چاہئے:	۶۱۵/۸
۵۸۲/۲	العجب:
شرافت کا اسلامی معیار:	۶۷۲، ۶۷۰/۸
۳۳۲، ۳۳۱/۳	البروج:
۵۳۵/۶	۷۱۳، ۷۱۰/۸
شرح صدر	اللیل ۱، ۷، ۱۸:
شرح صدر کا مطلب:	۷۶۳/۸
۵۵۰/۷	الضحیٰ:
شرک	۷۶۵/۸
آخرت میں شرک کی معافی ممکن نہیں:	العلق ۶ تا ۱۹:
۹۸/۱	۷۸۹، ۷۸۸/۸
۵۳۸، ۴۲۹/۲	القدر:
علامات شرک کا حکم:	۷۹۱/۸
۹۹/۱	الفیل:
	۸۱۷/۸
	اللہب:
	۸۳۹/۸

شرک کی دائمی سزا کی وجہ:	غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دو قسمیں:
۵۵۰/۲	۱۰۱/۱
مشرکین کی حالتِ زار:	شرک کی ممانعت:
۴۱۰/۱	۱۳۷، ۱۳۱/۱
۶۱۹، ۶۱۸/۲	۴۸۶/۵
۳۳۳، ۳۰۳، ۳۰۲، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۰۷/۳	۲۷۶، ۲۷۵، ۲۶۲، ۲۶۱/۶
۶۰۸، ۵۲۷، ۱۳۶، ۱۳۵/۳	اسبابِ شرک کی ممانعت:
۵۹۵، ۵۹۴، ۵۹۱، ۴۹۸، ۳۳۱، ۳۲۸، ۲۰۷، ۲۰۱/۵	۱۸۹، ۱۸۸/۱
۴۵۷، ۴۶۴، ۳۳۸، ۲۸۵، ۲۳۰، ۲۲۸، ۱۷۵/۶	۴۶/۵
۷۳۳، ۶۸۱، ۶۶۰، ۶۵۶، ۶۵۵، ۶۳۳، ۵۲۸	یہود و نصاریٰ کے شرکیہ عقائد و اقوال کا رد:
۴۲۹، ۴۲۶، ۳۲۵، ۳۰۵، ۲۹۰، ۲۸۹، ۷۵، ۲۸/۷	۳۰۳/۱
۵۴۱، ۴۳۲، ۴۲۸، ۴۰۹، ۴۰۷، ۴۳۲، ۴۲۸، ۴۵۳	۳۶۲، ۳۵۸/۳
۶۷۱، ۶۲۲، ۶۱۸، ۵۹۹، ۵۹۸، ۵۸۹، ۵۶۱، ۵۵۹	مشرکین کا جرم و سزا:
۷۹۲، ۷۷۷، ۷۵۲	۴۱۰، ۴۰۸/۱
۵۲۸، ۴۰۷/۸	۲۹۳/۳
مشرکوں کا دوغلا پن:	۵۵۳، ۵۴۸، ۵۲۴/۴
۴۵۳، ۴۵۲، ۴۱۵/۳	۶۵۸، ۶۵۷/۵
۵۲۳، ۵۱۸، ۵۱۵/۴	۷۵۲، ۷۵۱، ۵۴۸، ۵۳۰/۶
۷۵۲، ۶۶۶، ۵۶۵، ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۴۰/۷	۷۳۷، ۶۸۸، ۶۷۱، ۶۲۵، ۶۰۹، ۵۶۴، ۴۳۱/۷
شرک کا ابطال:	شرک کی حقیقت:
۴۱۸/۳	۵۵۰، ۴۳۰/۲
۵۴۳، ۵۳۲، ۵۳۰، ۵۲۸، ۵۲۷، ۱۵۳، ۱۵۱/۴	۴۸۱/۳
۶۶۱، ۴۹۸، ۴۸۶، ۴۷۶، ۴۷۱، ۴۷۰/۵	۲۶۱/۶
۶۵۷، ۵۲۸، ۴۲۷، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۳۸، ۱۳۳، ۵۸/۶	شرک کی اقسام:
۷۳۳، ۷۳۱، ۶۵۸	۴۳۰/۲
۶۳۳، ۶۳۲، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۰۹، ۴۰۶، ۴۵۳/۷	۴۸۱/۳
۷۹۲، ۷۲۳، ۷۲۱، ۶۷۱	۶۳۹، ۱۵۰، ۱۳۹، ۱۳۵، ۱۳۳/۴

حضور علیہ السلام کا شرک سے اظہارِ براءت:	شرک کی قباحتیں:
۵۸۰/۴	۳۸۶، ۳۹۵، ۳۹۴/۳
۳۶۲، ۱۵۷/۵	۳۵۵/۴
۶۶۹/۶	۳۲۸/۵
۵۷۲/۷	۵۳۸، ۳۶۱، ۵۸/۶
مشرکوں کی ضد اور ہٹ دھرمی:	۳۵۴، ۳۵۳، ۳۱۶، ۳۶، ۳۲/۷
۱۵۲/۴	مشرکوں کو تنبیہات:
عرب میں بت پرستی کی تاریخ:	۳۶۱، ۳۵۸، ۳۹۲، ۳۲۳/۳
۲۶۳/۴	۶۵۸، ۳۵۸، ۳۵۷/۵
مشرک مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے:	مشرکوں کی چند شرکاً نہ رسوم اور ان کا ابطال:
۳۲۶/۴	۳۶۳/۳
مسجد الحرام میں مشرکوں کے داخلہ کی ممانعت:	مشرکوں کے عذر، بہانے اور ان کے جوابات:
۳۲۸/۴	۳۷۵/۳
کافر اور مشرک کے لئے دُعاے مغفرت کی ممانعت:	۵۰۰/۴
۳۷۱، ۳۷۰/۴	۳۳۶، ۳۳۵، ۳۵۲/۵
مشرکوں پر دنیوی عذاب نہ آنے کی وجہ:	۵۳۷/۷
۵۲۱/۴	۵۷۳، ۶۳۳، ۶۳۲، ۵۳۷، ۵۶۲، ۵۶۱، ۵۳۲/۸
اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرکیہ امور سے پاک ہیں:	۷۳۷
۳۸۶، ۳۵۵، ۳۱۶، ۳۱۵/۵	مشرکوں کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں:
۶۵۷، ۱۷۵/۶	۳۷۶/۳
۳۸۲/۷	۵۵۳، ۵۵۲/۴
۳۹۰، ۲۰۸، ۲۰۷، ۱۸۵، ۱۸۴/۸	۷۳۲، ۶۶۰، ۳۳۸، ۳۸۵/۶
شرک سے بچنے کا انعام:	۷۹۳، ۷۹۲، ۷۲۱، ۵۹۸، ۳۸۲، ۳۵۴/۷
۳۳۳، ۳۳۳/۵	۲۰۸، ۲۰۷/۸
اللہ تعالیٰ شرک کرنے پر فوری گرفت نہیں کرتے:	شرک کی حرمت:
۳۵۷/۵	۳۸۱/۳



ایک اعتراض کا جواب:	مشرکوں کی اولاد کو عذاب نہ ہوگا:
۷۴۶/۷	۲۵۷/۵
حضور علیہ السلام کی مشرکوں کے خلاف شکایت:	مشرکوں کا آیات قرآنیہ سے گریز و فرار:
۷۵۳/۷	۲۸۵/۶
(مزید تفصیل کے لئے "اللہ جل شانہ" اور "توحید" کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں)	ابطال شرک کے لئے مثالیں:
	۷۳۵، ۷۴۱، ۶۹۳، ۶۹۲، ۲۸۶، ۲۸۵/۶
	ایک سوال و جواب:
	۶۳۱/۶
شریعت	آج کل مشرکوں کی حالت:
ہر امت کی جداگانہ شریعت تھی:	۵۳۶/۷
۱۶۳، ۱۵۷/۳	شرک سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا:
شریعت و طریقت کی وحدت:	۵۳۱، ۵۳۰/۷
۵۳۱، ۱۵۹/۳	موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے:
شرائع کے مختلف ہونے کی وجوہ:	۵۳۲، ۵۳۱/۷
۱۶۳، ۱۶۳/۳	شرک کی نحوست:
امت محمدیہ کے لئے شریعت محمدیہ ہی قابل اتباع ہے:	۷۳۸، ۵۷۲/۷
۷۸۳، ۷۸۲/۷	۷۹۶/۸
سابقہ امتوں کی شرائع کی ہمارے لئے حیثیت:	قیامت کے دن مشرکوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب:
۷۸۳/۷	۶۶۵/۷
(مزید تفصیل کے لئے "اسلام" اور "دین" کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں)	شرک و کفر کے انسانی طبیعت پر اثرات:
	۶۶۶، ۶۶۵/۷
شعائر اللہ	مشرکوں کی ناگواری:
شعائر اللہ کی بے حرمتی کی ممانعت:	۶۷۹، ۶۷۶/۷
۱۷/۳	ہر دور کے مشرکوں کا یکساں ردِ عمل:
شعائر اللہ کی چند صورتیں:	۷۲۲، ۷۲۱/۷
۱۷/۳	کسی امت کو شرک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا:
لفظ "شعائر" کی تحقیق:	۷۳۷/۷
۱۸/۳	

شقِ قمر

معجزہ شقِ قمر کا مکمل واقعہ:

۲۲۵/۸

چند شبہات کے جوابات:

۲۲۷/۸

شکار

شکار کے احکام:

۲۳۵۶۲۳۲/۳

شکر

شکر کرنے کا حکم:

۴۱۵،۳۹۱/۱

۴۱۳،۴۱۲/۵

۵۷۲،۳۱/۷

بعض انعامات جن پر شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے:

۴۳۷/۱

۱۶۲/۲

۵۸۹،۲۲۲/۳

۲۱۰/۴

۳۸۱،۳۸۰،۳۲۳،۳۲۳،۲۵۶۶۲۵۱،۲۲۹/۵

۷۵۹،۶۸۱،۶۵۸،۵۹۸،۴۸۱،۲۶۵/۶

۷۷۹،۶۹۷،۳۲۵،۳۵/۷

اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں:

۵۹۵،۵۹۲/۱

۵۲۶،۵۱۸/۳

۵۳۱/۴

شعائرِ حج کی کچھ تفصیل:

۱۸/۳

شعر

شریعتِ اسلامیہ میں شعر و شاعری کا درجہ:

۳۵۱/۵

۵۵۳۶۵۳۹/۶

۴۰۸۶۴۰۶/۷

حضرت شعیب علیہ السلام

آپ کی اپنی قوم کو تبلیغ، ان کی سرکشی و ہلاکت:

۶۳۱۶۶۲۰/۳

۶۶۱۶۶۵۸/۴

۶۹۱،۵۳۳،۵۳۳/۶

آپ کی قوم کا جرم:

۶۶۰،۶۵۸/۴

اصحاب الایمہ کون تھے:

۶۶۱/۴

شفاعت

قیامت کے دن شفاعت کے متعلق احکام و مسائل:

۶۱۴،۶۱۲،۶۱۰،۴۰۸،۲۲۳/۱

۵۷۱،۳۹۴،۳۲۳/۳

۵۲۱،۵۰۳،۴۹۸/۴

۵۲۰،۵۱۹/۵

۷۲۷،۵۲۸،۷۷۶،۱۳۹،۵۷،۵۶/۶

۶۵۱،۵۶۲،۵۶۱،۳۷۰،۲۸۹،۵۷،۵۶،۵۰/۷

۷۵۱

۶۸۸،۶۵۲،۶۱۷،۶۱۶،۶۰۸،۲۰۷/۸

اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والوں کا ایک قصہ:	۳۸۰، ۶۶/۵
۵۲۷، ۵۲۶/۸	۳۲۶/۶
شمس	۶۱۳، ۲۵۹، ۶۱/۷
سورج کے زیرِ عرش سجدہ کرنے کی تحقیق:	شکرگزاری کا انعام:
۳۹۳۴۳۸۶/۷	۱۹۸، ۱۹۶/۲
سورج کی حرکت کی بحث:	۲۳۰/۵
۳۸۵/۷	۵۳۰، ۲۸۷/۷
چاند، سورج دونوں متحرک ہیں:	شکر ادا کرنے کا پسندیدہ طریقہ:
۵۳۸/۷	۵۸۹/۲
شوریٰ	ناشکری کی ایک صورت:
اسلامی شوراہیت کی خصوصیت:	۱۳۸/۵
۱۸۶/۱	شکر کی حقیقت:
(مزید تفصیل "مشورہ" کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں)	۲۳۳/۵
	۲۷۲/۷
شوہر	شکر اور ناشکری کے نتائج:
لفظ "خاند" کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔	۲۳۳/۵
شہابِ ثاقب	کفار کی ناشکری کی ایک خاص صورت:
شہابِ ثاقب کی حقیقت:	۳۱۲/۵
۲۸۷/۵	اللہ تعالیٰ کسی کے شکر کرنے کے محتاج نہیں:
۳۲۱/۷	۳۱/۷
شہابِ ثاقب کے ذریعہ شیاطین کی سرکوبی:	والدین کا شکر ادا کرنا فرض ہے:
۳۱۵/۷	۳۶/۷
۵۸۰، ۵۷۱، ۵۱۱/۸	قوم عاد کی ناشکری:
شہادت	۲۷۸/۷
گواہی کے متعلق مسائل و احکام:	ناشکری کرنے والوں کو تنبیہ:
۶۸۷۴۶۸۵، ۵۸۸، ۳۷۲/۱	۳۰۷، ۳۸۱/۷
	۲۷۹/۸

۵۲۹، ۳۱۹، ۳۱۷، ۲۲۸، ۲۲۵/۳  
 ۲۵۷، ۲۵۵، ۱۵۹/۳  
 ۶۰۱، ۵۹۹، ۴۹۶، ۴۶۹، ۳۵۸، ۳۵۷، ۱۹، ۱۸، ۱۵/۵  
 ۴۶۹، ۲۷۵، ۲۷۳، ۵۵/۶  
 ۷۳۶، ۴۰۰، ۳۲۱، ۳۲۰، ۲۹۸/۷  
 ۸۵۵، ۸۵۲، ۳۸۷، ۱۲۵، ۲۳/۸  
 شیطان کا حضرت آدمؑ و حوا کو بہکاوا:  
 ۱۹۳ تا ۱۹۱/۱  
 ۵۳۰/۳  
 شیطان برائی کا حکم دیتا ہے:  
 ۶۳۷، ۴۱۱/۱  
 شیطان کی پیروی نہ کرنے کا حکم:  
 ۴۹۸، ۴۱۱/۱  
 ۵۳۲، ۴۶۶/۳  
 حضرت مریم و عیسیٰ علیہما السلام کی شیطان سے حفاظت:  
 ۵۷/۲  
 شیطان کے دوستوں سے لڑنے کا حکم:  
 ۴۷۶/۲  
 شیطانی تدبیر کے کمزور ہونے کی دو شرطیں:  
 ۴۷۸/۲  
 شیطان کا اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ:  
 ۵۳۸/۲  
 شیطانی وعدہ کی نوعیت:  
 ۵۳۹/۲  
 شیطان سے دوستی کی قباحت:  
 ۵۳۹/۲  
 چند شیطانی کام:  
 ۲۲۵/۳

۵۷۵، ۵۷۱، ۴۳۶، ۴۳۵/۲  
 ۲۵۸، ۲۵۵، ۷۱۷، ۶۹/۳  
 ۱۲۵/۵  
 ۵۵۸، ۴۸۳/۸

شہید

لفظ "نخل" کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

شہداء

انبیاء و شہداء کی حیاتِ برزخیہ:

۳۹۷/۱

۶۰۳/۶

شہداء کے خاص فضائل و درجات:

۳۹۸ تا ۳۹۶/۱

۴۶۶، ۴۳۶، ۴۳۲، ۴۳۱/۲

۶۱۰/۶

۶۹۷، ۳۰۶، ۳۰/۸

شہید کے کہتے ہیں:

۴۷۱/۲

کیا ہر مومن شہید ہے:

۳۱۲، ۳۱۱/۸

شہرت

نیک شہرت بھی دین میں پسندیدہ ہے:

۸۳۸/۷

شیطان

شیطان کے احوال:

۶۳۷، ۴۱۱، ۱۹۷، ۱۸۲/۱

۵۴۹، ۴۷۷، ۴۷۶، ۴۵۵، ۴۰۸، ۴۳۹/۲

شیطان لشکر کیا ہے:	قیامت کے دن شیاطین سے باز پرس ہوگی:
۵۰۳/۵	۴۴۹/۳
شیطان بہت بُرا بدل ہے:	۴۹،۴۸/۶
۵۹۹/۵	کن لوگوں پر شیطان مسلط ہوتا ہے:
شیطان سے غافل نہ ہونا چاہئے:	۵۳۷،۵۳۶،۵۳۳،۵۳۲/۳
۱۵۴/۶	۵۴۹/۶
شیطان کسے کہتے ہیں:	شیطان فتنوں سے بچنے کا حکم:
۲۱۳/۶	۵۳۳/۳
شیطان طریقہ واردات:	انسان پر شیطان کا پہلا حملہ:
۲۷۶/۶	۵۳۳/۳
قرآن مجید کی شیطانی اثرات سے پاکیزگی:	شیطان سے بچاؤ کا طریق:
۵۴۸/۶	۵۳۶/۳
شیطان کی مکمل پیروی کی قباحت:	۴۵۸،۱۵۴/۴
۴۰۳/۷	۴۰۲/۵
شیاطین کا خدائی سے کوئی واسطہ نہیں ہے:	شیطان و سوسوں سے پناہ مانگنی چاہئے:
۴۲۳،۴۲۱/۷	۱۵۴/۴
قیامت کے دن کافروں کا شیاطین سے اظہارِ براہت:	۴۳۰،۴۲۸/۶
۷۳۶/۷	شیطان کا دوزخیوں سے مکالمہ:
اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں پر شیطان کے مسلط نہ ہونے کا معنی:	۴۴۱/۵
۴۹۰،۴۸۸/۸	شیطان و عدے کی حقیقت:
شیطان کی قیامت کے دن معذرت:	۵۰۲،۴۴۱/۵
۱۴۵،۱۳۹/۸	آسمان و دنیا کی شیطانوں سے حفاظت:
وساوسِ شیطانیہ کا علاج:	۴۸۷،۴۸۶/۵
۴۹۴/۸	۴۴۱،۴۱۵/۷
شیطان کی انسان دشمنی کا ایک واقعہ:	۵۱۷،۵۱۱/۸
۴۸۷/۸	تلاوت کے وقت شیاطین سے پناہ مانگنے کا حکم:
	۴۰۱،۴۰۰/۵

ص، ض

صابی

صابی کا مفہوم:

۲۳۹/۱

۲۷/۳

صالح

صالح شخص کی فضیلت:

۲۷۱/۲

صحبتِ صالحین کی اہمیت:

۷۴۳/۸

(اعمالِ صالحہ کی فضیلت: ”اعمال“ کے زیرِ عنوان  
ملاحظہ فرمائیں)

حضرت صالح علیہ السلام

آپ کی قوم ثمود کو دعوت و تبلیغ:

۶۱۳۵، ۶۰۳/۳

۶۴۳، ۶۳۹، ۶۳۸/۴

۵۸۹، ۵۳۹/۶

پہاڑ سے اونٹنی نکلنے کا معجزہ:

۶۰۶/۳

۶۴۳، ۶۳۹/۴

۵۳۹/۶

۷۵۳/۸

قوم ثمود کے ہاتھوں اونٹنی کی ہلاکت:

۶۱۰/۳

۶۴۳، ۶۳۹/۴

۵۹۰، ۵۸۹، ۵۳۹/۶

۷۵۴/۸

شیاطین کا نرا انجام:

۵۱۱/۸

شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی اہمیت:

۸۵۲/۸

شیعہ

لفظ ”شیعہ“ کی تحقیق:

۴۹/۶



مقابلہ کی طاقت نہ ہو تو صبر کرنا چاہئے:

۵۳/۳

حضور علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم:

۶۷۳، ۶۳۰، ۵۸۱/۳

۵۸۶/۵

۷۶۳، ۶۱۸، ۶۰۷، ۱۶۲/۶

۸۱۶، ۳۹۵/۷

۶۰۳، ۵۸۷، ۵۵۱، ۱۸۶، ۱۳۹/۸

صبر کی بجائے عافیت کی دعا کرنے کا حکم:

۶۳/۵

صبر کے منافی کام:

۱۳۲/۵

صبر بہترین طرز عمل ہے:

۲۷۹/۶

مصائب کے ذریعہ انسانی آزمائش کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں:

۳۶۸/۸

صحابہ کرامؓ

صحابہ کا قرآن سیکھنے اور یاد رکھنے کا شوق:

۳۵/۱

صحابہ کرامؓ کے ایمان کی اہمیت:

۱۲۵/۱

۶۲۸، ۳۳۲/۲

۶۳/۸

صحابہ کرامؓ کی عظمت شان:

۵۱۲، ۳۹۶، ۳۶۶، ۱۳۵/۱

۲۱۵، ۲۱۰، ۲۰۵/۲

۳۸۹، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۳، ۳۳۰، ۱۷۷، ۳۵/۳

قوم شمود کی ہلاکت:

۶۱۳، ۶۱۰/۳

۶۳۳، ۶۳۹/۳

(مزید تفصیل لفظ "شمود" کے تحت ملاحظہ فرمائیں)

صبر

صبر کے فوائد:

۳۳۳، ۳۳۱، ۳۹۹، ۳۹۶، ۳۹۳، ۲۱۳/۱

۱۶۱/۲

۲۵۳، ۴۱/۳

۱۶۳/۶

۷۷۲/۸

صبر کے تین شعبے:

۳۹۳/۱

۲۷۲/۲

۱۹۹، ۱۸۹، ۱۸۸/۵

صبر کرنے کا آسان طریقہ:

۳۹۸/۱

صبر کی فضیلت:

۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۲، ۲۰۰، ۱۸۹، ۲۸/۲

۶۷۳، ۵۹۵، ۲۵۳، ۵۱/۳

۳۱۹، ۳۱۸، ۳۹۵، ۳۳۸، ۲۳۲، ۱۳۶، ۱۳۳، ۱۳۲/۵

۳۳۳، ۲۷۹، ۲۶۵/۶

۷۰۳، ۷۰۳، ۵۳۳، ۵۳۱، ۱۳۳، ۳۳/۷

۶۳۳، ۶۳۲/۸

صبر کا مفہوم:

۶۷۸، ۵۹۸، ۱۷۹، ۴۱/۳

۱۹۱/۵

صحابہ کرامؓ کا مقام پہچاننے کا طریقہ:	۳۳۲، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۳، ۲۹۲، ۱۳۵/۴
۲۹۹/۸	۳۶۹، ۳۶۶، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۶
صحابہ کرامؓ کے متعلق امت کا اجماعی عقیدہ:	۳۱۰، ۳۳۸، ۱۵۷، ۱۵۶/۵
۳۰۰/۸	۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۲۷۸/۶
حب صحابہؓ کی اہمیت:	۱۳۳، ۱۳۲/۷
۳۸۰/۸	۲۹۵، ۱۰۸، ۹۷، ۹۱، ۸۹، ۸۸، ۸۵، ۶۹، ۲۱/۸
صحیفے	۳۷۳، ۳۷۲، ۳۶۶، ۳۶۵، ۳۱۲، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷
انبیاء کرامؓ پر اترنے والے بعض صحیفے:	۷۶۲، ۶۵۸
۷۲۷، ۷۲۲/۸	صحابہ کرامؓ کے اوصافِ حسنہ:
صدق	۵۲۵/۱
بچے لوگوں کی فضیلت:	۱۶۶، ۱۰۷/۲
۳۳۱/۱	۳۳۳، ۱۹۵، ۱۹۳، ۱۷۸، ۱۷۵، ۱۷۱، ۱۰۲/۳
۱۳۳، ۹۹، ۹۸/۷	۳۳۳، ۲۲۸، ۲۲۷، ۱۹۰/۵
۳۶۵، ۱۲۷/۸	۳۸۱/۶
اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی سچائی:	۲۶۵، ۱۳۱، ۱۰۶، ۱۰۲، ۹۸/۷
۵۵۲، ۲۰۳/۲	۳۵۵، ۳۷۸، ۳۷۵، ۳۵۲، ۳۵۱، ۸۷، ۵۸/۸
۱۶۹/۶	غزوہٴ احد میں بعض صحابہؓ کی لغزش کی معافی:
۸۰۱، ۵۷۶/۷	۲۰۹، ۲۰۵، ۱۹۸، ۱۹۶/۲
صدق کی تفسیر:	صحابہ کرامؓ کے متعلق تنبیہات:
۲۷۳/۳	۲۱۲/۲
بچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم:	۵۵۰/۳
۳۷۳/۴	۵۶۶، ۳۵۰/۷
قیامت کے آنے کا وعدہ سچا ہے:	۳۸۲، ۱۱۲، ۱۰۶، ۹۵، ۸۱/۸
۳۹۹/۷	صحابہ کرامؓ کو اقتدار ملنے کا خدائی وعدہ:
صدقات	۳۳۰، ۳۳۸/۶
صدقات کے متعلق مسائل:	صحابہ کرامؓ سے بغض رکھنے والوں کے لئے وعید:
۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۲، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۲۸/۱	۳۸۱، ۹۵، ۹۳، ۸۹/۸



نری رکھیں ڈالنے کا عذاب:	۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸/۲
۶۸۷، ۶۸۶/۸	۷۹/۳
صدق	۲۵۵، ۲۱۵، ۲۹۲/۲
صدق کے کہتے ہیں:	۳۷۱/۸
۲۷۱/۲	مقبول صدقہ کی مثال:
۳۳/۶	۶۳۳/۱
صدق کی فضیلت:	خلاف شرائط صدقہ کرنے کی مثال:
۳۰۶/۸	۶۳۳/۱
کیا ہر مومن صدیق ہے:	صدقات کا دنیوی فائدہ:
۳۱۲، ۳۱۱/۸	۶۳۵/۱
صراط	صدقہ کا عمومی معنی و فضیلت:
پہل صراط پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا:	۵۳۳/۲
۵۰، ۴۸/۶	مسلمانوں کی ایک افسوسناک روش:
صراط مستقیم	۷۹/۳
صراط مستقیم کون سا راستہ ہے:	صدقہ کی وجہ تسمیہ:
۹۱/۱	۳۹۵/۴
یہ راستہ کیسے ملتا ہے:	ایک عظیم فائدہ:
۹۲/۱	۴۰۳/۴
صراط مستقیم کا فائدہ:	ایک تشبیہ:
۱۰۲/۱	۴۰۷/۴
صراط مستقیم کی تعین:	صدقہ کے متعلق ایک منسوخ حکم:
۵۰۱/۳	۳۲۷، ۳۲۳/۸
۳۰/۶	سب سے افضل صدقہ:
۷۳۵، ۴۰۰/۷	۴۵۹/۸
چند فوائد:	صدقہ جاریہ
۴۹۳، ۲۷۷/۳	اچھی رسم ڈالنے کا ثواب:
۷۳۳/۷	۶۸۷، ۶۸۶/۸

صلاح کی اہمیت:	اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں:
۵۸۱، ۵۸۰/۳	۳۱۵/۳
زمین میں فساد پھیلانا کافروں کا وطیرہ ہے:	۵۲۹، ۵۲۶/۴
۱۹۷، ۱۹۳/۵	۲۱۹، ۲۱۸/۵
صلاح	۴۳۵، ۴۳۱، ۴۲۶/۶
صلاح کے متعلق اسلامی احکام:	سورۃ ص
۵۶۲، ۵۵۹، ۴۰۵، ۳۰۲/۲	شان نزول:
۳۲۲، ۳۱۵، ۳۱۳، ۳۱۱، ۲۶۹، ۱۷۶، ۱۷۲/۳	۴۹۴، ۴۹۳/۷
۸۳۴، ۱۱۲، ۱۱۰، ۴۹/۸	سورۃ کے مضامین کا خلاصہ:
صلاح حدیبیہ	۵۳۱/۷
صلاح حدیبیہ کا مکمل واقعہ:	سورۃ الصف
۴۱۰، ۹۰، ۵۲/۸	سورۃ کے مضامین:
صلوٰۃ	۴۱۵/۷
مؤمنوں کی نماز قائم کرنے کی صفت:	صفا و مروہ
۴۳۰، ۲۳۶، ۱۱۰، ۱۰۶/۱	صفا و مروہ کی عظمت:
۶۰۸/۲	۳۹۹/۱
۳۹۲، ۱۷۸، ۱۶۹/۳	صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم:
۴۲۱، ۴۳۰، ۳۲۷، ۳۲۶، ۱۷۹، ۱۷۷، ۱۰۵/۴	۴۰۰/۱
۱۸۹، ۱۸۸/۵	صلاح و فساد
۵۵۷، ۴۳۰، ۲۹۵، ۲۹۳، ۲۶۵، ۲۲۹/۶	صلاح و فساد کی تعریف:
۷۰۳، ۳۳۰، ۳۳۱، ۱۸/۷	۱۲۵/۱
۵۵۳/۸	۵۸۰/۳
اقامتِ صلوٰۃ کا مطلب:	کسی چیز کی اصلاح کی صورتیں:
۱۱۰/۱	۵۸۰/۳
۱۷۹/۳	۲۶۱/۵
۳۸/۷	

۴۱۷/۷	خشوع کا مطلب:
۶۰۰،۴۴۳،۴۳۹/۸	۲۲۰،۱۲۳/۱
سفر اور قصر کے احکام:	نماز قائم کرنے کا مطلب:
۵۳۳،۵۳۱/۲	۲۸۸،۲۱۶،۲۱۲/۱
صلوٰۃ الخوف:	۲۷۹/۲
۵۳۲/۲	۳۶۹/۳
مناقضوں کی نماز میں سستی:	۶۷۴/۴
۵۸۸/۲	۷۴۲،۴۳۹،۲۹۱،۲۸۸/۶
۳۹۴،۳۹۰/۳	۶۰۰،۵۸۸،۴۴۳،۱۵۰،۱۴۹/۸
کافروں کی طرف سے نماز کا استہزاء:	نماز کے فوائد و ثمرات:
۱۸۰،۱۷۰/۳	۳۹۴،۳۹۳،۲۱۵،۲۱۲/۱
۲۲۷/۴	۶۷۷،۶۷۴/۴
خشوع سے نماز پڑھنے کی فضیلت:	۵۱۴/۵
۲۷۳/۳	۶۹۵،۱۶۵/۶
ایک شبہ کا جواب:	۷۸۹،۷۸۱/۸
۶۹۷/۶	نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت:
حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کی اہمیت:	۲۲۲،۲۲۱/۱
۳۹۶/۷	نماز استسقاء کا حکم:
چاشت کی نماز:	۲۳۵/۱
۳۹۷/۷	نماز کے متعلق مسائل و احکام:
دکھلاوے کی نماز کی قباحت:	۵۸۹،۳۹۰،۳۷۷،۳۶۳،۳۱۵/۱
۸۲۶،۸۲۵/۸	۵۳۳،۴۲۳،۴۲۲،۲۷۶،۶۴/۲
صلوٰۃ و سلام	۵۳۳،۶۵/۳
صلوٰۃ و سلام کا معنی:	۴۷۵،۴۷۴،۴۰۹،۱۶۹/۴
۲۲۱/۷	۵۳۳،۵۳۲،۵۳۱،۵۱۴،۵۱۳/۵
ایک شبہ کا جواب:	۷۴۰،۷۳۸،۶۹۷،۵۵۲،۱۶۱،۴۴/۶
۲۲۲/۷	

صلوٰۃ وسلام کا طریقہ:	۲۲۳/۷
صلح کرانے سے رُکنا نہیں چاہئے:	۵۳۳/۱
صلوٰۃ کی مسائل:	۲۲۳/۷
صلہ رحمی نہ کرنے کی وعیدیں:	۲۸۱/۲
صوم	
ایک اہم تنبیہ:	۱۹۷/۵
صوم کا لغوی و اصطلاحی معنی:	۳۳۲/۱
صلہ رحمی کی سخت تاکید:	۳۲/۸
روزہ کی فرضیت:	۳۳۳/۱
صورِ اسرائیل	
روزہ کا مقصد:	۳۳۳/۱
صور کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں:	۱۵۰/۶
روزہ کے متعلق احکام:	۳۳۳/۱
صید	
لفظ "شکار" کے تحت دیکھیں۔	۳۵۶ تا ۳۵۲، ۳۳۸ تا ۳۳۳/۱
ضبط ولادت	
ضبط ولادت کی قباحتیں:	۲۳/۶
روزہ کی فضیلت:	۱۳۳/۷
روزہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت:	۶۰/۲
صلہ رحمی	
ضبط ولادت کی بحث:	۳۷۳/۵
صلہ رحمی نہ کرنا کافروں کا طریقہ ہے:	۱۶۹/۱
۶۸۳، ۶۸۲/۸	
تعلقات توڑنے کا دنیوی وبال:	۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۳/۵
۲۲، ۳۱، ۳۹/۸	
صلہ رحمی کے معنی و فضائل:	۱۷۰، ۱۶۹/۱
۲۸۰/۲	
۱۹۸/۵	



## طلاق

طلاق کے متعلق مسائل:

۵۷۲۵۵۷۰، ۵۶۵، ۵۵۹۳۵۵۳، ۵۴۷۵۴۵/۱

۵۹۱، ۵۸۸۳۵۸۶

۱۸۴۳۱۸۰، ۱۲۸/۷

۴۹۲۳۴۷۳/۸

## طور

کوہ طور کا بنی اسرائیل پر بلند کیا جانا:

۳۶۳، ۲۳۰/۱

۵۹۸/۲

۱۰۷۳۱۰۵/۳

چند شہوں کا جواب:

۲۳۰/۱

۱۰۷/۳

کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف:

۶۰۳۵۵/۳

موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی:

۶۳۹، ۶۳۳، ۱۳۰، ۱۲۸، ۳۸/۶

کوہ طور کی فضیلت:

۷۷۴، ۱۷۹، ۱۷۸/۸

## سورۃ طہ

سورۃ کا دوسرا نام:

۶۱/۶

سورۃ کی فضیلت:

۶۱/۶

سورۃ پڑھنے کی وجہ سے حضرت عمرؓ کا قبول اسلام:

۶۳۳۶۱/۶

## ط

### طاعون

طاعون کے متعلق اسلامی احکام:

۵۹۸، ۵۹۷، ۵۹۵/۱

### طاغوت

شیطان کی پیروی کرنے والوں کی سزا:

۳۳۱/۲

طاغوت کا معنی:

۴۵۷، ۴۳۲/۲

شیطان اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں:

۴۷۷، ۴۷۶/۲

ہر امت کو طاغوت سے بچنے کا حکم:

۳۳۶/۵

شیطان کی عبادت نہ کرنے کا اجر و ثواب:

۵۴۶/۷

### طالوت و جالوت

کھل واقعہ:

۶۰۴/۱

### طعام

دودھ سب سے بہتر غذا ہے:

۳۵۹، ۳۵۸/۵

کھجور و انگور کی اہمیت:

۳۶۰، ۳۵۹/۵

سکر اچھا رزق نہیں:

۳۶۰/۵

حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے پرندوں کی تسخیر:

۲۱۱،۲۰۶/۶

۴۹۶،۴۹۵،۲۶۱،۲۵۸/۷

پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں:

۴۳۳،۴۳۲/۶

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پرندوں کی تسخیر:

۵۶۵/۶

حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کی تعلیم:

۵۶۷،۵۶۵/۶

پرندوں اور چوپاؤں میں بھی عقل و شعور:

۵۶۶/۶

ہد ہد کا واقعہ:

۵۶۹/۶

جنتیوں کی پرندوں کے گوشت سے میزبانی:

۲۷۴،۲۶۷/۸

طیب

پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم:

۴۱۶،۴۱۵/۱

۲۱۹/۳

۴۱۳/۵

۴۱۵/۶

پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا حکم:

۶۳۷/۱

پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے کی ممانعت:

۵۴۸،۴۱۹/۳

پاکیزہ چیزوں کی حلت:

۷۸/۴

پاکیزہ چیزیں بطور رزق ملنے کی وجہ:

۲۱۱/۴

پاکیزہ چیزوں کی مثال:

۲۴۵،۴۳۳/۵



طیور

ذبح شدہ پرندوں کے زندہ ہونے کا واقعہ:

۶۲۱/۱

پرندوں کے مصنوعی جسموں کا عیسیٰ علیہ السلام کے

پھونک مارنے سے اڑنا:

۶۹/۲

۲۶۰/۳

پرندوں کی پرواز قدرت الہیہ کی دلیل ہے:

۳۸۰/۵

۴۳۳،۴۳۲/۶

۵۱۹،۵۱۲/۸

۵۹۵/۷

۴۳۳،۴۲۱/۸

اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے:

۵۵۲،۴۸۰،۴۲۹،۴۱۹،۴۵۱،۴۳۰،۱۵۳،۱۴۶،۴۲/۲

۶۸۰،۶۷۹،۶۷۵،۶۶۶،۵۳۵،۴۱۹،۴۶۰/۴

۵۹۵،۴۳۳/۵

۷۲۵،۷۲۴،۶۹۲،۵۳۸،۳۱۷،۲۳۰/۶

۷۴۹،۶۵۸،۵۹۷/۷

۱۳۹/۸

اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے:

۱۹۲،۸۳،۸۲/۲

۷۰۳/۷

ظالموں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے:

۴۵۶،۱۸۳/۲

۱۳۲،۱۲۵/۳

ظالموں کا نئے انجام:

۲۶۰،۲۰۴/۲

۴۵۳،۳۹۳،۳۱۸،۲۰۶،۱۰۹/۳

۶۶۰،۵۶۷،۵۳۸،۵۳۷/۴

۵۹۹،۳۹۲،۲۷۰،۲۶۹،۲۳۲/۵

۴۶۲،۳۹۸،۳۷۳،۳۵۲،۱۷۶،۱۷۲،۴۹،۳۰/۶

۶۸۰،۶۳۶،۶۱۵،۵۷۴،۵۶۰،۵۵۰،۴۷۵

۷۰۳،۵۸۸،۵۵۲،۴۲۸،۴۳۰،۴۰۵،۳۹۶،۲۷۹/۷

۶۳۳،۴۸۵،۱۸۶،۱۷۱،۱۱۵/۸

مظلوم کی وادرسی کی اہمیت:

۴۷۶/۲

ظ

ظاہر و باطن

ظاہر و باطن کو درست رکھنے کا حکم:

۵۴۱،۴۳۳،۴۳۳/۳

ظلم

بنی اسرائیل کے اپنے اُد پر مظالم:

۴۳۱،۴۲۸،۴۲۵،۱۶۲/۱

اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں:

۶۰۵،۴۶۴/۱

۴۴۲/۳

۴۸۳/۴

۲۶۹/۵

ظالم کون لوگ ہیں:

۶۱۰،۵۵۳،۴۰۹/۱

۱۱۲/۲

۵۵۷،۵۵۵،۴۹۵،۳۹۳،۲۹۲،۱۵۶/۳

۶۰۷،۵۱۶/۴

۶۰۰/۵

۷۴۲،۷۱۴/۶

۵۵۵،۶۶/۷

۴۸۱،۴۷۴،۴۲۲/۸

اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے:

۶۱۹/۱

۴۶۰/۲

۴۴۱/۶

## ظلمت

اندھیروں سے روشنی کی طرف کون لاتا ہے:

۶۱۷/۱

۲۵۲،۸۶/۳

۲۱۸/۵

۵۹۳/۶

۱۷۱/۷

۴۹۳،۴۹۳،۴۹۵/۸

شیاطین لوگوں کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں:

۶۱۷/۱

اللہ تعالیٰ ہی روشنی اور تاریکی کا خالق ہے:

۲۸۸،۲۷۷/۳

اس جہاں میں اصل ظلمات ہے:

۲۷۸/۳

کافر اندھیروں میں مبتلا ہے:

۴۳۵،۴۱۵/۳

اللہ تعالیٰ روشنی اور تاریکی کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں:

۳۴۹،۳۴۳/۳

ایمان نور ہے اور کفر ظلمت:

۴۳۸/۳

روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی:

۴۳۲/۷

تاریکی میں انسان کی تخلیق:

۵۳۵/۷

## ظلم

دوسروں کو اپنے متعلق بدگمانی سے بچانے کی ضرورت:

۱۲۵/۵

ظلم کی تین قسمیں:

۵۵۰/۲

اسلام اور ظلم کے متعلق احکام و مسائل:

۵۹۳،۵۹۳،۵۹۱/۲

۲۴،۱۹/۳

۶۶۹/۴

۷۰۷،۷۰۳/۷

اسلاف کے ظالم بادشاہوں کی ملازمت قبول نہ کرنے

کی وجہ:

۲۵/۳

قیامت کے دن کسی پر ظلم نہ ہوگا:

۵۰۶،۵۰۱/۳

۲۷۱/۴

۵۹۵،۴۱۰/۵

۴۱۷،۱۸۷/۶

۸۰۲،۴۸۴،۵۸۸،۵۷۵،۴۰۰/۷

خلاف شرع ٹیکس وصول کرنے والے ظالم ہیں:

۶۲۵/۳

ظلم کی قباحت و مذمت:

۶۷۳/۴

۴۶۹/۶

ظالم کو سزا دینے کا الہی ضابطہ:

۴۵۷،۴۶۸/۵

ظلم کا بدلہ نہ لینے کے فوائد:

۶۴۷/۶

۷۰۷،۳۰۳/۷

ظلم کرنے کا عمومی سبب:

۷۰۳/۷



ع

عاد

قومِ عاد کا تعارف:

۵۹۹/۳

۷۳۰، ۷۳۶/۸

قومِ عاد کو حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ:

۵۹۸، ۵۹۷/۳

۶۳۰، ۶۳۷/۴

۲۳۸۷، ۲۳۶/۵

۵۳۶/۶

۶۳۲/۷

۸۱۱، ۸۱۰/۸

قومِ عاد کی ایک بُری عادت:

۵۳۷، ۵۳۶/۶

قومِ عاد کی سرکشی و ہلاکت:

۶۰۳۷، ۵۹۷/۳

۶۳۲، ۶۳۱، ۶۳۸، ۶۳۷، ۴۱۹/۴

۲۳۷، ۲۳۶/۵

۶۹۱، ۴۷۵، ۴۷۳/۶

۸۱۱، ۶۳۳، ۶۳۲، ۵۹۷، ۴۹۳/۷

۷۳۶، ۵۳۲، ۴۳۲، ۴۳۱، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۶، ۴۳۳/۸

۷۳۰

قومِ عاد پر عذاب کی طوالت:

۶۳۳/۷

۵۳۲/۸

ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا لگان رکھنے کا

وجوب:

۳۷۷/۶

۱۱۹/۸

ظن کے مختلف درجات اور ان کے احکام:

۲۰۸، ۱۲۰، ۱۱۹/۸

ظہار

ایک غلط نظریہ کی تردید:

۸۳، ۸۲/۷

احکامِ ظہار کا شانِ نزول:

۳۳۳، ۳۳۲/۸

ظہار کا حکم:

۳۳۵، ۳۳۳/۸

ظہار کا کفارہ:

۳۳۶، ۳۳۳/۸



حضرت صدیقہؓ پر بہتان کو سچا سمجھنا کفر ہے:

۳۸۲/۶

### عبادت

عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہئے:

۳۲۸، ۲۵۳، ۱۳۷، ۱۳۳، ۸۷، ۸۶/۱

۸۶/۲

۵۴۱، ۵۳۰/۳

۵۸۳، ۳۶۵، ۳۶۴/۴

۶۶۱/۵

۶۹۱، ۵۸۹، ۳۱۱، ۳۰۸، ۱۷۷، ۱۷۶/۶

۸۱۱، ۶۵۵، ۶۵۳، ۶۳۲، ۶۱۵، ۵۳۵، ۵۳۶/۷

۵۶۱/۸

عبادت کی دس قسمیں:

۸۷، ۸۶/۱

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم:

۱۳۱/۱

۴۰۹، ۴۰۷، ۷۰، ۶۹/۲

۵۹۰، ۶۰۳، ۴۰۷، ۲۷۰، ۲۰۶/۳

۵۸۵، ۵۸۳، ۴۹۸/۴

۶۶۱، ۴۱۳/۵

۷۰۶، ۶۱۲، ۶۰۰، ۴۰۰، ۳۰۸، ۲۲۷، ۱۷۵، ۴۸، ۳۰/۶

۷۵۳، ۵۷۲، ۵۴۵، ۵۳۳/۷

۵۶۱، ۴۱۶، ۱۷۱/۸

عبادت کا معنی و حقیقت:

۱۳۲/۱

۷۸۷/۷

### عادت

”سنت اللہ“ کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

### عبرت

وہ حالات و واقعات جو قابلِ عبرت ہیں:

۲۵/۲

۳۵۸، ۱۷۲، ۱۶۰/۵

۶۲۹، ۴۳۲، ۳۰۷، ۳۰۱/۶

۵۶۰/۷

۶۶۲/۸

### اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ پر بہتان کا واقعہ:

۳۷۳، ۳۷۰، ۳۶۶، ۳۶۴/۶

واقعہ اُلق میں بتلا منافقوں کی سزا:

۳۷۰، ۳۶۹، ۳۶۷/۶

اس واقعہ میں حصہ لینے والے مسلمانوں کو تنبیہ:

۳۷۶، ۳۶۷/۶

حضرت عائشہؓ کا فصیح و بلیغ کلام:

۳۷۳/۶

حضرت صدیقہؓ کی چند خصوصیات:

۳۷۳/۶

حضرت صدیقہؓ کا ایک مفرد اعزاز:

۳۷۵/۶

بہتان لگانے والے مسلمانوں کی سزا:

۳۷۵/۶

چند تنبیہات:

۳۸۲، ۳۷۸/۶

غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں:	اپنی طرف سے کسی کام کو عبادت سمجھ لینا غلط ہے:
۶۶/۵	۴۶۸/۱
۲۸۵/۶	گزشتہ اُمتوں کا ایک طریقہ عبادت:
غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا عذر لنگ اور اس کا جواب:	۵۷/۲
۳۳۷، ۳۳۵/۵	غیر اللہ کی عبادت کرنے کی سزا:
۷۲۱/۷	۶۲۳/۲
غیر اللہ کی عبادت کرنے کی حقیقت:	۱۸۲/۳
۵۲۱/۳	۵۲۷/۳
۳۷۶/۵	۵۲۸، ۵۲۷، ۴۶۳، ۴۶۳، ۴۲۸، ۵۲، ۴۸، ۴۳/۶
۶۵۵، ۵۲۸، ۵۲۷، ۱۹۸۵، ۱۹۳/۶	۷۹۲، ۶۸۱، ۶۸۰، ۶۰۹، ۵۲۵
چار باعزت مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب:	۳۲۸، ۳۰۴/۷
۳۷۲، ۳۷۰/۳	۷۹۶/۸
عبادت میں مددگار امر:	غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو تنبیہ:
۷۹/۶	۷۳۷، ۲۰۷/۳
ملائکہ کی شانِ عبادت:	۷۳۷/۷
۶۹۲، ۲۸۶، ۲۸۵/۶	گزشتہ اُمتوں کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انکار اور اس کی سزا:
ذنیوی فائدہ کی نیت سے عبادت کرنے کی قباحت:	۶۲۰، ۵۹۰، ۵۹۸/۳
۳۳۳/۶	۶۵۸، ۶۳۷، ۶۱۰/۴
مؤمن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں:	۳۳۷، ۲۳۶/۵
۳۳۸/۶	عبادت میں قمری حساب کا اعتبار:
کفار کی طرف سے شیاطین کی عبادت کا مطلب:	۵۷/۴
۴۰۴، ۴۰۳، ۴۰۰/۷	عبادت پر اجرت لینے کی بحث:
عبادت کا ایک ادب:	۳۹۹/۴
۵۱۵/۷	حضور علیہ السلام کا غیر اللہ کی عبادت سے اظہارِ براءت:
ایک باطل نظریہ کا رد:	۵۸۰/۴
۵۳۳/۷	۲۰۸/۵
	۸۳/۸

اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف:	عبادت میں شب بیداری کی تفصیل:
۳۱۹/۲	۱۵۹/۸
۳۱۶/۳	عبادت الہیہ کی ترغیب:
۵۳۷، ۴۹۸/۴	۸۲۲/۸
۱۸۹، ۱۸۷، ۱۴۹/۶	حضرت عثمانؓ
عدل و انصاف کی اہمیت:	صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کی قریش مکہ کی
۵۷۱، ۴۴۸/۲	طرف سفارت کا واقعہ:
۳۲۰، ۳۱۹، ۴۴۵/۸	۶۰۵۵۸/۸
عادل شخص کی فضیلت:	عدت
۴۵۳/۲	عدت کے متعلقہ احکام و مسائل:
۴۰۴/۸	۵۹۰، ۵۸۵، ۵۸۴، ۵۸۲، ۵۷۲، ۵۵۵، ۵۴۵، ۴۷۰/۱
عدل و انصاف کرنے کا حکم:	۵۳۳/۲
۵۷۲، ۵۷۱/۲	۱۷۹/۷
۵۴۰، ۵۳۸/۳	۴۹۰، ۴۸۹، ۴۷۵، ۴۷۴/۸
۳۸۷/۵	عدل
۶۷۵/۷	عدل و انصاف کے ساتھ معاملات طے کرنے کے
۳۲۱، ۳۲۰/۸	احکام و آداب:
انصاف پر قائم رہنے کا وسیع مفہوم:	۶۸۳/۱
۵۷۵/۲	۵۷۱، ۵۶۸، ۵۶۶، ۵۶۰، ۵۴۰، ۴۴۳، ۴۱۹، ۴۹۳، ۴۸۵/۲
عالمی سطح پر عدل قائم کرنے اور کرانے کے زریں اصول:	۵۷۲
۵۷۷/۲	۵۴۰، ۴۷۹، ۴۷۸، ۴۴۴، ۶۹۵، ۶۷، ۱۹/۳
خلاف عدل کام کرنے کی حرمت:	۴۵۱، ۳۱۹/۴
۴۸۹/۳	۷۰۷/۷
عدل کی تعریف و اقسام:	۴۴۵، ۴۴۱، ۴۱۱، ۴۱۰/۸
۴۸۹/۵	دنیا میں ناانصافی کا ایک اہم سبب:
قیام عدل کے لئے دو بنیادی چیزیں:	۶۸۷/۱
۴۲۲/۸	۵۷۶/۲

عذاب کے حق دار گروہ:

۴۳۵، ۴۳۸، ۴۱۰، ۴۰۸، ۴۸۰، ۱۲۱/۱

۵۸۲، ۵۸۰، ۵۱۳، ۴۳۲/۲

۱۱۵/۳

۴۱۵، ۴۹۰، ۴۶۸، ۴۶۷، ۴۶۳، ۴۲۸، ۱۲۳/۴

۶۰۷، ۴۵۱، ۴۳۸، ۴۲۹، ۴۲۳، ۴۱۸

۲۳۰/۵

۳۷۰، ۴۵۲، ۱۸۶/۶

۲۵۳، ۲۲۶/۷

۷۳۷، ۵۵۳، ۵۵۲/۸

عذاب دوزخ سے بچنے کی دعا:

۴۷۹/۱

۵۰۴، ۴۹۹/۶

اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے عذاب دیں گے:

۶۸۹/۱

۴۵۸، ۴۵۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۸۷/۳

۷۲/۴

۴۹۶/۵

۶۸۳/۶

عذاب کے متعلق الہی ضابطے:

۵۵۳، ۴۲۰، ۱۰۵/۳

۵۳۹/۴

۴۹۸، ۴۵۷، ۴۵۵، ۴۵۰، ۴۵۸، ۴۰۶/۵

۶۵۳، ۶۵۰، ۵۲۸/۶

۷۹۵، ۷۹۳، ۶۳۳، ۴۹۳، ۳۵۷، ۴۵۶/۷

عذاب سے متعلق تشبیہات:

۱۷، ۱۶/۴

۴۵۰، ۳۰۸، ۱۵۳/۵

عذاب

کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے:

۴۹۶، ۴۶۶، ۴۶۰، ۴۵۶، ۱۱۵/۱

۴۵۷، ۴۵۱، ۴۳۶، ۱۳۶، ۱۳۶، ۹۴، ۸۲، ۴۰، ۱۶/۲

۶۳۳، ۶۰۶، ۵۹۲، ۵۲۲، ۴۳۰، ۴۰۸، ۴۳۲

۴۷۳، ۴۶۹، ۴۲۳، ۴۰۶، ۴۱۰، ۴۰۶، ۱۲۳، ۱۲۵/۳

۴۹۵، ۴۳۱، ۴۹۳

۶۰۸، ۵۵۳، ۴۹۸، ۴۴۰، ۴۰۵، ۴۶۰، ۲۲۷، ۱۹۴/۴

۶۲۹

۴۰۶، ۴۰۴، ۴۷۱، ۴۶۹، ۴۴۲، ۴۳۱، ۴۱۸، ۴۰۸/۵

۴۵۳، ۴۵۳، ۴۱۳

۶۸۳، ۵۵۸، ۴۲۰، ۴۱۹، ۱۸۵، ۱۷۷، ۱۱۱/۶

۵۲۵، ۵۰۷، ۴۳۱، ۴۱۵، ۴۳۱، ۴۳۳، ۴۲۰، ۴۰۵/۷

۶۳۶، ۶۳۳، ۶۳۲، ۵۷۵، ۵۶۹، ۵۵۳، ۵۵۲، ۵۴۵

۷۲۵، ۷۲۶، ۷۱۰، ۷۰۳، ۶۹۳، ۶۸۸، ۶۸۳، ۶۶۶

۸۱۶، ۷۷۷، ۷۷۲، ۷۴۹

۴۸۵، ۴۵۷، ۴۵۰، ۴۳۳، ۱۷۶، ۱۳۹، ۷۶، ۶۹/۸

۷۱۱، ۷۰۲، ۶۵۲، ۶۳۳، ۵۸۷، ۵۷۲، ۵۱۱، ۴۶۲

۷۳۰

کافروں کو عذاب سے نجات نہ ملے گی:

۴۰۴، ۴۶۶، ۴۵۷/۱

۶۳۳، ۱۰۵، ۱۰۴/۲

۱۲۵/۳

۴۸۵، ۴۵۷، ۴۳۱/۵

۱۸۶، ۱۸۵/۶

۸۱۳، ۷۱۰، ۶۰۵، ۵۶۳، ۵۵۳، ۴۳۱/۷

۵۵۲، ۵۵۱، ۵۱۳/۸

کافروں پر ذنوبی عذاب کا امکان:

۵۲۷، ۳۲۹، ۳۲۸/۶

کفار مکہ کی عذاب سے بے خوفی:

۵۰۵، ۵۳۷/۶

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عذاب نازل نہیں کر سکتا:

۶۷۱/۷

ایمان کی وجہ سے مؤمنوں کی عذاب سے نجات:

۵۱۳/۸

عذاب الہی سے ڈرنا چاہئے:

۶۰۹، ۵۵۳/۸

### عذاب قبر

عذاب قبر کا اثبات:

۳۳۸/۵

۶۶۷، ۶۶۵، ۶۰۳، ۵۶۷/۷

### عرش

استواء علی العرش کا مفہوم:

۵۷۴، ۵۷۳/۳

۵۰۲، ۵۰۱/۴

۱۶۷/۵

۳۸۰، ۶۳/۶

۶۰/۷

۳۹۱/۸

عرش الہی پہلے پانی پر تھا:

۵۸۹/۳

قیامت کے دن عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد:

۵۴۶، ۵۴۳/۸

عذاب سے بچ جانا صریح کامیابی ہے:

۲۹۱/۳

اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا:

۳۱۵/۳

۶۶۷/۴

۳۸۶/۷

عذاب الہی کی تین قسمیں:

۳۵۸/۳

عذاب الہی سے بچاؤ کی صورتیں:

۲۳۳، ۲۱۷/۴

۳۳۸، ۳۳۷/۸

کفار پر جلد عذاب نہ آنے کی حکمتیں:

۶۶۸، ۵۳۸، ۵۱۸، ۵۱۵، ۵۱۳/۴

۶۰۱، ۳۵۶، ۲۱۱، ۱۷۳، ۱۷۲/۵

۷۰۲، ۵۹۸، ۴۷۳، ۱۸۵، ۱۶۲، ۱۶۱، ۵۶، ۵۵، ۵۱/۶

۶۷۶/۷

۵۵۱، ۵۲۹، ۵۲۸، ۳۳۱، ۱۷۳، ۱۷۱/۸

گزشتہ قوموں کی عذاب سے ہلاکت:

۶۰۱، ۴۱۰، ۳۳۱، ۱۶۳، ۱۶۰/۵

۶۸۸، ۵۴۴، ۵۴۳، ۵۳۹، ۵۳۷، ۵۳۶/۶

۶۳۲، ۶۳۱/۷

۷۳۶، ۵۱۲، ۴۹۳، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۲۹/۸

بعثتِ رسل کے بغیر عذاب نہ آنے کی تشریح:

۳۵۶/۵

ایک شبہ اور اس کا جواب:

۳۵۶/۵

کافروں پر آخری عذاب کا وقوع:

۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۰/۶

ادنیٰ امور میں بھی انبیاء پر گرفت کیوں ہوتی ہے:

۱۹۶/۱

حضرت آدم کے واقعہ کی توجیہات:

۱۹۶/۱

انبیاء کرام کے معصوم ہونے کی بحث:

۱۹۶/۱

۳۷۱/۳

۵۷۱، ۵۷۰/۳

۴۸/۵

۵۶۳/۶

۳۶/۸

حضرت موسیٰ نے خود کو خطا کار کیوں کہا:

۶۲۵ تا ۶۲۰/۶

حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کی بحث:

۱۵۷ تا ۱۵۳/۶

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عصمت کی بحث:

۲۰۱ تا ۱۹۷/۶

## علم

علم دین کی اشاعت کا وجوب اور چھپانے کی حرمت:

۴۰۲/۱

۲۵۷/۲

علمی تحقیق، غلو میں داخل نہیں:

۲۱۲/۳

بلا فائدہ تحقیقات کے پیچھے پڑنے کی ممانعت:

۲۳۶/۳

دینی علم کا ایک اہم فائدہ:

۱۳۱/۴

اللہ تعالیٰ کے عرش کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں:

۵۴۶/۸

## عرفات

عرفات کی وجہ تسمیہ:

۴۸۸/۱

## عزت

عزت صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہئے:

۴۵۷ تا ۴۴۳/۲

۵۸۲/۲

۵۱/۴

(مزید تفصیل "شرافت" کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں)

## عشر

عشر اراضی کے احکام:

۶۳۹/۱

۴۶۹/۳

## سورہ عصر

سورہ کی خاص فضیلت:

۸۱۱/۸

## عصمت انبیاء کرام

انبیاء کرام کی شان عصمت:

۱۹۵/۱

عصمت انبیاء کرام کی وجہ:

۱۹۵/۱

یونانی علم فلسفہ کی حالت:	علم کے وبال بننے کی صورت:
۶۲۲/۷	۱۲۱/۴
علم کے مقتضا پر عمل کرنا چاہئے:	دینی خرابی کا باعث بننے والوں سے دُور رہنے کا حکم:
۳۶/۸	۱۲۳/۴
حصولِ علم کے دو طریقے:	علم دین کے فضائل:
۱۴۹/۸	۴۸۸/۴
تعلیم کا سب سے پہلا اور اہم ذریعہ، قلم کی تین قسمیں:	علم دین کے فرض عین اور فرض کفایہ ہونے کی تفصیل:
۷۸۵/۸	۴۸۹/۴
علم کتابت سب سے پہلے کے دیا گیا:	علم تصوف کی فرضیت:
۷۸۵/۸	۴۸۹/۴
علم کے ذرائع:	علم دین کا نصاب:
۷۸۷/۸	۴۹۰/۴
علم غیب	شاگرد پر استاذ کی اتباع کا لزوم:
	۶۱۲/۵
اللہ تعالیٰ تمام چھپی اور ظاہر چیزوں کو جانتے ہیں:	کون سا علم و فن مذموم ہے:
۲۵۰، ۱۷۷/۱	۵۵۵/۶
۲۳۱، ۲۸/۲	کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے کہے
۳۷۰، ۳۳۳، ۲۷۷، ۲۳۶/۳	کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے:
۵۸۸، ۵۸۳، ۴۵۳، ۴۴۴، ۴۴۳، ۴۲۵/۴	۵۷۲/۶
۳۲۸، ۲۱۳، ۲۱۱، ۱۸۰، ۱۷۶، ۱۷۳/۵	علم پر عمل کرنے کا ایک فائدہ:
۶۵۷، ۴۵۹، ۳۲۵، ۲۸۲، ۲۳۳، ۱۶۸، ۶۶، ۶۳/۶	۷۱۶/۶
۶۹۳، ۵۸۹، ۵۸۸، ۵۶۴، ۴۱۱، ۲۵۳، ۲۵۱، ۶۰/۷	ذنیوی فنون، آخرت سے غفلت کے ساتھ حاصل کرنا
۷۲۱، ۴۳۳، ۳۹۰، ۲۹۱، ۱۳۷، ۱۲۷/۸	دانشندی نہیں:
علم الہی کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا:	۷۲۳/۶
۶۱۴، ۶۱۳/۱	اسبابِ علم اور علم میں فرق:
۱۴۹/۶	۴۳۱/۶
امورِ غیب اور علمِ غیب میں فرق:	قطعاً علم کے چار طریق:
۲۳۸/۲	۶۳۹/۶



علمائے کرام

یہودی علماء کی بے عملی:

۲۵۰/۱

علماء کے لئے تنبیہات و ہدایات:

۳۰۵، ۲۸۰، ۲۱۸/۱

۲۸۷، ۲۵۷/۲

۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۳، ۲۵/۳

۶۷۹، ۴۹۱، ۱۳۸، ۱۲۲، ۱۲۱/۴

۶۱۲، ۵۷۹، ۵۲۹، ۲۲۲، ۷۱، ۷۰/۵

۶۹۴، ۴۵/۶

۴۲۲، ۳۳۷، ۳۳۶، ۱۳۰/۷

۷۷۳، ۵۹۳، ۴۳۷، ۴۳۶/۸

اخفائے علم کی سزا:

۴۰۲/۱

دین فروشی کی سزا:

۴۲۸/۱

زسوخ فی العلم رکھنے والوں کی پہچان:

۲۱/۲

علماء کے فضائل:

۳۳/۲

۶۵/۶

۳۳۷، ۳۳۵/۷

عوام الناس کو علماء کے متعلق تنبیہات:

۶۲۲/۲

۱۵۰، ۱۲۸/۳

عالم کے کہتے ہیں:

۱۵۹/۳

علم غیب، اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے:

۳۵۰، ۳۳۵، ۳۳۳، ۳۲۹، ۳۲۶، ۳۲۳، ۲۶۱/۳

۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۴/۴

۵۹۹، ۵۹۷/۶

۵۱/۷

۵۸۱، ۵۷۳/۸

غیر اللہ کے لئے علم غیب ثابت کرنے کی قیادت:

۱۳۶/۴

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بحث:

۱۳۷/۴

۱۵۳/۵

۷۹۶، ۷۹۵/۷

اخبار غیب اور علم غیب میں فرق:

۱۵۸/۵

پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے:

۵۱/۷

مسئلہ علم غیب:

۵۲/۷

ایک شبہ اور اس کا جواب:

۵۳/۷

ایک اہم فائدہ:

۵۳/۷

حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق تقاضائے آدب:

۷۹۶/۷

انبیاء کرام کے پاس غیبی خبریں بھیجنے کا الہی طریق:

۵۷۴، ۵۷۳/۸

علم غیب اور غیبی خبروں میں فرق:

۵۸۲/۸

### حضرت عمرانؑ

حضرت عمران کون تھے:

۵۶/۲

حضرت عمرانؑ کی اہلیہ کی نذر:

۵۷، ۵۶/۲

اس نذر کا نتیجہ:

۵۷/۲

### عمرہ

عمرہ کے متعلق بعض مسائل:

۳۸۳، ۳۸۱ تا ۳۷۷/۱

عمرہ کے لئے مال خرچ کرنے کا صلہ:

۲۵۷/۶

### عہد

کافروں کی عہد شکنی:

۲۶۸، ۱۶۹، ۱۶۷/۱

۳۲۲، ۳۱۸ تا ۳۱۶، ۳۱۱ تا ۳۰۳/۳

۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۳/۵

عہد شکنی کی سزا:

۱۷۰/۱

۹۳/۲

۵۵۷/۳

۳۹۵ تا ۳۹۳، ۱۹۶، ۱۹۳/۵

عہد اور میثاق میں فرق:

۱۶۹، ۱۶۸/۱

اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے عہد:

۲۰۶، ۲۰۳/۱

علماء و مشائخ کی وحدت:

۱۶۰/۳

حق پرست علماء و مشائخ کی خصوصیت:

۲۱۸/۳

نااہل کو مقتدا بنانے کی قباحت:

۲۵۰، ۲۳۹/۳

اصلاحِ خلق کی فکر کرنے والوں کو تسلی:

۲۵۰/۳

علماء کی خدا خونی:

۵۳۷/۳

علماء کرام کے ساتھ ملاقات کے آداب:

۱۰۳، ۱۰۰/۸

### حضرت علی المرتضیٰؑ

حضرت علیؑ کی فضیلت:

۱۷۹، ۱۷۸/۳

حضرت علیؑ کی ایک خصوصیت:

۳۳۷/۶

### علیتین

علیتین کا تعارف:

۶۹۵، ۶۹۲/۸

### حضرت عمر فاروقؑ

آپ کا حسنِ اخلاق:

۱۵۷، ۱۵۶/۳

آپ کے بعض موافقات:

۲۰۱/۷

آپ کی خوفِ خدا کی کیفیت:

۱۸۰/۸

۶۷/۳	عہد شکنی کی قباحت:
۳۶۶، ۳۲۱/۳	۲۰۶/۱
۲۰۸/۵	۳۹۰/۳
۳۶۳، ۳۲۸، ۳۳/۶	۳۹۵، ۳۹۳/۵
۸۰۱، ۶۳۹، ۵۸۰، ۵۷۶، ۵۳۶، ۱۹/۷	عہد پورا کرنے کا حکم:
۲۹۵، ۱۳۶، ۸۹، ۳۲/۸	۳۳۳/۱
عقود و معاملات کی اہمیت:	۳۹۰، ۳۷۸، ۱۲، ۱۱/۳
۱۱/۳	۳۷۹، ۳۹۳/۵
۳۰/۶	عہد کی تعریف و حقیقت:
معاهدات کی اقسام:	۹۳/۲
۱۲/۳	۳۹۵، ۳۹۳/۵
۳۸۰، ۳۷۹/۵	۲۹۸/۶
۷۲/۸	اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام سے عہد:
ایک معاہدہ کی چند اہم دفعات:	۹۸/۲
۱۵/۳	اللہ تعالیٰ کے تین عہد:
قیامت آنے کا وعدہ پورا ہونا یقینی ہے:	۹۹/۲
۳۵۸، ۳۵۷/۳	اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی سچائی:
۵۷۶، ۵۷۳، ۵۳۵/۵	۵۵۲/۲
۲۷۳، ۲۲۸، ۲۲۷/۶	۵۶۳، ۵۶۳/۳
۸۱۶، ۸۰۲، ۷۸۹، ۷۵۲، ۳۹۹، ۳۲۰/۷	۵۳۹، ۳۹۸/۳
۵۵۷، ۵۵۳، ۱۵۷، ۱۵۵/۸	۵۷۳، ۵۳۹، ۳۳۵، ۲۷۳، ۲۷۰، ۲۳۱، ۲۰۶، ۲۰۲/۵
عالم ارواح میں تمام انسانوں کا عہد:	۶۳۸
۵۵۷، ۵۵۳/۳	۷۱۸، ۷۰۷، ۶۱۷، ۱۶۹/۶
عہد الست کی تشریح:	۶۱۸، ۶۰۷، ۳۹/۷
۱۱۳۵، ۱۰۸، ۲۰، ۱۹/۳	شیطان کے بنی نوع انسان سے عہد کی نوعیت:
مؤمنوں کی وعدہ پورا کرنے کی صفت:	۵۳۹/۲
۱۷۷، ۱۷۶/۳	اللہ تعالیٰ کا مؤمنوں سے وعدہ:
۲۹۳/۶	۵۱۸، ۵۶۱/۲

۶۳، ۶۳، ۶۰، ۵۶، ۴۲/۳	ایفائے عہد کا ایک عجیب واقعہ:
۱۵۹/۵	۲۷۰/۴
۲۰۳/۶	اللہ تعالیٰ کا کافروں اور منافقوں سے وعدہ:
۷۲۳، ۷۲۱، ۲۲۰ تا ۲۰۴، ۲۰۰ تا ۱۳۲/۷	۶۰۲، ۴۱۸/۴
۷۱۱، ۵۲۷، ۵۰۳، ۴۷۰، ۴۱۷، ۴۱۶/۸	۵۳۷، ۲۸۵/۶
حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۵۵۴، ۱۷۱/۸
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہم حالات و واقعات:	منافقوں کی عہد شکنی:
۶۰۸، ۲۵۸/۱	۴۲۴/۴
۶۰۵ تا ۵۹۹، ۸۴، ۷۲ تا ۶۶/۲	۹۶/۷
۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۰، ۱۶۲/۳	شیطانی وعدہ کی حقیقت:
۶۴۸ تا ۶۳۹/۵	۵۰۲، ۴۴۱/۵
۲۲۵، ۲۸۵ تا ۲۶، ۲۰/۶	عہد شکنی کی مختلف صورتیں:
۷۳۷ تا ۷۳۳/۷	۴۸۰/۵
۴۲۹ تا ۴۲۲، ۴۲۲/۸	آئندہ زمانہ میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرنے کا
آپ کے رفع و نزول کی مدلل بحث:	طریقہ:
۶۰۵ تا ۵۹۹، ۸۰ تا ۷۲، ۶۶/۲	۵۸۳ تا ۵۸۰، ۵۳۷/۵
۲۷۱، ۲۶۵/۳	معاهدات کے متعلق حضور علیہ السلام کا طرز عمل:
۷۳۷، ۷۳۳/۷	۶۳/۸
آپ کے فضائل:	ابراہیم علیہ السلام کا ایفائے عہد:
۶۲۱، ۶۱۶، ۶۱۵، ۶۱۰، ۸۱، ۸۰، ۶۶، ۶۱، ۵۶، ۵۵/۲	۲۱۷/۸
۶۲۳	
۲۶۵/۳	عورت
۳۱۴/۶	اسلام میں عورت کا مرتبہ، حقوق و فرائض اور مناسب
۷۳۳/۷	ہدایات:
آپ کے متعلق نصرانی عقائد کی اصلاح:	۵۵۱ تا ۵۳۷/۱
۶۱۹ تا ۶۱۵/۲، ۳۲۵، ۳۲۱، ۲۹۷، ۲۹۳، ۲۸۵، ۲۷۱، ۲۵۲، ۵۷/۲	
۲۰۷، ۸۸، ۸۷/۳، ۳۶۲، ۳۵۵ تا ۳۵۱، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۳۳، ۳۲۸	
۳۱۵ تا ۲۹/۶	۵۶۳ تا ۵۵۸، ۴۰۲ تا ۳۹۵، ۳۶۳

ع

آپ کی طرف سے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی  
بشارت:

۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۲، ۲۲۱/۸

غریت

لفظ ”فقر“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

عیسائی

لفظ ”نصاری“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

غصب

کسی کا مال غصب کرنے کی ایک صورت:

۵۰۴/۷



غصہ

اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحقین:

۲۶۰، ۹۲، ۷۹/۱

۵۱۳/۲

۵۹۸، ۱۸۲/۳

۱۹۸، ۷۵، ۷۲، ۷۰/۴

۱۹۶، ۱۹۴/۵

۱۲۹، ۱۲۸/۶

۲۸۲/۷

۴۰۹، ۳۵۱، ۳۳۹، ۶۹/۸

اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر ناراضگی:

۲۳۶/۱

۱۵۲/۲

غصہ پی لینے کا اجر و ثواب:

۱۸۹، ۱۸۵، ۱۸۳/۲

۷۰۵، ۷۰۳/۷

غصہ کا علاج:

۶۵۰/۷

## غیب

غیب سے کیا مراد ہے:

۱۰۹/۱

## غیبت

غیبت کی قباحت:

۱۲۳ تا ۱۲۱/۸

غیبت کی سزا:

۱۲۲/۸

غیبت کا کفارہ:

۱۲۳/۸

غیبت کے متعلقہ مسائل:

۱۲۳/۸

غیبت کی حرمت سے بعض صورتوں کا استثناء:

۱۲۳/۸

## غیرتِ دینی

دینی غیرت کے متعلق ہدایات و تنبیہات:

۵۳۸، ۴۲۱، ۳۰۶، ۱۸۹، ۱۸۸، ۹۹/۱

۵۸۱، ۲۵۳، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۵، ۵۹، ۵۲، ۵۰، ۲۸/۲

۵۹۳، ۵۸۸، ۵۸۶، ۵۸۵، ۵۸۴، ۵۸۳

۲۹۱، ۲۱۸، ۲۰۳، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۶۸، ۱۶۷/۳

۵۰۷، ۴۲۱، ۳۷۲، ۳۶۹، ۳۶۸

۵۲۲، ۴۳۸، ۴۳۷، ۴۲۷، ۴۰۷، ۴۰۶، ۴۰۴/۴

۶۷۲، ۶۳۱، ۵۸۰، ۵۷۹، ۵۳۵

۵۲۲، ۵۲۱، ۲۰۹/۵

۷۲۸، ۵۳۹، ۴۷۰، ۷۲، ۶۷/۶

۷۲۵، ۷۲۴، ۵۱۴، ۸۰، ۷۷/۷

۴۰۲، ۴۰۱، ۳۹۹ تا ۳۹۷، ۳۵۳ تا ۳۵۰، ۳۳۹/۸

۸۳۳ تا ۸۳۱، ۴۰۵، ۴۰۴

## غلامی

عرب کے جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی ممانعت:

۲۳/۸

غلامی کی اجازت کیوں:

۲۳/۸

غلامی کے متعلق اسلامی ہدایات:

۲۵/۸

غلام آزاد کرنے کی تلقین:

۲۶/۸

دورِ حاضر میں غلامی کی شرعی حیثیت:

۲۷/۸

## غلو

اہل کتاب کو غلو کرنے کی ممانعت:

۶۱۵/۲

۲۱۰، ۲۰۹/۳

ایک تنبیہ:

۲۱۲، ۲۱۱/۳

علمی تحقیق و تدقیق غلو نہیں:

۲۱۲/۳

بنی اسرائیل کے غلو کا انجام بد:

۲۱۳/۳

## غنیمت

لفظ ”غنیمت“ کی تحقیق:

۲۳۷، ۱۷۳/۴

(مزید تفصیل کے لئے ”مالِ غنیمت“ کا عنوان ملاحظہ

فرمائیں)

## فتح مکہ

فتح مکہ کی پیش گوئی:  
۸۳۶/۸

## فترت

زمانہ فترت کی تحقیق:  
۹۰/۳

زمانہ فترت کے احکام:  
۹۱/۳

ایک سوال و جواب:  
۹۱/۳

## فتنہ

فتنہ پھیلانا، قتل سے زیادہ سخت ہے:  
۵۱۶/۱

لفظ ”فتنہ“ کی تشریح:  
۲۳۲، ۲۱۳/۳

مال و دولت انسان کے لئے بڑا فتنہ ہیں:  
۴۷۰/۸

## الفجر (سورة)

ابتدائی آیات کی تفسیر:  
۷۴۰، ۷۳۸/۸

## فحش

شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے:  
۴۱۱/۱

۳۶۹/۶

زنا کرنے والی عورتوں اور مردوں کے متعلق حکم:  
۳۳۱، ۳۳۵/۲

## ف

### الفاتحہ

سورة کے فضائل و خصوصیات:  
۷۲/۱

سورة کے مضامین:  
۷۹/۱

صفت رحمت سے کیا اشارہ کیا گیا ہے:  
۸۲/۱

”مالک يوم الدين“ کی تفسیر:  
۸۳/۱

لفظ ”ہدایت“ کی تفسیر:  
۸۷/۱

صراط مستقیم کون سا راستہ ہے:  
۹۱/۱

صراط مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ:  
۹۲/۱

”غير المغضوب عليهم ولا الضالين“ کی تفسیر:  
۹۲/۱

سورة کے احکام و مسائل:  
۹۹، ۹۳/۱

سورة کی اہمیت:  
۳۱۳/۵

### فاتحہ خلف الامام

امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کی ایک دلیل:  
۶۲۶/۸

مؤمن بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں:

۷۰۳، ۷۰۳/۷

۳۱۱، ۳۱۰/۸

## فرح

کافروں کا مسلمانوں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا:

۱۵۶/۲

شہداء کی خوشی:

۲۳۲/۲

بڑے کاموں پر خوش ہونے کی قباحت:

۲۵۷/۲

۳۱۸/۳

۷۲۸، ۷۲۲، ۳۱۵/۶

۶۲۲، ۶۱۹، ۶۱۸/۷

خوشی کے لائق کام:

۵۳۳، ۵۳۱/۳

مسلمانوں کی خوشی کا ایک موقع:

۷۱۸/۶

فرح اور مرح میں فرق:

۶۱۹/۷

## فردوس

فردوس وغیرہ نام رکھنا غلط ہے:

۵۲۹/۳

## فرض کفایہ

فرض کفایہ کی تعریف:

۵۲۳/۲

۷۹/۳

زنا کار لونڈیوں کے متعلق حکم:

۳۷۳ تا ۳۷۰/۲

بدکاری کے طریقوں کے قریب نہ جانے کا حکم:

۳۸۶ تا ۳۸۳، ۳۷۸/۳

فحش اور فحشاء کی تعریف:

۳۸۵/۳

۷۰۳/۷

اللہ تعالیٰ، فحش کاموں کا حکم نہیں دیتے:

۵۳۰، ۵۳۸/۳

ایک فحش رسم کا انسداد:

۵۳۹، ۵۳۸/۳

فواحش کی حرمت:

۵۵۲، ۵۳۹/۳

قوم لوط کی بے حیائی اور ہلاکت:

۶۱۹ تا ۶۱۳/۳

۶۸۹ تا ۶۸۷، ۵۹۲/۶

بے حیائی کے کاموں کی ممانعت:

۴۷۶، ۴۷۵، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۸۷/۵

بے حیائی پھیلانے والوں کو عذاب کی وعید:

۳۸۰، ۳۶۸/۶

دور حاضر میں فواحش کی کثرت کی وجہ:

۳۸۰/۶

گندے مردوں اور عورتوں کی ترجیحات:

۳۸۳/۶

بڑائی اور بے حیائی سے روکنے والی چیز:

۶۹۷ تا ۶۹۵/۶

انسداد فواحش کا اسلامی نظام:

۲۰۳/۷



فرعون اور اس کے درباریوں کا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف منصوبہ:	فرعون کے مظالم:
۳۷، ۳۳/۳	۲۲۳/۱
بنی اسرائیل کی گھبراہٹ اور موسیٰ علیہ السلام کی ان کو تسلی:	۵۵، ۵۱/۳
۳۲ تا ۳۹، ۳۷، ۳۳/۳	۲۳۰/۵
فرعون پر حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی ہیبت کا اثر:	۶۱۶، ۶۱۵، ۵۹۵، ۸۵/۶
۳۷/۳	فرعون کی غرقابی:
۵۱۶، ۹۳/۶	۲۲۵، ۲۲۳/۱
فرعون اور اس کی قوم کی آزمائش:	۲۳/۲
۳۹ تا ۴۳، ۴۰/۳	۵۵۸، ۲۶۵، ۲۶۰، ۲۱/۳
۵۳۹، ۵۳۸/۵	۶۹۲، ۶۹۱، ۶۱۶، ۵۲۵، ۳۱۳، ۳۱۳، ۱۳۰ تا ۱۲۸، ۹۷/۶
فرعون کا ایمان نہ لانے کا حتمی اعلان:	۷۶۶، ۷۴۱، ۷۳۷، ۷۳۶، ۵۹۹، ۵۳۱، ۴۹۳/۷
۶۶۰، ۴۳/۳	۷۱۲، ۶۶۶، ۶۶۲، ۵۸۷، ۵۳۲، ۲۳۳، ۱۶۶، ۱۳۳/۸
۵۹۳/۷	۷۳۶
فرعونوں کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کی بددعا:	موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو تبلیغ:
۵۶۳، ۵۶۲، ۵۶۰، ۵۵۹/۳	۲۳، ۲۲، ۲۱/۳
۷۶۵/۷	۵۱۶، ۵۱۵، ۱۱۵، ۱۱۱، ۹۳، ۹۳، ۸۱، ۸۰، ۷۳/۶
فرعون کا حالتِ نزع میں ایمان لانا اور اس کا قبول نہ کیا جانا:	۷۶۵، ۷۴۰/۷
۵۶۳، ۵۶۰/۳	۶۶۲/۸
فرعون کی لاش آج بھی ذریعہ عبرت ہے:	فرعون کی سرکشی:
۵۶۷، ۵۶۶، ۵۶۵/۳	۲۳، ۲۲/۳
۹۷/۶	۶۳۶، ۵۶۰، ۵۲۱، ۵۱۶/۶
فرعون اور اس کے قبیعین پر اخروی عذاب:	۵۹۳/۷
۶۶۶، ۶۶۵/۳	فرعون کا نام:
فرعون کے ذریعہ سے موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش:	۲۳/۳
۸۹، ۸۷/۶	فرعون کا جاؤ گروں سے مقابلہ کرنے کا واقعہ:
	۵۵۷، ۵۵۶، ۳۷ تا ۲۵/۳
	۵۲۲، ۵۲۱، ۱۲۷ تا ۱۲۱، ۱۱۶، ۹۶، ۹۵/۶

سورۃ فرقان	فرعون کی موسیٰ علیہ السلام سے بار بار وعدہ خلافی:
سورۃ کی خصوصیات:	۹۶/۶
۳۵۷/۶	۷۳۱، ۷۴۰/۷
فرقہ	موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں پرورش:
نئے نئے فرقے بننے کی وجہ:	۱۱۳، ۱۱۱/۶
۲۱۱/۳	اہلیہ فرعون حضرت آسیہؑ کا انجام خیر:
فسق	۱۲۶/۶
فسق اور فاسق و فاجر کے معانی:	فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کا تعاقب:
۱۶۸/۱	۵۲۳، ۱۲۸/۶
فسوق کا معنی:	فرعون کو ”ذوالاقتاد“ کہنے کی وجہ:
۳۸۳/۱	۳۹۳/۶
اللہ تعالیٰ، فاسق لوگوں کی رہنمائی نہ کریں گے:	۷۴۱/۸
۳۵۷/۳	فرعون کے موسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب:
۳۳۵، ۳۳۳، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۹/۴	۵۱۶، ۵۱۵/۶
۳۳۸، ۳۲۱/۸	فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں ناکامی:
فاسق کی خبر قبول کرنے کی مشروط اجازت:	۶۲۲، ۶۲۱/۶
۱۰۵/۱	۵۹۵/۷
فضیلت	فرعون کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لئے بلند عمارت بنوانے کا حکم:
مردوں کی عورتوں پر فضیلت:	۶۳۷، ۶۳۶/۶
۵۵۲۳۵۳۹، ۵۳۶/۱	۶۰۲، ۵۹۸/۷
۳۹۸۵۳۹۳/۲	فرعونوں پر عذابِ قبر:
انبیاء کرامؑ میں سے بعض کی بعض پر فضیلت:	۶۰۳، ۵۹۹/۷
۶۰۹، ۶۰۸/۱	فرعون کی موسیٰ علیہ السلام پر طعنہ زنی:
۳۹۶/۵	۷۴۱/۷
اپنے سے برتر لوگوں کے غیر اختیاری امور میں تمنا	(مزید تفصیل کے لئے ”بنی اسرائیل“ کا عنوان ملاحظہ
کرنے کی ممانعت:	فرمائیں)
۳۸۹، ۳۸۸/۲	

۵۲۵، ۴۲۳، ۴۱۷/۳	آخرت کی دنیا پر فضیلت:
۴۰۹/۷	۴۸۰/۲
۷۲۶، ۷۲۲/۸	۳۰۷/۳
فلاح	۹۹/۴
فلاح پانے والوں کے اوصاف:	۵۹۶، ۵۹۰، ۴۶۰، ۳۹۷، ۳۹۴، ۳۳۸، ۳۳۳، ۸۵/۵
۱۰۶، ۱۰۵/۱	۵۲/۶
۲۹۵، ۲۹۳/۶	۷۶۶، ۷۶۵، ۷۲۶، ۷۲۲/۸
۷۲۶، ۷۲۲/۸	مجاہدین کی غیر مجاہدین پر فضیلت:
فوز و فلاح کے لئے چار شرطیں:	۵۲۳، ۵۲۲، ۵۱۸/۲
۸۶/۴	بعض انسانوں کی بعض پر فضیلت:
۴۳۷/۶	۳۲۲، ۳۲۰/۵
فلاح پانے کا طریقہ:	بنی آدم کی اکثر مخلوقات پر فضیلت:
۶۹۳/۶	۵۰۶، ۵۰۵/۵
فنئے	ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دینے کا صحیح معیار:
مال فنئے کے متعلق احکام:	۶۵۹/۶
۳۸۰، ۳۶۸، ۳۶۴/۸	فطرت
	فطرت کی تشریح:
	۷۴۷، ۷۴۲/۶
	فقر
	شیطان محتاجی سے ڈراتا ہے:
	۶۴۰، ۶۳۷/۱
	فقر وفاقہ، قحط و قطع رزق کی مختلف صورتیں:
	۶۹۳/۸
	فقہی ضابطے
	قرآن مجید سے مستنبط فقہی ضابطے:
	۵۴۱، ۵۳۷، ۵۳۶، ۴۸۰/۱
	۴۶۱، ۵۶۶، ۶۵، ۶۳/۲



## قتل

اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت:

۴۸۳/۳

۴۷۳/۵

(مزید بحث ”قصاص“ کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں)

## قدرت

اللہ تعالیٰ کی قدرت:

(”اللہ جل شانہ“ کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں)

## قذف

پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا:

۳۵۵۴۳۵۳/۶

## قرآن مجید

قرآن مجید کا تعارف:

۱۶۲، ۱۵۶، ۵۹، ۴۸، ۴۶، ۴۴، ۴۰، ۳۳، ۳۰، ۲۵/۱

۶۵۸، ۴۴۸، ۴۴۷

۴۲۹، ۳۰۷/۳

۵۸۵، ۵۸۴، ۴۹۶، ۳۰۶/۴

۵۴۸، ۱۶، ۱۵/۵

۸۳۶/۸

قرآن مجید میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں:

۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۵/۱

۳۲۸، ۲۸۳، ۲۸۱/۵

۵۴۸، ۵۴۶، ۴۶۰، ۴۵۹/۶

۷۶۲، ۷۶۱، ۶۵۷، ۵۷۹، ۴۰۷، ۴۰۶، ۳۶۰/۷

۶۸۳، ۶۸۰، ۶۷۵، ۶۷۱، ۵۴۴، ۴۲۱، ۱۹۱، ۱۹۰/۸

۷۱۶، ۷۱۴

## ق

## سورۃ ق

سورۃ کی خصوصیات:

۱۳۳/۸

## قارون

قارون کا تعارف:

۶۶۴، ۶۶۲/۶

قارون کی سرکشی:

۶۶۳، ۶۶۲/۶

۵۹۳/۷

قارون کا انجام:

۶۹۲، ۶۹۱، ۶۶۳/۶

## قانون

اسلامی قوانین کی بنیادی خصوصیت:

۵۷۷/۱

## قبر

قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا:

۷۶۸/۶

## قبلہ

قبلہ کے متعلقہ احکام و مسائل:

۳۸۰، ۳۷۳، ۳۶۳، ۳۵۹، ۳۵۶، ۳۰۲، ۲۹۵/۱

۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۲

۷۰۱، ۶۴۱، ۶۴۰، ۵۴۷، ۱۷۰/۶	قرآن مجید کے اوصاف:
۴۹۸، ۷۹۴، ۷۲۸، ۷۲۷، ۷۲۵، ۶۵۷/۷	۲۵۹، ۱۰۸، ۱۰۶/۱
۶۰۵، ۵۴۷، ۵۴۴، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۳، ۱۸۹، ۱۸۳/۸	۶۲۵، ۵۳۳، ۱۵/۲
اہم مسائل و احکام:	۴۲۹، ۴۲۶، ۳۹۷، ۳۹۲، ۲۱۴، ۱۶۲، ۱۵۶، ۸۶/۳
۴۳۲، ۲۰۸، ۲۰۷/۱	۴۳۷
۶۰۰/۶	۵۸۵، ۵۸۴، ۵۵۴، ۵۴۳، ۵۴۰، ۵۳۳، ۱۶۲، ۱۶۰/۴
۶۰۰، ۵۹۰، ۵۸۶، ۲۸۷، ۲۸۶/۸	۵۲۲، ۵۱۳، ۴۵۳، ۳۸۶، ۲۷۹، ۲۷۸، ۱۶۵، ۱۵۳/۵
زول قرآن کے مقاصد:	۶۰۰، ۵۳۹، ۵۲۸
۳۹۳، ۲۹۲/۳	۵۲۶، ۴۵۷، ۴۵۶، ۱۹۱، ۱۷۹، ۱۶۹، ۱۳۹، ۱۳۷/۶
۵۳۹، ۵۲۸، ۱۷، ۱۵/۵	۷۰۱، ۶۱۵، ۶۰۰، ۵۵۷
۷۵۶، ۷۵۵، ۷۱۶، ۶۷۱، ۳۳۰، ۵۷/۷	۵۳۰، ۵۱۰، ۴۹۱، ۳۶۰، ۳۴۳، ۳۳۰، ۵۷، ۱۸/۷
۲۸۶، ۲۸۵، ۲۹۵/۸	۶۵۷، ۶۲۶، ۶۲۵، ۵۶۹، ۵۵۳، ۵۵۱، ۵۳۹، ۵۳۴
حضور علیہ السلام کا فریضہ تعلیم قرآن:	۷۸۲، ۷۷۷، ۷۱۶، ۶۸۰، ۶۷۱، ۶۶۳
۳۹۱، ۳۳۳، ۳۳۰/۱	۷۹۷، ۷۹۵، ۷۱۶، ۶۸۰، ۶۷۱، ۶۳۳، ۱۳۱/۸
تعلیم قرآن کی اہمیت:	کافروں کو قرآن مجید کا چیلنج:
۳۳۳/۱	۱۳۳، ۱۳۰/۱
۲۵/۳	۶۰۰، ۵۳۳/۴
اہم فوائد:	۵۳۰، ۵۲۵/۵
۳۳۳/۱	۶۴۱، ۶۴۰/۶
۴۹۹، ۴۹۲/۳	قرآن مجید حضور علیہ السلام کا عظیم ترین معجزہ ہے:
۶۷۵، ۱۹۳، ۱۶۲، ۱۳/۴	۱۶۹، ۱۳۱/۱
۶۰۰، ۵۸۵، ۵۴۰، ۵۲۵، ۴۸۶، ۳۱۹، ۱۶۶، ۱۶۵/۵	۴۱۳/۳
۶۹۱، ۶۳۱، ۴۸۸/۶	۷۰۰، ۱۶۲/۴
۷۱۷، ۵۱۵، ۵۰۲، ۳۹۳/۷	۷۱۷، ۶۹۴/۷
۸۵۵، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۰، ۲۲۹/۸	کافروں کے شبہات کے جوابات:
قرآنی تعلیمات کو چھپانے کی سزا:	۲۸۷، ۱۶۷/۱
۴۲۸، ۲۰۷/۱	۳۹۶، ۲۸۳/۳
	۵۹۸، ۵۱۹، ۵۱۶، ۵۱۵/۴

۷۱، ۲۱۱، ۲۳/۶	قرآن مجید کی امتیازی شان:
۶۱۱، ۵۸۴، ۵۷۹، ۵۴۷/۷	۶۵۵، ۵۷۷/۱
۵۹۰، ۵۸۶/۸	۲۸۴، ۱۱۵، ۱۱۰/۳
قرآن مجید کا عربی میں نزول:	۴۸۵/۴
۲۳۳، ۲۰۹/۵	۵۴۴، ۵۳۹، ۵۲۸، ۲۱۸/۵
۵۴۷، ۱۳۹، ۶۳، ۵۸/۶	۶۷۱، ۴۸۵، ۴۴۷، ۱۷۱/۶
قرآن مجید کے متعلق کافروں کا رویہ:	۳۹۳، ۳۹۲، ۳۸۹/۸
۴۹۰، ۲۰۱/۵	قرآنی آیات کی درجہ بندی:
۷۶۳، ۵۴۷، ۵۳۰، ۱۶۸/۶	۲۰/۲
۶۶۳، ۶۵۸، ۶۵۷، ۶۳۷، ۶۳۶، ۳۰۷، ۲۹۶/۷	بعض آیات کے خصوصی فضائل:
۶۹۸	۴۷، ۳۵/۲
وہ درخت جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے:	۵۲۱/۵
۴۸۸/۸	۶۸۰/۷
قرآن مجید کے انکار کی سزا:	قرآن مجید کی حقانیت:
۴۰۴، ۳۳۲/۵	۴۹۰، ۴۸۷/۲
۳۲۰، ۳۱۹، ۱۵۹، ۱۵۳، ۱۵۰، ۱۴۸/۶	۳۳۱، ۲۸۱/۳
۶۵۶، ۶۳۷، ۶۳۶، ۶۱۸، ۶۱۷، ۵۸۰، ۵۷۹/۷	۵۰۲/۴
۷۷۷، ۷۳۶، ۶۵۷	۳۸۶، ۱۶۵/۵
نزول قرآن کے متعلق حضور علیہ السلام کو ہدایات:	۷۰۱، ۵۴۷، ۵۴۶/۶
۱۵۱، ۱۵۰/۶	۷۹۵، ۶۶۷، ۵۷۹، ۵۹۳، ۵۷۷/۷
۶۲۶، ۶۲۱، ۵۹۱، ۵۸۶/۸	۷۲۵، ۷۲۱/۸
قرآن مجید کے تدریجاً نزول کی حکمتیں:	اہم تنبیہات و ہدایات:
۶۴۱، ۴۷۳، ۴۷۲/۶	۶۲۲، ۵۸۴/۲
قرآن کسے کہتے ہیں:	۵۲۲/۵
۵۵۲، ۵۵۱/۶	۴۷۱/۶
قرآن مجید سے اعراض کا نتیجہ:	تلاوت قرآن کے آداب:
۱۹، ۱۸/۷	۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۴، ۱۶۰/۴
	۵۴۳، ۵۴۱، ۴۰۱، ۴۰۰، ۲۲۳، ۲۲۰/۵

نزل قرآن کی کیفیت:	قرآن مجید پر عمل کرنے کا اجر و ثواب:
۶۳۳/۸	۳۳۱/۷
قرآن پڑھنے کی فضیلت:	۲۳۵/۸
۶۷۵/۸	انکار قرآن کی قباحت:
قرآن کافروں کے لئے موجب حسرت ہوگا:	۵۸۳/۷
۸۴۳/۸	قرآنی آیات کے تقاضا پر عمل نہ کرنے کی قباحت:
قربانی	۶۵۶/۷
لفظ ”نک“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔	قرآن مجید میں تحریف کی دو صورتیں:
قرض	۶۶۲/۷
قرض کے متعلق شرعی احکام:	قرآن مجید کب نازل ہوا:
۶۸۵۴، ۶۸۳، ۶۵۷، ۶۰۲، ۲۸۸/۱	۷۵۶، ۷۵۵/۷
قرعہ اندازی	جنات کا قرآن مجید پر ایمان لانا:
قرعہ اندازی کا شرعی حکم:	۸۱۳، ۸۱۳/۷
۵۶/۱	قرآن کی نصیحت کون قبول کرتا ہے:
۴۷۸/۷	۱۵۳، ۱۵۲/۸
قرن	منکرین قرآن کو تنبیہ:
قرن کی تشریح:	۷۴۲، ۷۰۲، ۶۲۰، ۲۲۱/۸
۲۸۵/۳	قرآن مجید ایک روحانی نعمت ہے:
سورۃ قریش	۲۳۳، ۲۳۱/۸
سورۃ کی فضیلت:	قرآن پر ایمان لانے کا حکم:
۸۲۳/۸	۳۶۵، ۴۶۲/۸
قریش	منکرین قرآن کی سزا:
قریش کی تمام عرب پر فضیلت:	۷۲۱، ۵۲۶/۸
۸۲۳/۸	کافروں کا قرآن مجید کے متعلق رویہ:
قریش کو خصوصی ہدایت:	۶۰۸، ۶۰۵، ۵۲۹/۸
۸۲۳، ۸۲۲/۸	نصیحت کے لئے قرآن ہی کافی ہے:
	۶۸۰، ۶۷۱، ۶۳۳، ۶۰۹، ۵۲۳، ۵۳۰/۸

قلبی رُوحانی امراض کی وجہ:

۱۲۳/۱

دہلی کتاب کی سنگ دلی:

۲۵۹/۱

۸۲، ۸۱/۳

۳۲۱، ۳۰۵/۸

ایک رُوحانی مرض اور اس کی قباحت:

۲۱، ۱۹/۲

مؤمنوں کی قلبی کیفیت:

۱۷۸، ۱۷۷/۳

۲۷۶، ۲۶۵/۶

۵۳۹/۷

۳۶۶، ۳۵۱، ۱۳۶، ۳۰۵، ۳۱۰/۸

دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں:

۲۱۰، ۲۰۵/۳

دلوں کو جوڑنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے:

۲۷۷، ۲۷۶/۳

دلوں کے اطمینان کا طریقہ:

۱۹۵/۵

پاکیزہ دل والوں کی فضیلت:

۵۲۸/۶

قلب سلیم کی تفسیر:

۵۳۱/۶

صحابہ کرامؓ کے دلوں کی حالت:

۱۰۸، ۹۹/۸

ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے:

۱۲۶/۸

قصاص

قصاص و دیت کے احکام:

۳۳۷، ۳۳۵/۱

۵۱۶، ۵۱۵، ۵۱۴، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۷۷/۲

۳۸۶، ۱۶۵، ۱۶۱، ۱۵۶، ۱۵۴/۳

۳۷۸، ۳۷۶، ۳۶۶، ۳۳۵، ۳۳۳/۵

۵۰۵، ۳۹۹/۶

سورة القصص

سورة کا تعارف:

۶۱۷/۶

قضا

قضا کے متعلق احکام:

۲۵۸، ۲۵۷/۳

۲۱۰، ۲۰۸/۶

قلب

کافروں کی قلبی کیفیت:

۱۱۸، ۱۱۵/۱

۲۹۹/۳

۵۳۷، ۲۷۶، ۲۶۳/۶

۳۰۶، ۳۲۸/۵

۷۸۶، ۶۳۰، ۶۲۹، ۶۲۵، ۶۰۲، ۶۰۱، ۵۹۸، ۵۳۹/۷

۶۹۱، ۸۵، ۳۳/۸

منافقوں کی قلبی کیفیت:

۱۲۳، ۱۲۱/۱

۳۹۳/۳

۹۵/۷

۶۰۶، ۳۳۷، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۳، ۳۱، ۳۸/۸



قمری تاریخوں کی پسندیدگی:

۳۴۳/۴

چاند اور سورج کو سجدہ کرنے کی ممانعت:

۶۵۴/۷

شق قمر کا معجزہ:

۲۲۵، ۲۲۴/۸

چاند اور سورج کی قیامت کے دن کیفیت:

۶۲۵، ۶۲۰/۸

قمار

جوئے کی حقیقت:

۵۳۲/۱

جوئے کی حرمت:

۵۳۲/۱

جوئے کے نقصانات:

۵۳۶، ۵۳۴/۱

۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۴/۳

۷۲۱/۶

قوم

ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی:

۲۴۳/۱

دو قومی نظریہ کی اصل بنیاد:

۵۰۸/۱

۳۷۹/۳

سابقہ قوموں کی سرکشی و سزا:

۶۰۴، ۵۹۹، ۵۹۷، ۵۹۱، ۵۹۰، ۳۱۸، ۹۴، ۹۳/۳

۶۲۸، ۶۲۶، ۶۲۱، ۶۲۰، ۶۱۵، ۶۱۴، ۶۱۰، ۶۰۵

۴۱۹، ۱۱۸، ۹۷، ۶۵، ۶۴، ۵۱، ۴۵، ۲۲، ۲۱، ۱۲، ۱۱/۴

قول زور

قول زور کا مطلب:

۲۶۳/۶

قولِ سدید

قولِ سدید کے کہتے ہیں:

۲۴۰/۷

قلم و کتابت

قلم و کتابت کی اہمیت:

۷۸۶، ۷۸۵/۸

قلم کی تین قسمیں:

۷۸۵/۸

علم کتابت سب سے پہلے کے دیا گیا:

۷۸۵/۸

حضور علیہ السلام کو علم کتابت نہ سکھانے کا راز:

۷۸۶/۸

قمر

چاند اور سورج سے اوقات کو منضبط کرنے کی سہولت:

۴۰۲، ۳۹۸/۳

۵۰۷، ۵۰۳/۴

۳۹۰/۷

۲۴۴/۸

چاند اور سورج حکم الہی کے تابع ہیں:

۵۷۴، ۵۷۱/۳

۳۲۴، ۳۵۴، ۳۵۱، ۱۶۸، ۱۶۵/۵

۷۰۷، ۴۷۸، ۲۴۶، ۱۸۰/۶

۵۳۵، ۳۹۴، ۳۸۱، ۳۲۵، ۳۵/۷

۵۶۲، ۲۴۱/۸

قیامت

قیامت کی حقیقت و ضرورت:

۸۳/۱

عقیدہ قیامت کی اہمیت:

۲۲۳، ۱۱۳/۱

۱۷۰/۶

قیامت کے دن کے احوال و کیفیات:

۶۸۹، ۵۰۱، ۴۲۸، ۳۵۶، ۳۵۲، ۳۵۱، ۲۹۰، ۲۵۶/۱

۶۹۰

۴۲۰، ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۵۰، ۴۳۰، ۴۲۶، ۹۴، ۳۸/۲

۶۰۰، ۵۸۱، ۵۳۷، ۵۰۶، ۴۹۷

۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۱، ۲۸۹، ۲۸۱، ۱۹۰، ۱۲۵، ۸۳، ۸۱/۳

۴۹۸، ۴۵۴، ۴۵۰، ۳۹۷، ۳۲۹، ۳۰۹، ۳۰۶، ۳۰۴

۵۸۹، ۵۴۳، ۵۱۸

۶۷۰، ۵۹۴، ۵۸۷، ۵۳۷، ۱۴۱/۴

۴۸۶، ۳۸۵، ۳۳۱، ۲۷۵، ۲۶۹، ۲۵۳، ۲۵۲/۵

۵۳۵، ۵۰۸، ۵۰۷، ۴۹۴، ۴۸۴، ۴۸۱، ۴۴۶، ۴۱۶

۶۵۹، ۶۵۷، ۵۹۶، ۵۹۵، ۵۹۴

۴۳۰، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۷، ۱۶۶، ۱۴۸، ۵۸، ۳۱، ۳۰/۶

۴۳۳، ۳۸۲، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۴۶، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۲

۶۱۴، ۶۱۱، ۶۱۰، ۶۰۸، ۶۰۷، ۵۹۹، ۴۶۹، ۴۸۳

۷۶۴، ۷۶۳، ۷۵۲، ۷۲۸، ۷۲۷، ۶۸۵، ۶۷۸، ۶۶۶

۴۹۶، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۲، ۶۵، ۶۱، ۵۰، ۴۹، ۴۱/۷

۴۰۴، ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۳۳، ۳۳۱، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۰۳

۵۷۶، ۵۷۳، ۵۷۲، ۵۶۹، ۵۵۵، ۵۴۳، ۴۲۸

۶۴۴، ۶۰۷، ۵۹۷، ۵۹۰، ۵۸۸، ۵۸۵، ۵۷۷

۸۱۶، ۷۸۲، ۷۶۱، ۷۴۸، ۷۱۰، ۶۴۴

۶۶۹، ۶۱۰، ۵۵۵، ۵۵۴

۳۵۷، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۷، ۳۰۵، ۲۳۶/۵

۴۰۸، ۴۷۳، ۴۰۴، ۴۰۳، ۴۷۲، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۲/۶

۵۸۹، ۵۴۱، ۵۳۳، ۴۷۶، ۴۷۳، ۴۱۳، ۴۱۱، ۴۰۹

۶۹۲، ۶۹۱، ۶۸۸، ۶۸۷، ۶۸۰، ۶۰۷، ۵۹۴، ۵۹۰

۷۵۹

۵۹۹، ۵۹۴، ۵۸۰، ۴۹۳، ۴۷۱، ۴۴۶، ۴۶۷/۷

۷۶۶، ۷۱۷، ۷۴۰، ۴۶۹، ۷۶۶، ۷۶۵، ۷۴۱

۸۱۲، ۸۱۰

۴۳۳، ۴۳۲، ۴۲۹، ۴۲۸، ۴۱۵، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۳۳/۸

۵۶۳، ۵۶۱، ۵۴۲، ۴۲۱

کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع الہی نعمت ہے:

۱۰۲/۴

قوموں سے نعمت الہیہ چھین لینے کا الہی ضابطہ:

۲۶۲، ۲۶۰/۴

۱۸۳، ۱۸۲، ۱۷۹/۵

قوموں کی ہدایت و گمراہی کے متعلق الہی ضابطہ:

۴۷۳/۴

قوموں کی بلاکت کے متعلق الہی ضابطہ:

۵۶۷، ۵۶۶/۴

۱۶۲، ۱۶۰/۵

۸۱۶/۷

۴۷/۸

قوموں میں رسول بھیجنے کا الہی ضابطہ:

۲۲۴، ۲۲۳/۵

قیاس

قیاس کا اثبات:

۴۹۰، ۴۸۹، ۴۵۹، ۸۵/۲

۵۸۱، ۶۶۳، ۵۷۳، ۵۱۳/۸	۲۵۰، ۲۱۸، ۲۱۵، ۲۱۰، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۳۹، ۱۳۸/۸
چند شبہات:	۵۰۲، ۳۰۸، ۳۰۶، ۳۰۳، ۳۰۳، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۱
۵۶، ۵۵/۵	۵۸۷، ۵۵۶، ۵۵۵، ۵۵۲، ۵۵۱، ۵۲۳، ۵۲۲
۳۲۰، ۲۳۶/۷	۶۵۹، ۶۵۲، ۶۵۱، ۶۲۶، ۶۲۵، ۶۲۱، ۶۲۰، ۶۰۵
قیامت کا انکار کرنے کی سزا:	۶۸۶، ۶۸۲، ۶۸۱، ۶۷۹، ۶۷۷، ۶۷۲، ۶۶۶، ۶۶۳
۵۳۵، ۱۷۵/۵	۸۰۰، ۷۲۳، ۷۲۸، ۷۲۷، ۷۲۹، ۷۰۵، ۷۰۳، ۷۰۱
۴۶۳/۶	۸۰۷، ۸۰۶، ۸۰۴، ۸۰۱
۶۸۳، ۲۵۳/۷	قیامت کا اثبات:
قیامت کا وقت قریب ہے:	۵۸۹، ۵۸۶، ۵۸۵، ۳۹۳، ۲۸۰/۳
۳۹۳، ۳۹۳، ۳۸۰، ۳۱۰/۵	۵۷۳، ۵۲۸، ۴۹۳، ۳۳۶، ۲۲۱، ۱۷۲/۵
۲۳۹، ۱۷۰، ۱۶۸/۶	۷۲۷، ۷۲۵، ۷۲۳، ۶۸۳، ۶۰۷، ۴۳۹، ۴۳۸/۶
۶۸۳، ۴۳۶، ۴۳۶/۷	۷۶۵، ۷۶۰، ۷۵۹، ۷۳۳، ۷۲۸
کافروں کے شبہات کے جوابات:	۴۰۳، ۳۰۱، ۳۲۳، ۲۵۶، ۲۵۳، ۲۵۳، ۷۳، ۳۵/۷
۷۶۶، ۷۶۳، ۶۲۷، ۵۹۸، ۵۹۷، ۴۸/۶	۸۱۶، ۷۸۹، ۷۳۳، ۶۰۸، ۴۸۳، ۴۲۵، ۴۲۳، ۴۱۱
۴۲۱۰، ۳۵۶، ۳۵۲، ۲۳۶، ۷۳، ۷۲، ۶۷، ۶۳/۷	۵۵۳، ۵۱۵، ۴۸۲، ۴۷۸، ۱۵۷، ۱۵۵، ۱۳۳، ۱۳۲/۸
۷۶۹، ۷۰۷، ۴۲۶، ۴۱۳	۶۷۱، ۶۶۳، ۶۶۲، ۶۵۱، ۶۲۸، ۶۲۳، ۶۲۲، ۵۵۳
۶۶۶، ۶۶۳، ۶۶۲، ۱۳۳، ۱۳۱/۸	۷۳۲، ۷۲۹، ۷۱۷، ۷۱۶، ۶۷۲
قیامت کا دن مخفی ہونے کی حکمت:	قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں:
۶۷/۶	۲۸۹/۳
قیامت کا خوف ہونے کی علامت:	۶۶۷، ۵۳۹/۴
۱۹۱/۶	۵۷۶، ۵۷۳، ۵۳۵، ۳۱۰/۵
قرب قیامت کی علامات:	۲۳۹/۶
۲۲۷/۶	۶۰۸، ۴۶۱، ۳۳۰، ۲۵۲/۷
قیامت کی علامات:	قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے:
۶۰۳/۶	۱۳۱، ۱۳۹/۴
۷۶۰/۷	۲۳۳، ۷۱/۶
۳۵، ۳۳/۸	۷۸۶، ۷۵۲، ۶۶۵، ۶۶۳، ۶۰۸، ۴۹۶، ۴۹۵، ۴۹/۷
	۷۸۹

دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت:	قیامت کے دن باعثِ ندامت بننے والا ایک کام:
۶۲۳، ۲۵۰، ۲۲۳/۸	۶۷۰/۶
قیامت کے متعلق انس و جن کو تنبیہ:	قیامت کا آنا ایک فطری عمل ہے:
۲۵۶۵۲۵۳، ۲۵۰، ۲۳۹/۸	۷۲۵، ۷۲۳/۶
منکرینِ قیامت کو تنبیہ:	قیامت کے دن کافروں کی ناامیدی:
۵ ۶۵۱، ۶۳۳، ۶۲۱، ۶۲۰، ۲۸۸، ۲۸۴، ۲۳۶، ۲۱۵/۸	۷۲۷/۶
۷۷۷، ۷۲۹، ۶۸۷، ۶۸۶، ۶۵۳	کافروں کا عقیدہ قیامت کے متعلق رویہ:
قیامت کے دن باعتبارِ انجام لوگوں کی تین قسمیں:	۳۲۵، ۳۲۳، ۳۰۱، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۵۵، ۲۵۳، ۲۵۲/۷
۶۸۸، ۶۸۱، ۶۷۹، ۲۸۹، ۲۸۳/۸	۲۸۳، ۲۹۳
قیامت کی تیاری کی ترغیب:	۶۶۲/۸
۳۹۲۵۳۸۹/۸	قیامت کے آنے کی حکمت:
قیامت کو لفظ ”غد“ سے تعبیر کرنے کی حکمتیں:	۵۸۲، ۵۱۰، ۲۵۵، ۲۵۳/۷
۳۹۰/۸	منکرینِ قیامت کے پاس کوئی دلیل نہیں:
قیامت کو ”یوم النعابن“ کہنے کی وجہ:	۷۸۶/۷
۳۶۵/۸	کافروں کا ایک مطالبہ اور اس کا جواب:
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بحث:	۷۸۶/۷
۶۲۷/۸	قیامت کی آمد یقینی ہے:
قیامت کی پانچ صفات:	۳۶۲، ۲۲۲، ۲۲۱، ۱۶۳، ۱۵۷، ۱۵۵، ۱۵۲، ۱۵۱، ۳۳/۸
۶۲۵/۸	۲۵۹۵۵ ۶۵۰، ۶۳۲، ۶۱۹، ۵۸۷، ۵۵۶، ۵۵۳، ۵۵۱
کافروں کا عقیدہ قیامت کے ساتھ استہزاء:	۶۶۲، ۶۶۱
۶۶۲/۸	منکرینِ قیامت کے حالات:
قیامت کے دن مؤمنوں اور کافروں کے احوال:	۶۹۱، ۶۳۳، ۶۳۳، ۲۱۵، ۲۱۳، ۱۵۶/۸
۶۷۲/۸	منکرینِ قیامت کی بدبختی:
قیامت کے دن کی خرابی کن لوگوں کے لئے ہے:	۶۳۳، ۱۵۶/۸
۶۹۲۵۳۶۹۰/۸	منکرینِ قیامت کی سزا:
قیامت کے دن ہر نیکی اور گناہ کا نتیجہ سامنے آئے گا:	۶۹۲، ۶۹۱، ۶۳۳، ۶۳۳، ۱۷۷، ۱۵۶/۸
۸۰۲/۸	قیامت قریب ہے:
	۲۲۳، ۲۲۱، ۲۱۶/۸



سورۃ کافرون

سورۃ کی فضیلت:

۸۳۲، ۸۰۲/۸

کذب

ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی سزا:

۱۲۳۵، ۱۲۱/۱

جھوٹ کی قیامت و سزا:

۱۲۹، ۱۲۸، ۸۳/۱

۳۲۹، ۱۱۲، ۱۰۶، ۸۳/۲

۵۰۵، ۴۷۳، ۳۰۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۳۵/۳

۶۰۷، ۵۵۳، ۵۴۰، ۵۱۶/۴

۵۶۳، ۴۱۳، ۴۰۴/۵

۷۱۳، ۱۳۱/۶

۵۶۹، ۵۵۵، ۴۸۲/۷

بعض اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ:

۹۳، ۹۲/۲

کذب کے کہتے ہیں:

۲۳۷/۳

کافر اپنے وعدوں میں جھوٹے ہوتے ہیں:

۳۰۶/۳

کافروں کی کذب بیانی:

۴۶۰، ۴۴۰، ۷۳۶، ۴۲۴/۴

۵۲۸، ۴۰۴، ۳۵۷/۵

۶۷۸، ۳۲۶/۶

قیامت کے دن انسانوں کے دو گروہ ہوں گے:

۸۰۷/۸

قیامت کی ایک عقلی دلیل:

۷۰۴، ۵۳۷/۸

قیامت کے تین نام:

۵۳۵/۸

قیامت کے دن کوئی چھپ نہ سکے گا:

۶۲۰، ۵۳۶/۸

سورۃ القیامۃ

سورۃ کو ختم کرنے کا طریق:

۶۲۸/۸



کفر کا وبال: ۶۱۷، ۲۸۷، ۲۶۳، ۲۵۹/۱  
 ۵۷۹، ۲۴۵/۲  
 ۴۲/۳  
 ۳۲۶/۴  
 ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۵۰/۵  
 ۷۵۲/۶  
 ۳۵۴، ۳۵۳/۷  
 ۷۶۱، ۷۶۰، ۵۷۲/۸  
 حالت کفر میں نیک کام کرنے کے متعلق:  
 ۵۲۰/۱  
 کفر کو ہدایت سمجھنے کی سزا:  
 ۱۰۳/۲  
 ایک شبہ کا ازالہ:  
 ۱۰۵/۲  
 کفر و معصیت پر دل سے راضی ہونے کی قباحت:  
 ۵۸۶، ۲۵۳/۲  
 یہود کی بعض کفریہ حرکات:  
 ۶۰۰، ۵۹۹، ۴۲۵/۲  
 کفریہ مجالس میں بیٹھنے کی ممانعت:  
 ۵۸۱/۲  
 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا:  
 ۳۶۶، ۳۵۸/۳  
 ۵۳۲، ۵۳۰، ۳۵۴، ۲۵۳/۷  
 حق اور باطل کے درمیان کوئی واسطہ نہیں:  
 ۵۳۱/۴  
 کفر پر مجبور کئے جانے والے شخص کا حکم:  
 ۶۰۶، ۴۰۵/۵

جھوٹے عقائد و اعمال سے بچنے کا حکم:

۲۶۳، ۲۶۲/۶

جھوٹے لوگوں پر شیاطین کا نزول:

۵۴۹/۶

قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا:

۷۶۸/۶

### کرامت

کرامت کی حقیقت:

۱۰۰/۱

### کرانا کاتبین

ہر انسان پر لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں:

۷۱۷، ۷۱۶، ۷۱۵، ۶۸۶، ۶۷۵، ۶۷۱/۸

### کشتی

کشتیوں اور دوسری سواریوں پر سوار ہونے کے آداب:

۶۲۵/۴

### کعبہ

آدم علیہ السلام کے ہاتھوں کعبہ کی تعمیر:

۱۱۴/۲

کعبہ کے فضائل:

۲۴۰۷۲۳۶/۳

### کفر

کفر کی تعریف:

۱۱۷/۱

۱۳۱/۴

۶۳۷/۶

۱۹۴/۴ ، ۲۲۹ ، ۳۰۵ ، ۳۸۳ ، ۴۱۸ ، ۴۹۸ ، ۵۴۷  
 ۶۶۸ ، ۶۶۷ ، ۵۴۸  
 ۲۰۵/۵ ، ۲۰۶ ، ۲۲۱ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۲۴۱ ، ۲۵۱ ، ۲۶۰  
 ۲۲۹ ، ۲۴۲ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۵۶ ، ۲۵۸  
 ۳۸۵ ، ۳۸۶ ، ۳۵۳ ، ۳۵۸ ، ۳۹۸ ، ۵۸۶ ، ۵۹۵ ، ۶۰۰  
 ۶۵۷ ، ۶۵۵  
 ۲۸/۶ ، ۲۹ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۱۲۲ ، ۱۸۵ ، ۲۴۷ ، ۲۴۸ ، ۲۴۰  
 ۲۳۸ ، ۲۸۵ ، ۳۱۱ ، ۳۱۲ ، ۳۱۳ ، ۳۲۸ ، ۳۳۰ ، ۳۳۲ ، ۳۳۳  
 ۳۳۸ ، ۳۳۹ ، ۳۶۳ ، ۳۶۹ ، ۴۲۳ ، ۴۲۵ ، ۴۲۸ ، ۵۵۰  
 ۶۰۹ ، ۶۵۵ ، ۶۶۳ ، ۶۸۳ ، ۷۰۲ ، ۷۱۴ ، ۷۱۵ ، ۷۲۷  
 ۲۳۵/۳ ، ۲۸۶ ، ۲۸۸ ، ۳۵۸ ، ۳۶۶ ، ۴۱۷ ، ۴۱۸ ، ۷۲۸  
 ۲۳۰ ، ۲۳۳ ، ۵۳۸ ، ۵۳۹  
 ۲۰۳/۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۵ ، ۲۱۶ ، ۲۵۴  
 ۵۲۴ ، ۵۰۵  
 ۵۱/۶ ، ۵۳ ، ۵۵ ، ۱۶۱ ، ۱۸۵ ، ۲۳۸ ، ۲۴۳ ، ۲۴۶  
 ۳۶۶ ، ۴۱۷ ، ۴۱۵ ، ۷۲۳ ، ۷۲۴ ، ۷۲۵ ، ۷۲۶ ، ۷۲۷ ، ۷۲۸  
 ۳۳/۷ ، ۳۳ ، ۳۶۶ ، ۳۹۱ ، ۴۲۲ ، ۴۵۳ ، ۴۵۴ ، ۴۵۶ ، ۴۵۷  
 ۳۹۵ ، ۳۹۶ ، ۴۹۱ ، ۵۵۹ ، ۵۶۵ ، ۶۲۲ ، ۶۶۵ ، ۶۶۶  
 ۶۷۶ ، ۷۲۷ ، ۷۲۸ ، ۷۲۹ ، ۷۳۰ ، ۷۳۱ ، ۷۳۲ ، ۷۳۳ ، ۷۳۴  
 ۷۳۵ ، ۷۳۶ ، ۷۳۷ ، ۷۳۸ ، ۷۳۹ ، ۷۴۰ ، ۷۴۱ ، ۷۴۲ ، ۷۴۳  
 ۲۰/۸ ، ۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۴۲ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ ، ۳۲۳  
 ۶۳۳ ، ۶۳۴ ، ۶۳۵ ، ۶۳۶ ، ۶۳۷ ، ۶۳۸ ، ۶۳۹ ، ۶۴۰  
 ۲۳/۸ ، ۲۴ ، ۱۳۹ ، ۱۸۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۱ ، ۲۸۳ ، ۳۰۶  
 ۳۳۳ ، ۳۶۲ ، ۵۱۳ ، ۵۲۳ ، ۵۲۴ ، ۵۲۵ ، ۵۲۶ ، ۵۲۷ ، ۵۲۸ ، ۵۲۹  
 ۵۸۷ ، ۶۳۱ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۵۲ ، ۶۶۳ ، ۶۶۴ ، ۶۶۵ ، ۶۶۶ ، ۶۶۷  
 ۷۸۱ ، ۷۹۶ ، ۸۰۷

کفر کی ایک خاص قسم کا حکم:  
 ۶۵۸/۷  
 ایک شبہ کا ازالہ:  
 ۶۵۹/۷  
 صحابہ کی کفر و فسق سے نفرت:  
 ۱۰۸/۸

کفار

کافروں کی بُری صفات و حالات:  
 ۱۱۵/۱ ، ۱۱۶ ، ۱۱۸ ، ۲۸۸ ، ۳۰۲ ، ۵۰۹ ، ۵۱۰ ، ۶۱۰ ، ۶۱۷  
 ۵۳۲/۲  
 ۲۳۵/۳ ، ۲۸۶ ، ۲۸۸ ، ۳۵۸ ، ۳۶۶ ، ۴۱۷ ، ۴۱۸ ، ۷۲۸  
 ۵۳۹ ، ۵۳۸ ، ۲۳۳ ، ۲۳۰  
 ۲۰۳/۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۵ ، ۲۱۶ ، ۲۵۴  
 ۵۲۴ ، ۵۰۵  
 ۵۱/۶ ، ۵۳ ، ۵۵ ، ۱۶۱ ، ۱۸۵ ، ۲۳۸ ، ۲۴۳ ، ۲۴۶  
 ۳۶۶ ، ۴۱۷ ، ۴۱۵ ، ۷۲۳ ، ۷۲۴ ، ۷۲۵ ، ۷۲۶ ، ۷۲۷ ، ۷۲۸  
 ۳۳/۷ ، ۳۳ ، ۳۶۶ ، ۳۹۱ ، ۴۲۲ ، ۴۵۳ ، ۴۵۴ ، ۴۵۶ ، ۴۵۷  
 ۳۹۵ ، ۳۹۶ ، ۴۹۱ ، ۵۵۹ ، ۵۶۵ ، ۶۲۲ ، ۶۶۵ ، ۶۶۶  
 ۶۷۶ ، ۷۲۷ ، ۷۲۸ ، ۷۲۹ ، ۷۳۰ ، ۷۳۱ ، ۷۳۲ ، ۷۳۳ ، ۷۳۴  
 ۷۳۵ ، ۷۳۶ ، ۷۳۷ ، ۷۳۸ ، ۷۳۹ ، ۷۴۰ ، ۷۴۱ ، ۷۴۲ ، ۷۴۳  
 ۲۰/۸ ، ۲۱ ، ۲۲۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۴۲ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ ، ۳۲۳  
 ۶۳۳ ، ۶۳۴ ، ۶۳۵ ، ۶۳۶ ، ۶۳۷ ، ۶۳۸ ، ۶۳۹ ، ۶۴۰  
 کافروں کی اخروی بے بسی و سزا:  
 ۱۳۰/۱ ، ۲۲۳ ، ۲۵۷ ، ۲۶۰ ، ۲۸۰ ، ۳۰۷ ، ۳۱۶  
 ۲۳/۲ ، ۲۴ ، ۸۲ ، ۱۰۵ ، ۱۷۶ ، ۲۲۲ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۳۱۹  
 ۲۳۱ ، ۲۳۰ ، ۵۳۲ ، ۵۹۱ ، ۶۰۶  
 ۲۳/۳ ، ۲۱۶ ، ۳۰۰ ، ۳۰۲ ، ۳۱۵ ، ۳۶۸ ، ۳۶۹  
 ۳۹۳ ، ۵۵۷ ، ۵۷۰ ، ۵۷۱

کافروں کی گمراہی کی وجوہ:

۶۳۳، ۶۰۳، ۶۰۲، ۶۵/۳	کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے:
۳۶۸/۶	۲۵۲، ۲۰۳/۱
۸۰۹/۷	۱۰۵، ۱۰۳/۲
۷۳۰، ۴۷۵، ۴۵۰، ۱۹/۸	۵۶۰، ۵۵۵، ۵۵۴، ۴۵۰، ۴۳۹، ۴۳۶، ۱۲۹، ۱۲۵/۳
کافروں کے دین کے ساتھ استہزاء کی وجہ:	۷۵۷
۳۷۳/۳	۶۶۸، ۶۶۷، ۵۴۷، ۴۴۷/۴
۸۰۲، ۷۸۹، ۶۴۲، ۶۰۷/۷	۷۹۰، ۵۶۸، ۵۶۴، ۴۴۱، ۶۶/۷
کافروں کی جان کنی کی کیفیت:	۶۸۶، ۵۵۲/۸
۵۵۹، ۵۵۸، ۳۹۳/۳	کفار کی انواع و اقسام:
۲۶۳، ۲۶۰/۴	۲۰۵/۱
کافروں کے لئے ان کے نرے اعمال کی تزئین:	۵۰۹، ۵۰۷/۲
۴۳۹، ۴۳۵/۳	۲۵۵/۶
۵۵۸/۶	اللہ تعالیٰ کافروں کو ناپسند کرتے ہیں:
مؤمن اور کافر کے بعض حالات کا تقابل:	۴۰۲، ۲۶۷، ۲۶۰/۱
۴۴۱/۳	۵۳/۲
کافروں کی ریس کرنا جائز نہیں:	۴۵۱/۵
۴۴۲/۳	۷۵۲/۶
کافروں پر اتمام حجت:	کفار کے متعلق بعض احکام:
۵۰۰ تا ۴۹۴/۳	۴۶۶/۱
۷۰۱، ۱۶۲/۶	۵۸۸، ۱۶۰ تا ۱۵۵، ۵۰، ۴۹/۲
کیا کافر کی دُعا قبول ہو سکتی ہے:	۴۰۳، ۲۸۱، ۱۷۰/۳
۵۲۸/۳	۵۸۱، ۱۴۶/۶
کفار مکہ کو تنبیہات:	۶۳۱، ۴۰۳، ۸۱/۷
۶۰۲، ۵۷۹، ۵۷۸، ۵۱۵، ۱۲۸ تا ۱۲۴، ۱۳، ۱۲/۴	۴۳۴، ۴۱۶ تا ۴۱۲، ۴۰۸، ۴۳۸، ۴۹/۸
۴۵۰، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۵۹، ۱۵۶، ۱۵۴، ۱۵۳/۵	کافروں کو ہدایت نہ ملنے کا مطلب:
۴۵۸، ۴۵۷	۶۴۹، ۶۴۸/۱
۵۳۴، ۵۲۹، ۴۷۵، ۴۶۳، ۴۷۳، ۴۴۵، ۴۳۴، ۱۸۶/۶	کافروں سے اچھے اعمال بھی قبول نہیں:
۷۲۵، ۷۲۴، ۵۴۴، ۵۴۱، ۵۳۹، ۵۳۷	۵۵۵، ۵۵۴، ۴۸/۲



کافروں کی آخری سزا کی وجہ:	۷۳/۷، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۳۳، ۳۵۷، ۳۶۹، ۳۷۹
۵۳۵/۵	۳۳۰، ۳۹۱، ۵۲۹، ۵۵۹، ۵۶۵، ۵۶۸، ۵۷۲، ۶۱۷
کافروں کا ایک مطالبہ اور اس کا جواب:	۶۳۱، ۶۵۷، ۶۶۶، ۶۸۲، ۷۱۳، ۷۱۷، ۷۲۵، ۷۲۹
۵۳۵/۵	۸۱۱
کافروں کی اولاد کا حکم:	۱۳۱/۸، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۸۳، ۱۸۶، ۲۱۵، ۲۲۳، ۲۳۶
۲۵۷/۵	۲۸۳، ۲۹۳، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۳۳، ۵۸۷
حضور علیہ السلام کو کافروں کی دہل جوئی کی ممانعت:	۶۰۹، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۴، ۶۴۷، ۶۸۷، ۷۰۲، ۷۰۷
۵۸۷۵۵۸۵/۵	۷۳۶، ۷۸۱
کافروں کی ضد اور اس کی سزا:	۱۷/۳، ۱۸، ۶۵، ۵۵۵، ۵۷۰، ۵۸۳
کافروں کے لئے استغفار کی ممانعت:	۳۶/۶
عہد نبوی کے کافروں کے مغلوب ہونے کی پیش گوئی:	۱۹۳/۵، ۱۹۵، ۲۷۰، ۲۷۳، ۲۸۵، ۳۳۰، ۳۰۵، ۵۳۱
۲۳/۲	۵۳۵، ۶۱۰
۲۶۸/۶	۱۶۸/۶، ۱۸۶، ۱۸۷، ۲۳۰، ۳۱۹، ۳۲۱، ۳۸۱، ۵۳۷
۶۶۷، ۵۸۳/۷	۶۳۱، ۷۱۳
۲۳۶، ۸۳، ۲۶/۸	۷/۷، ۲۳، ۲۹۱، ۳۰۷، ۳۵۶، ۳۶۳، ۳۹۵، ۳۸۶
کفار کے شبہات کے جوابات:	۲۸۷، ۲۹۱، ۳۹۱، ۵۳۶، ۵۵۹، ۶۲۵، ۶۲۹، ۶۸۰، ۶۸۵
۳۹/۲	۷۱۹، ۷۳۳، ۷۳۳، ۷۳۸
۲۸۱، ۲۳۸، ۲۳۶، ۲۱۵، ۲۱۰، ۱۷۳، ۱۷۲/۵	۸/۱۸۵، ۶۰۹
۵۳۳، ۵۳۱، ۴۰۳، ۴۰۳، ۳۳۷	کافروں کی عہد شکنی:
۳۲۳، ۳۱۹، ۱۸۷، ۱۸۳، ۱۷۱، ۱۶۸، ۱۶۲/۶	۳/۱۹، ۲۰، ۲۶۵، ۲۶۷
۶۵۳، ۶۴۹، ۴۷۵، ۳۶۸، ۳۵۹، ۳۳۳، ۳۳۲	کافروں کی ناپسندیدگی کے باوجود دین اسلام کی تکمیل:
۷۱۶، ۷۱۳	۳/۳۶۳
۴۰۷، ۴۰۶، ۳۱۰، ۳۰۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۷۳، ۷۲/۷	قریش مکہ پر عذاب نہ آنے کی وجوہ:
۷۲۷، ۷۲۰، ۷۱۹، ۶۹۳، ۴۹۵، ۳۹۱	۳/۳۲۳، ۳۲۵، ۵۱۳، ۵۱۶
ذنیوی مصائب کفار کے لئے کفارہ نہیں ہوتے:	کافروں کا حضور علیہ السلام کے ساتھ تعصب:
۸۲/۲	۵/۲۰۱، ۳۹۰، ۵۰۹، ۵۱۰
کفار سے دوستی کا نقصان:	دوزخ میں کافروں کی شیاطین سے بحث:
۵۸۰، ۱۵۹، ۱۲۳/۲	۵/۲۳۱

۵۸/۶، ۱۶۱، ۱۶۳، ۱۷۲، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۵۲

۵۳۸، ۶۳۹، ۶۴۱، ۶۵۰، ۶۵۲، ۶۶۳، ۶۹۱، ۷۲۳

۷۲۶، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۹

۷/۷، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۳۳، ۳۵۷، ۳۷۱، ۳۷۱

۳۹۳، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۶۵، ۵۸۰، ۵۸۹، ۵۹۷، ۶۲۱

۶۲۳، ۷۱۷، ۷۲۲، ۷۶۹، ۸۱۲

۱۹/۸، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۳۳، ۱۷۱، ۱۷۳، ۲۱۵، ۲۲۱

۲۳۵، ۲۶۲، ۲۹۳، ۵۳۲، ۷۳۶

کافروں کو دعوتِ ایمان:

۳/۳، ۲۲۷، ۲۳۱

۸/۸، ۱۸۳، ۱۸۳، ۵۱۸، ۵۲۱، ۷۹۵

کافروں کا جلد عذاب آنے کا مطالبہ اور اس کا جواب:

۳/۳، ۳۳۲

۸/۸، ۵۳۸، ۵۵۱، ۵۵۳

کافروں کے لئے دُنویٰ عذاب:

۶/۶، ۵۸، ۶۰

کافروں کے لئے برزخی عذاب:

۶/۶، ۱۵۹، ۱۶۰

اہم فوائد:

۶/۶، ۱۵۹

دُشمنانِ اسلام سے خطاب:

۶/۶، ۲۳۳

کافروں کے دو جرم اور ان کی سزا:

۶/۶، ۲۵۱، ۲۵۲

ہر دور کے کافروں کی گمراہی:

۶/۶، ۲۷۶

کافرانہ ذہنیت کی وضاحت:

۲/۲، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۶۰

۶/۶، ۶۷۸

کافروں کی تباہ شدہ بستیاں سامانِ عبرت ہیں:

۲/۲، ۱۸۵

کافروں پر رُعب ڈالنے کا خدائی وعدہ:

۲/۲، ۲۰۳

کافروں کے لئے دُنویٰ عیش و آرام کی حقیقت:

۲/۲، ۲۳۶، ۲۷۲

۳/۳، ۱۵، ۱۳۶

۵/۵، ۱۹۳، ۱۹۵، ۲۰۲

۶/۶، ۱۶۲، ۳۱۵

۷/۷، ۲۹۷، ۳۰۱، ۵۸۳، ۷۳۳، ۷۳۳

۸/۸، ۳۱

کافروں کی ایذا رسانی کا علاج:

۲/۲، ۲۵۵

کافروں کی قیامت کے دن حالتِ زار:

۲/۲، ۳۱۹، ۳۲۱، ۵۸۱

۳/۳، ۳۰۰، ۳۰۳

۳/۳، ۵۳۸، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۶۸

۵/۵، ۲۳۰، ۲۷۹، ۶۵۷، ۶۵۹

۶/۶، ۵۲، ۲۹۶، ۳۳۱، ۳۶۸

۷/۷، ۳۱۳، ۶۲۲

۸/۸، ۳۱

گزشتہ اُمتوں کے کافروں کی سرکشی و ہلاکت:

۳/۳، ۳۱۷، ۳۸۳، ۳۸۵، ۴۳۰، ۵۱۵، ۵۱۶

۳/۳، ۱۱، ۱۲، ۷۷، ۵۱۵، ۵۱۸، ۶۷۵، ۶۷۹

۵/۵، ۱۵۶، ۱۵۶، ۱۶۰، ۱۶۳، ۲۳۶، ۲۳۸، ۲۳۹

۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۶، ۳۵۷، ۳۵۸

کافروں کی تدبیر کی ناکامی:

۲۱۶/۸

حضور علیہ السلام کا کافروں سے اظہارِ براءت:

۸۳۳۴۸۳۱/۸

کفار کی اطاعت کرنے کی ممانعت:

(لفظ "اطاعت" کے تحت ملاحظہ فرمائیں)

کفارہ

قطعِ اعضاء کا کفارہ:

۱۵۶/۳

قسم توڑنے کا کفارہ:

۲۲۳۴۲۲۲/۳

حالتِ احرام میں جانور کو مارنے کا کفارہ:

۲۳۵۴۲۳۳/۳

کفارۃِ ظہار:

۳۳۷۴۳۳۳/۸

کفالتِ بالنفس

کفالتِ بالنفس کا جواز:

۱۰۶/۵

کلام

اللہ تعالیٰ کے انسانوں سے کلام کرنے کے طریقے:

۷۱۵۴۷۱۲/۷

الکلم الطیب

الکلم الطیب کی تفسیر:

۳۳۷۴۳۲۶۴۳۳/۷

ایک غیر متعین کافر قوم کی سرکشی و ہلاکت:

۴۷۵،۳۱۲،۳۱۱/۶

کافروں کی اطاعت کرنے کی ممانعت:

۷۶۳،۴۷۸/۶

کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ:

۷۶۳،۷۱۳۴۷۱۲،۶۵۳۴۶۳۹/۶

کافروں کی ایک مثال:

۷۶۰/۶

حضور علیہ السلام کو ضدی کافروں سے اعراض کرنے کا حکم:

۵۳۳،۵۲۵،۲۰۹،۱۸۶/۸

کافروں کے مسلمان ہونے کی پیش گوئی:

۴۰۵،۴۰۴/۸

ہر امت کے خوشحال لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے:

۷۲۲،۶۲۲،۲۹۷/۷

فرشتوں کا کافروں سے اظہارِ براءت:

۳۰۴/۷

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کافروں سے خطاب:

۴۸۹،۴۰۳،۴۰۰/۷

دنیا میں کافروں کو مہلت مل جاتی ہے:

۵۸۰،۴۰۱،۴۰۰/۷

کفار عرب کا ایک نبی کے آنے کا انتظار اور حضور علیہ

السلام کی تشریف آوری پر ان کا انکار:

۴۸۶/۷

کافروں کو تنبیہ:

۵۳۷۴۵۳۳،۵۲۶/۸

کافروں کے نامہ اعمال کی جگہ:

۶۹۱/۸

گ

گمان

لفظ ”ظن“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

گمراہی

رہنماؤں کی گمراہی کی ایک علامت:

۵۵۵/۶

(مزید تفصیل کے لئے ”ہدایت“ کا عنوان ملاحظہ فرمائیں)

گناہ

گناہوں کی ذنیبی و اخروی سزائیں:

۶۸۷، ۶۸۴، ۵۲۱، ۴۵۷، ۴۳۸، ۴۰۴، ۱۱۸/۱

۵۵۴، ۵۳۷، ۴۸۷، ۱۰۶/۲

۵۰۴، ۵۰۱، ۴۷۴، ۴۶۰، ۸۳، ۸۲/۳

۶۷۸، ۶۶۴، ۶۶۱، ۴۹۴، ۴۳۸، ۷۳/۴

۷۵۴، ۶۵۴، ۶۵۲، ۵۰۵، ۴۹۹/۶

۷۰۱، ۴۵۸، ۴۵۷، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۲۶، ۷۱/۷

۸۴۱، ۸۱۵، ۷۵۴، ۶۹۴، ۵۵۸، ۱۱۹، ۱۱۸/۸

فسق کا معنی:

۱۶۸/۱

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا:

۴۰۱/۱

۵۴۴، ۵۳۷، ۱۸۴/۴

۸۱۵، ۸۱۴، ۷۰۱، ۵۸۴، ۵۷۹، ۵۶۸/۷

۵۶۱، ۴۲۸/۸

چند اصول:

۶۹۷، ۶۹۴، ۴۵۱، ۴۰۷/۱

کلمہ سوم

کلمہ سوم کی فضیلت:

۵۷۲/۷

کہف

کہف کا مطلب:

۵۵۰/۵

سورۃ کہف

سورۃ کی خصوصیات و فضائل:

۶۶۳، ۵۴۶/۵

کھیل

لفظ ”لہو و لعب“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

کوثر

لفظ ”کوثر“ کی تشریح:

۷۳۰، ۷۲۷/۸



گناہوں کی حرمت:	۵۲۳، ۴۲۹، ۳۴۴، ۲۸۳، ۲۵۴، ۲۱۰، ۱۴۸/۲
۵۵۲، ۵۴۹/۳	۵۱۰، ۵۰۷، ۵۰۴، ۴۲۱، ۳۳۹/۳
گناہوں کی کثرت کا نتیجہ:	۵۲۵/۴
۱۸/۴	۳۳۲، ۳۳۰، ۱۰۵، ۱۰۴، ۶۳، ۵۵/۵
گناہوں کا وبال دوسروں پر پڑنے کی صورت:	۶۷۹، ۶۶۸، ۶۳۷، ۲۷/۶
۲۱۲/۳	۷۰۱، ۷۰۰، ۵۶۰/۷
گناہ سے بچنے کی فضیلت:	۴۷۰/۸
۱۳۶، ۱۳۴/۵	گناہ کی معافی کے لئے ضروری امور:
چند فائدے:	۳۸۳، ۳۴۵، ۹۱/۲
۷۵۷، ۶۶۷، ۲۷/۶	۳۳۰/۳
۶۹۶، ۶۹۵، ۲۱۰/۸	کیا قصد و ارادہ سے کیا ہوا گناہ معاف نہیں ہوتا:
مؤمن کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں:	۳۳۲/۲
۷۰۴، ۷۰۳/۷	گناہ کی تعریف و اقسام:
۲۱۱، ۲۱۰/۸	۳۸۷۵۳۸۲/۲
	گناہوں پر باہمی تعاون کی ممانعت:
	۲۳، ۱۷/۳
	گناہوں سے اظہارِ نفرت نہ کرنے پر وعید:
	۱۸۸/۳
	گناہوں کی روک تھام کے متعلق حضرت صدیق اکبرؓ
	کا خطبہ:
	۲۵۱/۳
	گناہوں سے بچنے کا اکسیر نسخہ:
	۳۴۴/۳
	۶۳۲/۳
	۴۵/۵
	۱۳۷/۸
	گناہ چھوڑنے کا حکم:
	۴۳۳، ۴۳۳/۳



لغو

لغو کے کہتے ہیں:

۵۳۵/۲

حضرت لقمان علیہ السلام

حضرت لقمان کے نصائح:

۳۵۵۳۱/۷

لقیط و لقطہ

شرعی احکام:

۳۱/۵

لواطت

غیر فطری طریقہ سے قضاءِ شہوت کی قباحت:

۳۳۸/۲

عورتوں کے ساتھ غیر فطری فعل کی وعید:

۳۳۰/۲

لوح محفوظ

زمین و آسمان کی ہر چیز کا لوح محفوظ میں اندراج ہے:

۳۳۹،۳۳۳/۳

۵۸۸،۵۲۵،۵۳۱/۲

۵۹۹،۲۸۲/۶

۲۵۳،۲۵۲/۷

لوح محفوظ کو کتابِ مبین کہنے کی وجہ:

۳۳۹/۳

تسخیر و منسوخ احکام کا لوح محفوظ میں اندراج:

۲۱۳،۲۱۱/۵

ہر شخص کی زندگی اور موت کی تفصیلات کا لوح محفوظ

میں اندراج:

۲۱۵/۵

ل

لباس

لباس کے متعلق شرعی احکام:

۵۵۰،۵۴۴،۵۴۳،۵۳۶۵۵۳۲/۳

لطیف

لطیف کا معنی:

۶۸۵/۷

لعان

لعان کے متعلق احکام و مسائل:

۳۶۱۵۳۵۶/۶

لعنت

کسی پر لعنت کرنے کی شرط:

۴۰۵/۱

لعنت کا وبال:

۴۳۲/۲

لعنت کے مستحق لوگ:

۴۳۳/۲

۵۰۳/۳

۱۹۵/۵

چند احکام:

۴۳۷،۴۳۶/۲

۴۳/۸

یزید پر لعنت کرنے کی بحث:

۴۳/۸

۵۰۳/۳	لوہ محفوظ میں درج بعض امور:
۳۵۶،۳۵۵،۱۷۰،۱۶۶/۵	۳۲۷،۳۲۵،۳۲۳،۸۶/۷
۳۸۳،۳۳۲،۳۲۶،۱۸۰/۶	قرآن مجید لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے:
۷۷۶،۶۵۳،۵۳۵،۳۸۲،۳۲۵،۳۵/۷	۲۸۵،۲۸۳/۸
۶۶۳،۲۹۲،۲۹۱/۸	لوگوں پر آنے والی انفرادی و اجتماعی مصیبتیں پہلے سے
رات اور دن کے متعلقہ مسائل و احکام:	لوہ محفوظ میں درج ہیں:
۳۵۶۳۳۵۲/۱	۳۱۸،۳۱۷/۸
۶۷۷،۶۷۶،۶۷۳/۳	(مزید تفصیل کے لئے "تقدیر" کا عنوان ملاحظہ فرمائیں)
۵۱۶۳۵۱۳/۵	حضرت لوط علیہ السلام
۱۶۲،۱۶۱/۶	حضرت لوط علیہ السلام کا مکمل واقعہ:
۶۳۳،۵۹۷،۵۹۰،۵۸۹،۵۸۷،۵۸۶،۱۳۹/۸	۶۱۹۳،۶۱۴،۳۲۰/۳
اختلاف لیل و نہار کی مختلف صورتیں:	۶۵۵۳،۶۵۱/۴
۲۶۲/۲	۳۰۶،۳۰۵/۵
رات کے وقت ارواح کی توفی:	۶۹۲۳،۶۸۵،۵۹۲،۵۳۱،۲۰۳،۱۹۵/۶
۳۵۰،۳۳۳/۳	۳۷۶،۳۷۵/۷
رات کے بنانے کا مقصد:	۵۳۲،۳۳۳،۳۳۳،۳۲۱،۳۱۵،۱۶۸،۱۶۵/۸
۳۰۲،۳۰۱،۳۹۸/۳	لہو و لعب
۵۵۳/۴	لہو و لعب کے شرعی احکام:
۳۳۵،۳۳۳،۲۵۱/۵	۲۷۳۲۰/۷
۶۵۷،۳۸۱،۳۸۳،۳۷۸/۶	لیل و نہار
۶۱۳/۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر چالیس دن عبادت:
۶۵۳،۶۵۱/۸	۲۲۵/۱
ذی الحجہ کی دس راتوں کی فضیلت:	۵۶،۵۵/۴
۷۳۹،۷۳۵/۸	رات اور دن کے اختلاف کی حکمتیں:
لیلة القدر	۳۰۶/۱
لیلة القدر کے فضائل:	۲۶۰،۲۵۹،۳۶،۳۳/۲
۷۵۷۳۷۵۵/۷	۵۷۱/۳
۷۹۳۳۷۹۱/۸	



المائدہ

کس چیز سے مال کم اور زیادہ ہوتا ہے:  
 ۶۵۰،۶۳۵/۱  
 کافروں کو آخرت میں مال کام نہ دے گا:  
 ۱۵۳،۲۳/۲  
 مال کے متعلق احکام و مسائل:  
 ۵۰۹،۴۱۶،۴۰۸،۳۷۸،۳۷۷،۳۰۶،۳۰۱،۲۸۲/۲  
 ۴۷۱،۱۳۱/۳  
 ۵۷۲،۴۷۹،۱۱۸،۱۰۶/۵  
 ۴۱۴،۴۱۳/۶  
 مال و دولت میں تقاض کی حکمت:  
 ۵۱۱،۵۰۷/۳  
 مال و دولت آزمائش کا باعث ہیں:  
 ۲۱۱/۴  
 مال کو ایمانی تقاضوں پر فوقیت دینے کی سزا:  
 ۳۳۹/۴  
 مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم:  
 ۳۷۶/۴  
 کافروں کے مال و اولاد کی زیادتی بطور استدراج ہے:  
 ۴۳۸،۳۹۰/۴  
 ۳۱۵/۶  
 مال کی تطہیر کا ایک اہم ذریعہ:  
 ۴۵۷،۴۵۲/۴  
 مال و اولاد، دنیا کی رونق ہے:  
 ۵۹۴/۵  
 قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہ آئے گی:  
 ۵۲۸/۶  
 مال کے کم اور زیادہ ہونے کے اسباب:  
 ۷۵۰،۷۴۳/۶

سورۃ کا دوسرا نام:

۱۰/۳

سورۃ کے مضامین:

۱۰/۳

مال

مال و جان کی کمی کے ساتھ لوگوں کی آزمائش:

۳۹۶/۱

۲۵۶،۲۵۲/۲

اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت:

۶۴۳،۶۳۹،۶۲۸،۴۳۲،۴۳۰/۱

۵۱۸/۲

۴۶۶،۴۳۳،۲۹۶،۲۹۲/۴

مالِ حلال کی برکات اور حرام کی نحوست:

۴۶۱/۱

باطل طریقوں سے دوسروں کا مال کھانے کی ممانعت:

۴۵۷/۱

۳۷۷،۳۱۳،۳۰۵/۲

۲۸۷،۲۷۸/۳

۳۶۷،۳۶۳/۴

انفاق فی سبیل اللہ کے ثواب کو ضائع کرنے والے کام:

۶۳۳،۶۳۲،۶۲۸/۱

اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کی مثال:

۶۳۳،۶۳۱،۶۲۹/۱



تشابہات کے متعلق مومنوں اور گمراہوں کا مختلف رویہ:

۲۰،۱۹/۲

البقرہ: ۲۱۰ کا مضمون تشابہات میں سے ہے:

۵۰۰/۱

متعہ

متعہ کا لغوی و اصطلاحی معنی:

۳۶۶/۲

متعہ کا عدم جواز:

۳۶۸۵۳۶۶/۲

مجمع البحرین

مجمع البحرین سے کیا مراد ہے:

۶۰۶/۵

محاسبہ

قیامت کے دن اعمال کا محاسبہ ہوگا:

۶۹۰،۶۸۹/۱

محاسبہ میں ایک رعایت:

۶۹۱/۱

اعمال کا محاسبہ:

۱۹۰/۲

قیامت کے دن حساب کی کیفیت:

۶۰۷،۱۹۰،۱۸۹،۱۸۷/۶

اپنے نفس کا محاسبہ:

۵۷۰/۶

کافروں کا آخری محاسبہ:

۶۵۲،۳۹۳،۳۹۳/۸

قیامت کے دن آسان حساب کے مراتب:

۷۰۵،۷۰۱/۸

مال و اولاد، اللہ تعالیٰ کا مقرب ہونے کی علت نہیں:

۷۳۲،۳۰۰،۲۹۸/۷

مال کی حرص اور آخرت کو بھولنے کی مذمت:

۸۱۶،۵۰۹/۸

مال کے مذموم ہونے کا مطلب:

۸۰۵،۸۰۲،۷۳۳/۸

مالِ غنیمت

مالِ غنیمت کے احکام:

۲۳۳،۲۳۲/۲

۲۸۸۵۲۸۰،۲۳۳۵۲۳۷،۱۷۵،۱۷۲/۲

۳۶۶،۳۶۳/۸

ماء

پانی سے ہر چیز کی تخلیق:

۱۸۱/۶

مباہلہ

مباہلہ کی تعریف:

۸۵/۲

واقعہ مباہلہ و ردِّ رفس:

۸۵/۲

متبقی

منہ بولے بیٹے کا حکم:

۸۲،۸۲/۷

تشابہات

تشابہات کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے:

۱۹/۲

انسان کی مال و زر سے محبت:

۸۰۴، ۸۰۳، ۷۳۳، ۷۳۷/۸

(مزید تفصیل ”اللہ جل شانہ“ کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں)

محشر

میدان محشر کے حالات و کیفیات:

۴۷۹، ۴۶۳/۱

۶۲۴، ۴۲۶، ۲۱۳/۲

۴۵۲، ۴۴۹، ۴۳۶، ۴۲۰، ۴۲۴، ۴۱۵، ۲۹۸، ۲۳۳/۳

۶۶۸، ۶۶۷، ۵۳۷، ۵۳۰، ۵۲۷، ۲۲۶/۴

۴۹۴، ۴۸۶، ۴۸۵، ۴۴۱، ۴۱۳، ۲۷۵ تا ۲۶۹/۵

۵۹۶، ۵۹۴، ۵۳۵

۴۳۶ تا ۲۳۲، ۱۵۹، ۱۵۳، ۱۴۸، ۵۶، ۵۵، ۴۹، ۴۸/۶

۷۶۷، ۴۶۳، ۶۰۷، ۴۳۵، ۴۳۴

۵۵۷، ۵۵۶، ۵۴۴، ۵۴۳، ۵۴۲، ۴۰۵، ۴۰۴/۷

۶۸۶، ۶۷۹، ۶۴۶ تا ۶۴۳، ۵۹۷، ۵۷۵، ۵۷۴

۷۸۹

۵۲۶، ۴۱۰ تا ۴۰۸، ۴۰۴، ۴۰۳، ۲۶۹/۸

سید الاولیٰ والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم

حضور علیہ السلام کی صفت انذار:

۳۰۵، ۱۱۷/۱

آپ پر نزول وحی کے طریقے:

۲۳/۱

آپ کی نبوت کا اثبات:

۶۰۷، ۱۴۳ تا ۱۴۰، ۶۵/۱

۶۲۵، ۶۱۳ تا ۶۰۹، ۶۵/۲

۴۹۵، ۴۸۱، ۴۸۰/۳

آسان اور سخت حساب کن کا ہوگا:

۷۰۵، ۷۰۲/۸

(مزید تفصیل کے لئے ”اعمال“، ”قیامت“، ”کفار“ اور ”مؤمنین“ کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں)

محبت

شرک سے محبت کرنے کی قباحت:

۴۰۹، ۴۰۸/۱

اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ لوگ:

۶۳۵، ۴۹۶، ۴۶۶/۱

۵۹۱، ۵۳۷، ۴۰۸، ۱۹۲، ۱۸۴، ۹۴، ۸۴، ۵۴/۲

۵۳۸، ۴۶۶، ۲۱۹/۳

۴۱۶، ۲۶۵/۴

۴۲۸، ۴۴۰/۵

۷۵۲، ۶۶۲/۶

۷۰۴، ۴۴/۷

۴۱۸/۸

لوگوں کی پسندیدہ اشیاء:

۴۱۶ تا ۲۷/۲

حسب الہی کا معیار:

۵۴/۲

اللہ کے راستہ میں پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کی ترغیب:

۱۰۷/۲

اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ:

۵۴۳، ۴۷۳، ۴۷۲/۱

۲۱۵، ۴۰۰/۲

۵۷۶، ۱۹۰، ۱۴۴، ۱۳۴، ۸۱/۳

۴۶۰، ۴۰۵/۴

۴۲۱، ۴۰۴، ۱۱۰/۸

۲۸۶، ۲۵۱، ۲۳۵، ۵۵/۲  
 ۵۱۵، ۴۱۹، ۴۱۸/۳  
 ۵۶۸، ۱۴۲/۴  
 ۶۲۸، ۵۴۳، ۵۳۱، ۵۱۰، ۵۰۹، ۴۹۰، ۴۱۶، ۲۱۰/۵  
 ۲۶۵، ۲۵۹، ۲۴۲، ۲۲۲، ۱۸۵، ۱۸۳، ۱۶۹، ۱۶۸/۶  
 ۵۵۲، ۵۴۹، ۴۲۵، ۴۶۹  
 ۴۵۶، ۴۵۴، ۱۹۶، ۱۹۳، ۱۶۱، ۱۶۰، ۸۷، ۸۵/۷  
 ۶۸۹، ۶۸۸، ۶۲۷، ۴۹۴، ۴۹۲، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۰۶  
 ۷۵۳، ۷۵۱  
 ۵۵۴، ۵۴۹، ۵۴۳، ۵۳۱، ۵۳۰، ۵۲۴، ۴۰۹/۸  
 ۸۴۰، ۷۹۷، ۷۴۰، ۶۸۴، ۶۸۰، ۶۷۱، ۵۷۴، ۵۷۲  
 کافروں کی ایذا دہی پر حضور علیہ السلام کی تسلی و تسفی:  
 ۴۰۵، ۴۰۱/۱  
 ۲۸۶، ۲۵۱، ۲۳۵، ۵۵/۲  
 ۲۸۶، ۲۸۳، ۲۴۱، ۲۳۵، ۱۹۹، ۱۹۳، ۱۵۸، ۱۴۲/۳  
 ۵۱۶، ۴۴۱، ۴۱۴، ۴۹۱، ۴۸۹، ۴۸۶، ۴۱۴  
 ۶۷۶، ۶۶۸، ۵۹۹، ۵۸۰، ۵۵۲، ۵۴۵، ۵۳۲، ۴۰/۴  
 ۴۱۴، ۴۱۲، ۴۱۰، ۴۱۶، ۴۱۱، ۴۰۷، ۱۶۳، ۱۵۵/۵  
 ۶۰۰، ۵۴۸، ۵۴۰، ۴۳۴، ۴۳۶  
 ۴۷۶، ۴۷۴، ۴۷۲، ۱۸۷، ۱۶۱، ۶۳، ۶۳، ۵۵، ۴۸/۶  
 ۵۱۳، ۵۱۱، ۴۸۰، ۴۷۵، ۴۶۹، ۴۶۴، ۴۴۱، ۴۱۹  
 ۶۶۹، ۶۰۲، ۶۰۰، ۵۹۸، ۵۵۸  
 ۴۳۱، ۴۲۴، ۴۲۱، ۴۲۰، ۱۷۲، ۱۷۱، ۷۳، ۷۲، ۴۴/۷  
 ۵۴۶، ۵۴۵، ۵۴۴، ۴۸۶، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۶، ۴۳۳  
 ۶۷۱، ۶۵۸، ۶۳۶، ۶۰۷، ۵۶۴، ۵۵۹، ۵۵۸  
 ۸۱۶، ۷۸۲، ۷۵۴، ۷۳۷، ۷۳۶، ۷۱۷، ۶۵۸، ۶۷۶  
 ۵۴۹، ۵۲۹، ۵۲۸، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۵۲، ۱۴۹/۸  
 ۷۳۳، ۷۳۰، ۷۱۶، ۵۸۷، ۵۴۸

۶۴۴، ۶۳۴، ۶۳۰، ۶۲۹، ۴۹۸، ۱۶۱/۴  
 ۵۱۲، ۵۰۹، ۴۱۴، ۲۱۰، ۱۵۵، ۱۵۳، ۲۹، ۲۶/۵  
 ۵۳۵، ۵۳۴  
 ۶۴۴، ۶۳۰، ۶۳۹، ۵۵۴، ۵۴۹، ۱۶۲، ۱۴۲/۶  
 ۶۹۴، ۵۴۱، ۵۲۹، ۴۹۲، ۴۹۱، ۴۶۰، ۵۰۹، ۵۷۷/۷  
 ۷۹۵، ۷۷۶  
 ۵۴۴، ۴۴۱، ۱۹۲، ۱۸۹، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۶۹، ۱۴۲، ۱۴۱/۸  
 ۵۴۸، ۵۴۷  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان:  
 ۴۵۶، ۴۴۱، ۴۶۱، ۱۸۵، ۱۸۳، ۱۷۲، ۱۷۱/۱  
 ۴۳۴، ۴۳۰، ۴۲۹، ۱۷۷، ۱۶۴، ۱۱۹، ۱۰۰، ۵۵، ۴۴/۲  
 ۵۴۷، ۴۸۶، ۴۶۴، ۴۶۰، ۴۵۹، ۴۹۱، ۴۴۱، ۴۳۴  
 ۶۱۴، ۵۴۴، ۵۴۲، ۵۴۸  
 ۵۱۰، ۵۰۸، ۵۰۷، ۴۹۷، ۴۹۵، ۴۹۲، ۷۵، ۷۴/۳  
 ۶۷۶، ۵۴۰، ۵۱۹، ۴۸۵، ۴۴۵، ۴۳۴، ۱۵۳، ۹۱، ۷۸/۴  
 ۴۳۷، ۴۱۷، ۴۱۵، ۴۸۶، ۴۰۷، ۴۴۴، ۴۱۹/۵  
 ۵۱۸، ۵۱۰  
 ۴۱۸، ۴۰۷، ۴۴۴، ۴۴۴، ۴۹۱، ۴۸۸، ۴۴۴، ۱۰۱/۶  
 ۵۴۴، ۴۵۸، ۴۵۷، ۴۴۴  
 ۱۷۲، ۱۷۰، ۱۵۸، ۱۰۷، ۱۰۴، ۸۶، ۸۵، ۷۹/۷  
 ۵۵۸، ۴۹۴، ۴۹۳، ۴۴۱، ۱۹۶، ۱۸۳، ۱۷۸، ۱۷۶  
 ۷۳۶، ۶۷۷، ۶۴۵، ۵۵۹  
 ۵۲۵، ۴۳۴، ۴۲۶، ۱۹۲، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۰۱، ۹۱، ۸۸/۸  
 ۷۲۷، ۷۲۳، ۶۱۱، ۶۰۹، ۵۸۸، ۵۸۵، ۵۴۱  
 ۸۳۰، ۷۸۴، ۷۲۵، ۸۳۱، ۷۸۷، ۷۷۷، ۷۶۹  
 کافروں کا حضور علیہ السلام کے ساتھ رویہ:  
 ۴۰۶، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۶۰، ۴۵۹/۱

حضور علیہ السلام سے خدائی صفات کی نفی:	حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد:
۳۲۹۴۳۲۶، ۳۲۲/۳	۳۳۱، ۳۳۵، ۳۳۱/۱
۵۳۸، ۱۲۷/۲	۶۳۰، ۳۸۰/۶
۵۷۳/۸	۷۹۷۷۷۹۵، ۶۰۳، ۳۳۳، ۳۳۲، ۱۳۱، ۷۱، ۷۰/۸
حضور علیہ السلام پر آؤ لیں ایمان لانے والے:	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کو ہدایات:
۳۳۳/۳	۳۵۵/۱
حضور علیہ السلام کا فریضہ تبلیغ:	۳۱۹، ۳۳۵، ۳۳۲/۳
۳۱۴، ۳۱۳، ۳۸۹/۳	۸۸/۳
۵۸۵، ۲۱۸/۵	۳۵۵۷۳۵۲/۶
۵۳۹، ۳۳۰، ۳۳۳، ۳۳۰، ۳۲۹/۶	۶۹۶، ۶۹۱، ۸۷، ۸۵/۷
۷۸۲، ۷۷۳، ۶۷۱، ۳۱۲، ۳۰۸/۷	۳۷۱، ۳۷۰، ۳۶۵، ۳۳۵، ۳۳۱، ۱۰۳، ۹۸/۸
، ۶۱۰، ۶۰۳، ۵۹۳، ۵۷۳، ۵۳۳، ۵۲۵، ۱۸۳/۸	آپؐ کا اپنی وحی پر ایمان:
۷۸۱، ۸۵۳، ۸۳۳، ۵۸۳، ۶۳۳	۶۹۳/۱
حضور علیہ السلام کے لئے خصوصی احکام:	حضور علیہ السلام کی قیامت کے دن گواہی:
۵۸۱، ۳۳۱/۳	۳۹۶، ۳۹۵، ۳۲۰، ۳۱۹/۳
۶۶۹، ۵۸۳، ۱۶۰/۳	۵۹۳، ۵۸۷/۸
۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۳، ۳۱۲، ۲۰۸/۵	حضور علیہ السلام کے اخلاق عالیہ و کمالاتِ حسنا:
۶۱۳، ۶۱۲/۶	۳۲۰/۲
، ۶۲۵، ۶۰۸، ۵۷۲، ۵۳۵، ۸۱، ۸۰، ۷۸، ۷۷/۷	۳۷۲، ۸۶/۳
۶۸۲، ۶۸۰، ۶۷۶	۵۸۵، ۳۳۵، ۳۰۹، ۱۵۶/۴
، ۷۶۸، ۷۶۷، ۶۱۴، ۶۱۰، ۶۰۳، ۵۵۳، ۳۳۵/۸	۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۱/۵
۸۳۷، ۵۸۳	۵۲۶/۶
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ:	۵۳۲، ۵۲۵، ۱۹۳، ۱۳۳، ۱۸۹، ۷۱، ۷۰، ۶۶/۸
۵۰۷، ۳۸۰/۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کی شرط:
حضور علیہ السلام کی چند سنتیں:	۳۶۹/۲
۵۵۰/۳	حضور علیہ السلام کی ایک نصیحت:
	۱۹۳/۳

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے اظہارِ براءت: ۵۶۸، ۵۳۵/۴  
 کرنے کا حکم: ۷۶۴، ۴۶۴، ۱۶۳، ۱۶۱/۶
- حضور علیہ السلام کے منکرین کا انجام: ۶۰۵/۴
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ایذا پر صبر ۸۱۶، ۷۵۳، ۶۵۷، ۶۲۰، ۶۱۸، ۶۰۷، ۴۹۶، ۴۹۵/۷
- حضور علیہ السلام کا ایک واقعہ: ۶۱۲، ۶۰۴، ۵۹۵، ۵۸۷، ۵۵۱، ۵۲۹، ۱۳۹/۸
- حضور علیہ السلام کی ایک بددعا اور اس کی قبولیت: ۱۶۲/۵
- آپ سے فتح مکہ کا وعدہ: ۷۶۰، ۷۵۹/۷
- حضور علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی: ۲۰۵/۵
- حضور علیہ السلام کی ذمہ داری: ۸۱۶/۷
- حضور علیہ السلام کی اطاعت کا نتیجہ: ۵۸۵، ۴۹۶، ۳۵۸/۵
- حضور علیہ السلام کو ایک تنبیہ: ۶۹، ۶۸/۸
- حضور علیہ السلام کو تسبیح و تہلیل کا حکم: ۵۸۲/۵
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان: ۷۶۱، ۵۳۲/۵
- ایک نکتہ: ۱۹۴/۸
- حضور علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم: ۷۶۴، ۴۶۴، ۱۶۳، ۱۶۱/۶
- حضور علیہ السلام کے اپنی امت کے لئے دو تحفے: ۲۵۳/۸
- حضور علیہ السلام پر ایمان لانے میں پانچ ممکنہ رکاوٹیں اور ان کا رد: ۷۶۴، ۴۶۴، ۱۶۳، ۱۶۱/۶
- حضور علیہ السلام کا اپنے اوپر شہد کو حرام کرنے کا واقعہ: ۵۰۱، ۳۹۷/۸
- حضور علیہ السلام پر ایمان لانے میں پانچ ممکنہ رکاوٹیں اور ان کا رد: ۳۲۳/۶
- زول وحی کے وقت حضور علیہ السلام کی کیفیت: ۵۸۷/۸
- بعض اہل کتاب کا حضور علیہ السلام پر ایمان لانا: ۶۴۴/۶
- حضور علیہ السلام کی حقانیت کے متعلق ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کا مکالمہ: ۶۱۳/۸
- اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام سے ایک وعدہ: ۶۷۰، ۶۶۹/۶
- تبلیغ کے متعلق حضور علیہ السلام کو ایک تنبیہ: ۶۷۵، ۶۷۰/۸
- حضور علیہ السلام کا حضرت زینب بنت جحش سے نکاح: ۱۵۸، ۱۳۶/۷
- حضور علیہ السلام پر ابتدائی وحی کے نزول کا مفصل واقعہ: ۳۲۴، ۲۳۹، ۲۲۹، ۲۲۶/۷
- حضور علیہ السلام کو ایذا دینے کا وبال: ۷۸۴، ۷۷۷، ۷۷۸/۸

مستحبات	ابو جہل کی حضور علیہ السلام سے بدتمیزی اور اس کو سرزنش:
مستحبات کن سورتوں کو کہتے ہیں:	۷۸۱، ۷۸۰/۸
۴۳۳/۸	حضور علیہ السلام کو کتابت کی تعلیم نہ دینے کا راز:
مسجد	۷۸۶/۸
مساجد کے متعلق احکام و مسائل:	مرتد
۳۲۳، ۲۹۹، ۲۹۶/۱	”ارتداد“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں۔
۵۴۳، ۵۴۲، ۵۳۸/۳	مروہ
۴۶۵، ۴۵۴، ۴۵۳، ۴۵۰، ۴۳۶/۴	”صفا“ کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیں۔
۵۷۷/۵	حضرت مریمؑ
۴۲۹، ۴۲۵، ۴۲۰/۶	حضرت مریم علیہا السلام کے اہم واقعات:
۲۶۸/۷	۶۰۰، ۵۹۸، ۶۹، ۶۸، ۶۶، ۵۸، ۵۷، ۵۶/۲
۵۸۱/۸	۲۷۵، ۲۲۲/۶
مسجد الحرام	آپ کی فضیلت:
مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم:	۶۳/۲
۳۸۷، ۳۷۹/۱	۳۱۳، ۲۲۵، ۲۰/۶
تحویلِ قبلہ کی حکمتیں:	مسابقت الی اللہ
۳۸۷، ۳۸۱، ۳۸۰/۱	مسابقت الی اللہ کی تفسیر:
مسجد الحرام کے پاس لڑنے کی مشروط اجازت:	۳۱۶/۸
۴۷۱، ۴۷۰، ۴۶۶/۱	مساوات
مسجد الحرام میں آنے سے نہ روکنے کا حکم:	مساوات کے متعلق اسلامی ہدایات:
۱۹، ۷/۳	۳۸۹/۱
مسجد الحرام سے روکنے کی سزا:	۲۹۲، ۲۸۷/۲
۲۲۶/۴	۳۳۶/۳
مسجد الحرام کے متوقی کون ہو سکتے ہیں:	۴۶۶، ۴۵۴، ۱۰۸/۶
۲۲۷، ۲۲۶/۴	۷۲۹، ۲۳۲، ۱۰۳/۷
حضور علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر:	۱۲۵، ۱۲۴/۸
۴۴۰، ۴۳۷/۵	

۷۴۴، ۳۶۹/۶	مسجد حرام کی فضیلت:
۷۴۴، ۷۴۶، ۷۴۵، ۶۰۸، ۵۴۴، ۳۶۵، ۳۳۲/۸	۳۳۳/۵
۷۴۴	مسلمانوں کے مسجد الحرام میں داخلہ کا خدائی وعدہ:
مسکین کی تعریف:	۹۰۴۸۸/۸
۶۲۰/۵	<b>مسجد اقصیٰ</b>
<b>مسلمان</b>	مسجد اقصیٰ کی فضیلت:
مسلمان ہونے کا اخروی صلہ:	۳۳۳/۵
۲۹۰/۱	مسجد اقصیٰ کی برکات:
صرف نسلی مسلمان ہونا کافی نہیں:	۳۳۳/۵
۲۹۲/۱	مسجد اقصیٰ کی تعمیر و تخریب:
مسلمانوں کے زوال کی دو وجوہ:	۳۵۰۴۳۴۵/۵
۲۹۵۴۲۹۳/۱	<b>مسجد ضرار</b>
مسلمانوں کو ناقابلِ تخییر بنانے کے دو اہم اصول:	مسجد ضرار بنانے کے اغراض و مقاصد:
۱۳۶۴۱۲۵/۲	۳۵۹/۴
مسلمانوں کی قومی و اجتماعی فلاح کا راز:	مسجد ضرار کو گرانے کا حکم:
۱۶۱، ۱۳۶/۲	۳۶۳، ۳۶۰/۴
مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ:	مسجد ضرار کی تاریخ:
۱۵۹/۲	۳۶۱، ۳۶۰/۴
مسلمانوں کو چار چیزوں کی وصیت:	ریاکاری اور ضد و عناد کی وجہ سے مسجد بنانے کا حکم:
۲۷۳/۲	۳۶۳/۴
مسلمان ہونے کے لئے موقوف علیہ امور:	<b>مسکین</b>
۵۱۹/۲	مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم:
مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام:	۵۱۳، ۴۳۳، ۴۳۲، ۲۵۳/۱
۷۳/۳	۳۰۸، ۴۰۷، ۳۰۸/۲
مسلمانوں کی بربادی کا ایک بڑا سبب:	۲۲۳، ۲۲۲/۳
۱۳۹/۳	۳۹۶، ۳۹۴، ۲۳۶/۴
مسلمانوں کی ملتی وحدت کے بنیادی اصول:	۶۲۰، ۴۶۹/۵
۱۶۷/۳	

مخلص اور غیر مخلص مسلمانوں میں امتیاز کرنے کا خدائی طریق:	سچے مسلمانوں کی تین صفات:
۶۷۳/۶	۱۷۸/۳
مسلمانوں کو تسلی:	بعض نو مسلموں کی ایمانی کیفیت اور اس کی جزا:
۶۷۳/۶	۲۱۵/۳
مسلمان ہونے کا صلہ:	مسلمانوں کو زیادار مالداروں کی ریس نہ کرنے کا حکم:
۴۳/۷	۴۴۲/۳
مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ:	مسلمانوں کے لئے ایک عبرت:
۲۹/۸	۴۶۲/۳
اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں پر خصوصی انعامات:	مسلمانوں کو دین کی کھلم تا بعداری کا حکم:
۶۹، ۶۸/۸	۲۰۶/۴
مسلمان ہونا، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے:	مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات:
۱۲۸، ۱۲۷/۸	۲۱۶ تا ۲۱۳، ۲۱۱/۴
گنہگار مسلمانوں کو تنبیہ:	مسلمانوں کے اتفاق کی حقیقی بنیاد:
۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۵/۸	۲۷۸/۴
مسلمانوں کے اموال پر کفار کے قبضہ کا حکم:	اسلامی برادری میں داخل ہونے کی تین شرطیں:
۳۷۲/۸	۳۲۰، ۳۱۴/۴
قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ایک فضیلت:	مخلص مسلمان کی دو علامتیں:
۴۳۵/۸	۳۲۷/۴
بعض جنات کا مسلمان ہونا:	طے طے جملے اعمال والے مسلمانوں کا حکم:
۵۷۹ تا ۵۷۴، ۵۷۲/۸	۴۵۵/۴
مشورہ	آج کل کے مسلمانوں پر اظہارِ تأسف:
مشورہ کی اہمیت:	کافروں والی وعیدوں کا مصداق بننے والے مسلمان کون ہیں:
۱۷۸/۱	۲۲۳، ۲۲۱/۵
حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا حکم:	مسلمانوں کے لئے درسِ عبرت:
۲۲۱، ۲۱۸/۲	۲۵۱، ۲۵۰/۵
مشورہ کی شرعی حیثیت:	کیا لفظ "مسلمین" امت محمدیہ کا مخصوص لقب ہے:
۲۱۹/۲	۶۳۵/۶



مشورہ کن کاموں میں جائز اور کن کاموں میں ناجائز ہے: انسان پر مصائب آنے کی وجہ:	۵۳۵، ۵۳۳، ۲۲۰/۲
۷۰۱/۷	
معارف القرآن	حکومت اسلامی میں مشورہ کا درجہ:
تصنیف کے آداب:	۲۲۲/۲
۶۳/۱	بصورت اختلاف فیصلہ کرنے کا طریق:
خصوصیات و التزامات:	۲۲۵/۲
۶۸/۱	مشورہ کے بعد کیا کرنا چاہئے:
۳/۲	۲۲۶/۲
معجزہ	یا ہی مشوروں کے آداب:
معجزہ کی حقیقت:	۵۳۵/۲
۱۶۱، ۱۰۰/۱	اہم امور میں مشورہ کرنے کی اہمیت:
۳۱، ۲۵/۳	۵۷۹/۶
۵۸۵/۶	۷۰۶/۷
۶۹۳/۷	مملکت کے اہم امور میں مشورہ کرنے کا وجوب:
معجزہ دکھانا انبیاء کرام کے اختیار میں نہیں:	۷۰۵/۷
۱۰۱/۱	مشورہ کے متعلق اہم ہدایات:
۲۱۳/۵	۳۳۷، ۳۳۲/۸
منکرین معجزہ کو تنبیہ:	مصائب
۲۳۳/۱	ذنیوی مصیبتوں کا فائدہ:
موسیٰ علیہ السلام کے معجزات:	۵۵۳/۲
۲۳۶، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۲۹، ۲۲۷/۱	۳۵۱/۵
۳۳۸، ۳۳۳، ۱۰۵، ۲۸، ۲۷، ۲۳، ۲۲/۳	۷۰/۷
۶۳۳، ۶۳۳، ۵۶۰، ۵۵۹، ۵۲۵، ۱۲۲، ۱۲۱، ۷۳/۶	
۷۶۶/۷	مصائب سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ:
حضرت حزقیل علیہ السلام کا معجزہ:	۳۵۳/۳
۵۹۳/۱	۵۳، ۴۱/۳
ایک معجزہ کا اجمالی تذکرہ:	۱۰۶/۷
۶۰۵/۱	۳۸۸/۸

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات:	دوبارہ زندہ ہونے کے تین واقعات:
۵۶۵/۳	۶۲۴ تا ۶۲۰/۱
۲۰۲، ۲۰۱، ۱۹۵/۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات:
۱۶۵/۷	۱۷۲، ۱۶۲، ۲۵/۲
حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ:	۳۷۵، ۱۸۹/۳
۶۲۸ تا ۶۱۸/۳	۴۲۳ تا ۴۳۷، ۲۰۳/۵
حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ:	۴۲۶، ۲۲۵، ۲۲۳، ۲۰۵ تا ۱۸۹، ۱۰۷، ۹۳/۷
۶۳۳ تا ۶۳۷/۳	۲۲۳، ۶۳، ۵۷/۸
۲۳۳/۷	حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ:
حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات:	۶۳ تا ۶۱/۲
۱۳۲، ۱۳۰، ۶۳، ۵۰/۵	حضرت مریم علیہا السلام کا معجزہ:
معجزات دکھانے کا مقصد:	۶۶، ۵۹، ۵۸/۲
۵۰۰/۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات:
حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات:	۶۰۰، ۶۹، ۶۶/۲
۵۸۵، ۵۸۴، ۵۶۵، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۰۶/۶	۲۷، ۲۶/۶
۵۱۸، ۲۶۵، ۲۶۳، ۲۵۸/۷	مؤمنوں کو معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے:
حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات:	۲۶۸/۳
۲۱۱، ۲۰۶/۶	کفار کے فرمائشی معجزات دکھانے سے اللہ تعالیٰ کا انکار:
۲۹۶، ۲۹۵، ۲۶۱، ۲۵۸/۷	۴۲۷ تا ۴۲۳، ۴۱۶، ۳۳۲، ۳۲۳، ۳۱۶ تا ۳۱۳/۳
کافروں کا حضور علیہ السلام کے معجزات کو جاؤ و قرار دینا:	۶۰۰، ۵۹۶، ۵۲۱، ۱۶۲ تا ۱۶۰/۳
۴۲۳/۷	۵۱۹، ۴۹۹، ۲۳۷، ۲۱۱، ۲۰۱، ۱۹۵، ۱۷۳، ۱۷۲/۵
۲۲۷، ۲۲۳/۸	۵۳۲، ۵۳۱، ۵۲۰
حضور علیہ السلام کے معجزات کا اثبات:	۷۶۳، ۷۰۱، ۱۷۷، ۱۷۱، ۱۶۹/۶
۴۲۶/۷	۱۸۵/۸
معراج	گزشتہ اُمتوں کی طرف سے معجزات کا انکار:
معراج کے جسمانی ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل:	۱۹/۳
۴۳۹، ۴۳۸/۵	بعض اوقات خرقی عادت کے طور پر آنکھوں کا مشاہدہ
	بھی غلط ہو سکتا ہے:
	۲۳۹/۳

باقی اتفاق کے بہترین اصول:	واقعہ معراج کی احادیث متواتر ہیں:
۱۲۹/۲	۴۳۹/۵
باقی انتشار و افتراق کی اصل وجہ:	مختصر واقعہ معراج:
۱۳۰/۲	۴۴۰/۵
تنظیمی جدوجہد اور فتح مبین کا راز:	واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت:
۱۷۰/۲	۴۴۱/۵
معاشرہ کو خراب کرنے والے امور کی قیاحت و ممانعت:	اسراء و معراج کی تاریخ:
۵۵۵، ۵۴۳، ۵۴۲، ۴۹۲/۲	۴۴۲/۵
۴۹۳، ۴۸۷، ۱۳۶، ۱۳۷، ۴۳، ۴۶/۳	واقعہ معراج کفار کے لئے آزمائش:
۳۷۸، ۴۵۳، ۴۵۲/۳	۵۰۰/۵
۴۷۰، ۴۸۰، ۴۷۶/۶	معاشرت
۷۳۷، ۴۶۲، ۴۳۵/۷	فرق دارانہ اختلافات کا بڑا سبب:
۴۴۹، ۱۲۱، ۱۱۸، ۱۱۳/۸	۹۳/۱
خدمت خلق کے اہم ابواب کا خلاصہ:	اقوام عالم کی تقسیم کا قرآنی ضابطہ:
۵۴۶/۲	۵۰۸، ۱۱۶/۱
۳۲/۵	۱۷۶/۳
۱۰۶/۶	۱۰۸/۶
باقی تعاون کا قرآنی اصول:	۱۰۳/۷
۲۰/۳	معاشرہ کی غلط تقسیم کا تنقیدی جائزہ:
قومیتوں کی تقسیم:	۱۳۲، ۱۱۶/۱
۲۲/۳	۳۷۹/۳
قومیت و اجتماعیت کے لئے قرآنی تعلیم:	معاشرتی بگاڑ کی اصل وجہ:
۲۳/۳	۱۳۱، ۱۲۹/۱
۵۵۹/۵	انسانی مساوات کا زریں سبق اور اس کی بہترین عملی صورت:
تہوار منانے کے اسلامی اصول:	۴۸۹/۱
۳۳/۳	مسلمانوں کو ناقابلِ تسخیر بنانے کے دو اہم اصول:
	۱۲۶، ۱۲۵/۲

۷۳۲، ۵۲۵، ۴۵۶، ۳۳۲، ۱۲۲، ۱۱۲، ۱۱۰، ۱۰۵/۸	اصلاح معاشرہ کا طریقہ:
(مزید جستجو کے لئے "اخلاق" اور "حجاب" وغیرہ	۲۸۲، ۳۲۲، ۱۸۷/۳
عنوانات ملاحظہ فرمائیں)	۷۳۵، ۳۹۶/۶
معاشیات	۳۸/۷
خرید و فروخت کے احکام:	۳۲۲/۸
۶۸۹۵۶۸۳، ۵۲۵، ۴۸۶، ۴۷۸/۱	اعمال و اخلاق کا ذنبوی اجتماعی معاملات پر اثر:
۳۸۲۵۳۷۷/۲	۴۵۳/۳
۴۳۰، ۴۲۰/۶	قوموں کو تنبیہ کے متعلق عادت الہی:
۶۰۱، ۵۸۸، ۴۳۳، ۴۳۹/۸	۲۶۲، ۱۳/۳
(سودی معاشیات کی قباحت و دیگر مباحث لفظ "ربا"	اہم تنبیہات:
کے تحت جلد اول صفحہ: ۶۲۶۵۵۸۰ ملاحظہ فرمائیں)	۱۳۷۵۱۳۵، ۱۰۲، ۵۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶/۳
زہد و جمع مال کی بحث:	۱۸۱/۷
۳۰۳/۲	معاشرتی فلاح کے اہم اصول:
حلال طریقہ سے مال کمانے کے اصول و آداب:	۶۳۸، ۴۵۸، ۱۷۲، ۱۳۷، ۱۳۵/۳
۳۸۰، ۳۷۹/۲	۴۸۳۵۳۸۱، ۳۹۷۵۳۹۳، ۳۸۳، ۱۹۹/۵
۴۷۴۵۴۷۲، ۴۷۰/۵	۳۷۶، ۱۰۹، ۱۰۷/۶
حرام ذرائع کی قباحت و ممانعت:	۷۴/۷
۶۶۳/۳	۱۲۳/۸
۴۶۹، ۳۷۲/۵	قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ:
معاشیات کے متعلق الہی اصول:	۱۸۳، ۱۷۹/۵
۳۷۱، ۳۹۰/۵	مالداروں کا قوم پر اثر:
۴۶۶/۶	۴۵۹/۵
۷۳۲، ۷۲۹، ۷۲۸، ۶۹۸، ۳۰۳/۷	بعض معاشرتی آداب:
صنعاکاروں اور تاجروں وغیرہ کے لئے ایک بشارت:	۴۹۳/۵
۱۰۳/۶	۴۵۵، ۴۵۲، ۴۳۹، ۴۳۷، ۳۹۵، ۳۸۳/۶
فن معاشیات کا ایک اہم مسئلہ:	۶۳۰
۴۱۵/۶	۳۳۶، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۶۷، ۱۰۶، ۴۰، ۳۸/۷

مقامِ ابراہیم	عبرت و نصیحت:
مقامِ ابراہیم کا تعارف و اہمیت:	۳۶۰/۷
۳۲۲/۱	اِکتنازِ دولت پر اسلامی قوانین کی ضربِ کاری:
۱۲۰/۲	۳۶۹/۸
مقامِ ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم:	(مزید تفصیل کے لئے "حلال و حرام"، "زکوٰۃ"،
۳۲۲/۱	"صدقہ" اور "مال" کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں)
۱۲۰/۲	
مکاتبت	معاملات
لوٹڈی، غلام کو مکاتبت میں آسانی دینے کا حکم:	معاملات کے متعلق اسلامی احکام و آداب:
۴۱۴، ۴۱۳/۶	۶۷۰، ۶۶۱/۱
مکر	۳۷۸۵۳۷۶/۲
لفظ "مکر" کی تشریح:	۲۵۷۵۳۵۵، ۱۲/۳
۱۰۶/۲	۶۶۴، ۵۰۷، ۳۷۰، ۳۱۹، ۵۷/۴
۲۲۲/۳	۴۸۰، ۴۷۹، ۱۹۷، ۱۲۵/۵
بعض عورتوں کا مکر، شیطان کے مکر سے بڑھ کر ہے:	۶۳۰، ۶۲۵، ۵۷۴، ۴۲۳، ۲۱۰، ۱۸۸، ۱۰۸، ۱۰۷/۶
۵۸/۵	۷۵۰
مکڑی	۵۰۵، ۵۰۴، ۲۲۹، ۱۰۳/۷
مکڑی کا جالا صاف کرنا چاہئے:	۶۹۳، ۶۹۱، ۶۹۰/۸
۶۹۳/۶	
مکہ مکرمہ	معوذتین
حرمِ مکہ کے متعلق احکام:	معوذتین کے فضائل:
۳۲۰/۱	۸۴۸، ۸۴۷/۸
مکہ مکرمہ کے لئے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں:	ذنیوی و اخروی آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم:
۳۲۵، ۳۲۴/۱	۸۵۰/۸
فتحِ مکہ کے دن لڑائی کا جواز:	سورہ فلق اور ناس کے تعویذات میں فرق:
۷۴۸/۸	۸۵۳/۸

۵۵۳، ۵۵۲، ۱۱۲، ۱۱۱/۲	مکہ مکرمہ کی فضیلت:
۵۰۸، ۵۰۷/۳	۷۳۹/۸
۳۱۷، ۳۱۵، ۲۶/۵	فتح مکہ کی پیش گوئی:
۲۸۸/۶	۸۳۶/۸
سورۃ ملک	ملائکہ
سورۃ کے فضائل:	فرشتوں کے تذکرہ کے قرآنی مقامات:
۵۱۳/۸	۱۸۷، ۱۸۲، ۱۷۵/۱
ملکہ سبا	۲۹۳، ۵۰۰، ۳۹۸
ملکہ سبا کا واقعہ:	۲۳/۲
۵۸۸، ۵۶۹/۶	۲۲۲، ۲۱۰، ۲۷۸
من و سلویٰ	۵۳۵، ۴۱۵، ۳۹۳، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳، ۲۸۳/۳
من و سلویٰ کا تعارف:	۵۹۶، ۱۹۳، ۱۹۱، ۱۸۹/۴
۲۲۸/۱	۳۱۵، ۲۹۵، ۲۸۱، ۱۸۹، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۷۹/۵
بنی اسرائیل پر من و سلویٰ کا نزول:	۵۹۹، ۵۳۳، ۵۳۲، ۵۰۲، ۴۸۶، ۳۵۳، ۳۳۳
۲۲۹، ۲۲۸/۱	۳۶۹، ۳۶۶، ۲۸۷، ۲۲۸، ۱۷۹، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۲/۶
۹۵/۳	۷۲۱، ۷۲۰، ۶۵۴، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۷۰
۱۲۸، ۱۰۲/۶	۳۱۶، ۳۰۳، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۲۱، ۱۷۵، ۱۷۱، ۱۶۵/۷
مناظرہ	۵۷۵، ۵۳۳، ۴۸۵، ۴۸۲، ۴۱۸، ۴۱۵، ۳۱۷
مناظرہ و مباحثہ کے جواز کی صورت:	۶۷۰، ۶۵۹، ۶۵۲، ۶۵۱، ۶۳۹، ۵۸۳، ۵۸۰، ۵۷۶
۶۱۹/۱	۷۳۱، ۷۲۳، ۷۲۱، ۷۲۰، ۶۷۲، ۶۷۱
سورۃ منافقون	۵۵۱، ۵۰۲، ۳۰۸، ۳۰۷، ۱۸۲، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۲۸/۸
سورۃ کا شان نزول:	۶۵۲، ۶۳۵، ۶۳۲، ۶۱۵، ۶۰۶، ۵۷۳، ۵۷۳، ۵۵۵
۲۳۸/۸	۷۹۳، ۷۹۰، ۷۱۷، ۶۶۵، ۶۶۳، ۶۶۲، ۶۶۱، ۶۵۵
منافقین	ملتِ ابراہیمی
نفاق کی تعریف:	ملتِ ابراہیمی کا تعارف اور پیروی کی فضیلت:
۱۱۱/۱	۳۳۳، ۳۳۳/۱

منافقوں کے غلط تجربے اور ان کا رد:	منافقوں کے بُرے احوال:
۲۱۴/۲	۲۳۹، ۱۲۶ تا ۱۲۱/۱
منافقوں کے متعلق چند احکام:	۲۳۵/۲ تا ۲۶۳، ۲۵۹، ۲۶۵، ۲۸۷، ۲۹۰، ۲۹۲
۵۳۷/۲	۵۸۸، ۵۸۷، ۵۸۱، ۵۳۶
۲۳۳/۳	۱۷۲، ۱۷۱، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۳۹/۳
۵۰۴/۸	۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۵، ۲۲۰، ۲۱۴، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۵/۳
منافقوں کے لئے توبہ کی گنجائش:	۲۹۴، ۲۹۳، ۲۶۵، ۲۵۹، ۲۳۹، ۲۳۸
۵۸۹/۲	۶۷۷، ۴۳۷، ۳۳۵/۶
بعض منافقوں کا حضور علیہ السلام کو علم نہ ہونا:	۲۳۲، ۲۳۱، ۱۰۹، ۱۰۵، ۹۷، ۹۵/۷
۲۵۱/۳	۲۳۰، ۱۲۸، ۶۹، ۴۷، ۴۴، ۴۰، ۳۸، ۳۳، ۳۲/۸
	۲۵۶، ۲۴۷، ۲۳۶، ۲۸۶، ۲۸۳، ۲۵۲، ۲۴۹
<b>موت</b>	۸۲۶، ۸۲۵، ۴۵۷
موت کے احوال و کیفیات:	منافقوں کی سزا:
۴۰۴، ۳۳۸، ۲۶۳، ۲۳۶، ۲۳۸، ۲۲۷، ۱۷۲، ۱۷۱/۱	۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۱/۱
۶۲۶، ۶۲۰، ۵۹۴، ۵۹۲، ۵۳۳، ۵۱۶، ۴۳۹، ۴۳۸	۵۸۹، ۵۸۳، ۵۸۰/۲
۲۳۱، ۲۱۳، ۱۹۸، ۱۹۶، ۱۲۸، ۱۲۶، ۱۰۵، ۴۶، ۴۲/۲	۲۳۴، ۲۳۹، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۹۱/۳
۵۲۵، ۴۸۳، ۴۸۰، ۴۳۳، ۴۳۲، ۲۵۵، ۲۵۱	۴۳۷، ۴۸۵، ۴۵۰، ۴۱۰، ۳۰۷، ۳۰۴، ۶۹، ۴۰/۸
۴۹۳، ۴۵۱، ۴۵۰، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۱۰، ۴۸۰، ۴۷۷/۳	۸۲۶، ۸۲۵، ۵۰۵
۵۳۱، ۵۰۹	منافق کے دیگر نام:
۵۸۹، ۵۶۳، ۵۳۹، ۵۳۸، ۴۷۳، ۱۳۸، ۸۹/۳	۱۲۶/۱
۷۴۳/۶	ایک سوال و جواب:
۴۷۸، ۴۷۱، ۴۶۸، ۴۱۵، ۱۵۱، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۳۸/۸	۱۲۶/۱
۵۱۰، ۴۵۹، ۴۵۸، ۴۳۸، ۴۳۳، ۴۰۵، ۴۹۱، ۴۸۱	منافقوں کے مکرو فریب سے بچنے کا آسان نسخہ:
۷۴۳، ۷۴۱، ۶۷۶، ۶۶۸، ۶۶۱، ۵۶۱، ۵۱۷، ۵۱۵	۱۶۰/۲
۸۳۷	منافقوں اور کافروں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم:
	۲۰۲/۲

آخری آیات کی فضیلت:

۳۳۸/۶

سورۃ مؤمن

سورۃ کی خصوصیات:

۵۸۲، ۵۸۱/۷

مؤمنین

وہ مقامات جہاں پر مؤمنوں کا ذکر ہے:

۱۰۸/۱ تا ۱۱۳، ۱۶۵، ۲۵۲، ۲۶۷، ۳۱۳، ۳۱۴ تا ۳۱۵، ۵۲۳،

۶۹۶ تا ۶۹۳، ۶۱۷

۲۰۳، ۱۹۱ تا ۱۸۵، ۱۷۷، ۱۶۲، ۲۸، ۲۸، ۲۷، ۲۲، ۲۱/۲

تا ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۹، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۶۰،

۲۶۱، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۷۶، ۲۷۶، ۲۷۱، ۲۷۱، ۵۱۳،

۵۱۹، ۵۳۳، ۵۳۵، ۵۵۲، ۵۸۱، ۵۸۹، ۶۰۸، ۶۲۵

۶۷۶/۳، ۶۷۶، ۶۷۳، ۹۳، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲، ۲۱۹، ۲۷۳،

۳۰۶، ۳۳۷، ۳۵۲، ۳۸۲، ۳۳۳، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۳۹، ۳۳۹، ۳۳۹،

۵۵۸، ۵۵۱، ۵۱۵

۳/۳، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۵۳، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۸۱، ۱۹۹، ۲۰۳،

۲۰۸، ۲۱۱، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۳۳، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸،

۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸،

۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸،

۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸،

۱۸۸/۵، ۲۰۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۹، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۲، ۳۱۲،

۳۳۳، ۳۹۵، ۳۵۳، ۳۹۸، ۳۶۰، ۳۶۰، ۳۶۰، ۳۶۰، ۳۶۰،

۵۸۶، ۶۵۷

۲۶/۶، ۵۵، ۵۷، ۵۹، ۱۰۵، ۱۳۹، ۱۶۲، ۲۲۱، ۲۲۲،

۲۲۸، ۲۳۹، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۸۷، ۲۹۱،

۳۳۱، ۳۶۹، ۳۶۹، ۳۹۸، ۴۰۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۳۶، ۴۳۶،

۴۳۹، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۳، ۴۵۳، ۴۵۳، ۴۵۳، ۴۵۳، ۴۵۳،

۶۷۳، ۶۷۳، ۶۷۳، ۶۷۳، ۶۷۳، ۶۷۳، ۶۷۳، ۶۷۳، ۶۷۳،

موسیقی

موسیقی کا حکم:

۲۷، ۲۵/۷

حضرت موسیٰ علیہ السلام

آپ کے احوال و واقعات:

۲۲۵/۱، ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳،

۲۵۶/۲، ۵۹۷، ۵۹۷، ۵۹۸، ۶۰۸

۷۷/۳، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۴، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۵، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۶، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۸، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۹، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۱۰، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۱۱، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۱۲، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۱۳، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

۷۷/۱۴، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

مؤمن آل فرعون

مؤمن آل فرعون کا واقعہ:

۶۰۳ تا ۵۹۵/۷

سورۃ مؤمنون

سورۃ کے فضائل:

۲۹۳/۶



حق مہر کا تعین ضروری ہے:	۱۳۶، ۱۳۳، ۱۳۲، ۸۹، ۵۸۵، ۶۹، ۶۶، ۶۵، ۱۹، ۱۸، ۷
۳۶۵، ۳۵۷/۲	۲۲۳، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۶، ۱۷۹، ۱۷۵، ۱۷۱، ۱۳۹
طلاق قبل از دخول و بعد از دخول کی صورتوں میں مہر کے احکام:	۲۰۰، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۲۰، ۲۰۰، ۲۹۸، ۲۵۳
۳۶۶، ۳۶۵/۲	۵۶۹، ۵۵۵، ۵۳۹، ۵۳۶، ۵۳۱، ۵۲۵، ۵۱۱، ۵۱۰
مقررہ مہر میں باتفاق زوجین کی بیشی ممکن ہے:	۶۵۱، ۶۳۹، ۶۳۸، ۶۳۱، ۶۲۶، ۵۹۸، ۵۸۵، ۵۷۶
۳۶۸/۲	۷۱۰، ۷۰۳، ۶۹۳، ۶۸۸، ۶۸۴، ۶۸۳، ۶۵۶، ۶۵۲
حق مہر کی ادائیگی سے متعلق دو مسئلے:	۷۶۲، ۷۵۹، ۷۵۲، ۷۴۸
۶۳۱/۶	۲۱۰، ۱۷۰، ۱۶۰، ۱۴۷، ۱۱۰، ۶۹، ۶۸، ۳۵، ۳۲، ۲۰/۸
میثاق	۳۳۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۶، ۳۰۳، ۲۸۳، ۲۳۷، ۲۱۳، ۲۱۱
کافر وعدۃ الست کی خلاف ورزی کرتے ہیں:	۲۳۸، ۲۲۸، ۲۱۶، ۲۱۳، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۹۰، ۲۸۹
۱۶۹، ۱۶۷/۱	۵۲۳، ۵۲۷، ۵۰۲، ۴۹۳، ۴۹۳، ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۵۷
میثاق کا مفہوم:	۶۶۳، ۶۳۳، ۶۳۸، ۶۳۲، ۶۳۱، ۵۵۹، ۵۵۷، ۵۵۳
۱۶۹، ۱۶۸/۱	۷۱۱، ۷۰۵، ۶۹۷، ۶۹۶، ۶۹۵، ۶۹۳، ۶۹۲، ۶۸۶
اللہ تعالیٰ کے تین عہد:	۷۵۹، ۷۱۴
۹۹/۲	مہر
میثاق سے کیا مراد ہے اور یہ کہاں ہوا:	طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہر کے وجوب و عدم وجوب کی تفصیل:
۹۹/۲	۵۸۷، ۵۸۶/۱
تمام انبیاء کرامؑ سے ایمان کے مطالبے کا فائدہ:	حق مہر کے حوالہ سے عورتوں پر مظالم کا افساد:
۱۰۰/۲	۲۹۷/۲
بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہدوں کی خلاف ورزی:	مہر کے متعلق جزئیات:
۵۹۹، ۵۹۷/۲	۲۹۹، ۲۹۸/۲
۸۲، ۸۱/۳	عورتوں کی حق مہر کی معافی معتبر نہیں:
ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کرنے کا حکم:	۲۹۸/۲
۶۶/۳	جبراً مہر واپس لینا اور معاف کرانا ناجائز ہے:
	۳۵۳، ۳۵۲/۲

ن

نامہ اعمال

نامہ اعمال کا کہاں کہاں ذکر ہے:

۵۲۴۵۱۸/۳

۴۸۶،۴۸۶/۴

۵۹۴،۵۰۸،۵۰۷،۴۵۶،۴۵۵/۵

۵۹۹،۴۳۶،۴۳۲،۴۱۷،۴۸۲،۱۱۵،۵۴،۵۴/۶

۶۵۴

۷۹۰،۷۸۹،۷۵۱،۴۶۵،۴۶۴،۴۶۱/۷

۷۰۵،۷۰۱،۶۹۵،۶۹۴،۶۹۱،۵۴۴،۱۸۶،۱۳۸/۸

۸۰۷

نبوت

نبوت وہی ہے، کسی نہیں:

۱۸۴،۱۸۴/۱

۴۴۳/۳

۴۹۶/۵

۶۵۸/۶

۷۲۸،۷۲۷/۷

فرشتہ نبی نہیں بن سکتا:

۵۰۰/۴

۱۵۷/۵

بشریت، نبوت و رسالت کے خلاف نہیں:

۶۱۳/۴

۴۵۴،۴۴۷/۵

۴۹۴،۴۹۱/۷

۴۶۵/۸

اللہ تعالیٰ کا تمام انسانوں سے عہد:

۱۰۸/۴

اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدہ کو توڑنے کی سزا:

۱۹۶،۱۹۴/۵

اللہ تعالیٰ کا تمام انبیاء کرام سے عہد:

۹۰،۸۹/۷

اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پار امانت پیش کیا جاتا

اور اس کا اس بوجھ کو اٹھالینا:

۴۴۹ تا ۴۴۲/۷

سورہ حدید میں بیثاق سے کیا مراد ہے:

۴۹۶،۴۹۵/۸

میراث

میراث کے احکام:

۴۵۱/۱

۳۹۴،۴۴۴ تا ۴۴۰،۴۱۷ تا ۴۰۹،۴۹۹ تا ۴۹۷/۲

۶۴۷

۸۸/۷

۸۸۴،۸۴۴/۸



## نجوم

علم نجوم کی شرعی حیثیت:  
۲۳۹/۷

## نحل

شہد کی مکھی میں پوشیدہ الہی کمالات:  
۳۶۳ تا ۳۶۱/۵

شہد کی شقائیت:  
۳۶۳/۵

## سورۃ نحل

سورۃ کے دو نام:  
۳۱۵/۵

سورۃ کو وعید سے شروع کرنے کی وجہ:  
۳۱۶/۵

## نذر و نیاز

غیر اللہ کے لئے جانور نامزد کرنے کی حرمت:  
۳۱۱/۱

نذر لعل اللہ کی حرمت:  
۳۱۵/۱

نذر لعل اللہ کی تین متعارف صورتیں:  
۳۲۱/۱

مشائی وغیرہ بطور منت، غیر اللہ کے نام چڑھانا:  
۳۲۳/۱

غیر اللہ کی نذر و نیاز کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم:  
۳۲۶/۳

۲۵۹/۶

نذر کے منعقد ہونے کی شرائط:  
۶۳۷/۸

اہل کتاب کا نبوت پر ایک طعن اور اس کا جواب:

۲۱۰/۵

پیغمبر پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے:

۲۹۰/۵

۶۵۳/۸

طبعی خوف نبوت یا ولایت کے خلاف نہیں:

۵۰۳/۷

(مزید تفصیل کے لئے "انبیاء کرام علیہم السلام" کا  
عنوان ملاحظہ فرمائیں)

## نجاشی

نجاشی کا قبول اسلام:

۲۱۵/۳

مسلمانوں کی ہجرت حبشہ اور نجاشی کا تعاون:

۲۱۶/۳

حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر کا شاہ حبشہ پر اثر:

۲۱۷/۳

شاہ حبشہ کے وفد کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضری:

۲۱۷/۳

## سورۃ نجم

سورۃ کی خصوصیات:

۲۲۲، ۱۹۳/۸

سورۃ کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کا اختلاف:

۲۰۳ تا ۱۹۵/۸

سورۃ کی آخری آیت پر سجدہ کرنا چاہئے:

۲۲۲/۸

اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی قبول ہونے کی شرط:

۲۶۶، ۲۶۵/۶

احکام قربانی کے متعلق ایک سوال و جواب:

۳۰۳/۷

### نصاری

حضور علیہ السلام کے دور کے عیسائیوں کے احوال:

۳۵۸، ۳۵۳، ۳۰۶، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۳۹/۱

۶۱۵، ۹۶، ۸۵، ۱۸/۲

۲۱۶، ۲۱۵، ۲۰۸، ۲۰۶، ۱۶۸، ۸۹، ۸۶، ۸۲، ۸۱/۳

۷۹۰، ۳۸۶

۳۵۸/۳

۲۳۶، ۲۱/۶

۲۲۹، ۳۳۰، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۳/۸

### سورة النصر

سورة کا دوسرا نام:

۸۳۵/۸

قرآن مجید کی آخری سورة و آخری آیات:

۸۳۶/۸

### نظربد

نظربد برحق ہے:

۱۱۲، ۱۰۹/۵

نظربد کے ازالہ کے لئے دُعا و تعویذ کا جواز:

۱۱۲/۵

نظربد سے بچاؤ کی تدبیر:

۵۹۲، ۱۱۲/۵

### نسخ

نسخ پر جاہلانہ شبہات اور ان کا رد:

۲۸۲، ۲۸۲/۱

نسخ کا لغوی و اصطلاحی معنی:

۲۸۳/۱

نسخ کی حقیقت:

۲۸۳/۱

۳۰۳/۵

۷۲۱، ۵۹۸/۸

نسخ کے متعلق حقدین و متاخرین کی اصطلاحوں کا فرق:

۲۸۵/۱

نسخ الت بالقرآن:

۳۵۲، ۳۷۵/۱

خبر واحد سے کوئی حکم منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں:

۳۷۶/۱

نسخ کی حکمت:

۲۱۱، ۲۱۰/۵

۷۲۵، ۷۲۱/۸

مسئلہ نسخ کی تشریح:

۲۱۳/۵

ایک شبہ کا جواب:

۲۱۵/۵

### نسک

حج میں قربانی کے احکام:

۲۶۲، ۲۵۸، ۲۵۵، ۲۵۳/۶

ہر امت میں قربانی فرض رہی ہے:

۲۶۷، ۲۶۳/۶

۶۷۸/۳  
 ۵۳۳/۸  
 ایک جامع نصیحت:  
 ۶۷۴/۳  
 گزشتہ امتوں کے واقعات میں لوگوں کے لئے نصیحت ہے:  
 ۶۷۵/۳  
 منافق نصیحت حاصل نہیں کرتے:  
 ۴۹۳/۳  
 طالب حق ہی نصیحت قبول کرتا ہے:  
 ۵۸۸،۳۳۱/۷  
 اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں:  
 ۷۲۱/۸  
 حضور علیہ السلام کو دوسروں کو نصیحت کرنے کا حکم:  
 ۷۳۳،۷۳۰،۷۲۶،۷۲۱/۸  
 نصیحت کون مانتا ہے:  
 ۷۲۱/۸  
 نصیحت نہ ماننے والوں کا انجام:  
 ۷۲۱/۸

### نعمت

نعمتوں کی اقسام:  
 ۱۷۷،۱۷۱،۱۳۳/۱  
 تمام نعمتیں اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کی محض عطا کی وجہ سے ہیں:  
 ۱۰۱/۳  
 جب نعمت غیر معمولی ہو تو اس کی ناشکری کا وبال بھی بڑا ہوتا ہے:  
 ۲۶۸/۳

### نصیحت

نصیحت پر عمل کرنے کی ترغیب:  
 ۵۳۹/۱  
 ۲۷۸،۳۳۶/۳  
 ۳۸۷/۵  
 ۷۷۳،۵۵۳/۷  
 نصیحت عقل والے ہی قبول کرتے ہیں:  
 ۲۰/۲  
 ۱۸۸/۵  
 ۵۴۱/۷  
 بنی اسرائیل کا تورات میں کی گئی نصیحت کو بھول جانا:  
 ۸۱/۳  
 سابقہ امتوں کا اپنے پیغمبروں کے نصح کو بھول جانا:  
 ۵۹۸،۵۹۵،۵۹۴،۳۱۹،۳۱۸/۳  
 ۹۷/۳  
 ۳۳۱/۷  
 حضور علیہ السلام کو کافروں کو نصیحت کرنے کا حکم:  
 ۳۶۸/۳  
 ۷۳۰،۷۲۶،۷۲۱،۷۲۰/۸  
 قرآن مجید تمام جہان والوں کے لئے نصیحت ہے:  
 ۳۹۵،۳۹۱/۳  
 ۱۵۳/۵  
 ۳۹۱،۳۰۶/۷  
 ۲۳۲،۲۳۰،۲۲۹/۸  
 ۵۸۷،۵۳۰،۵۲۳،۲۳۳  
 ۶۸۰،۶۷۱،۶۱۷،۶۰۹،۶۰۸  
 قرآن مجید مومنوں کے لئے نصیحت ہے:  
 ۵۱۵/۳

نفخہ	رات، اللہ تعالیٰ کی جبری عظیم نعمت ہے:
نفوزِ اُوّلیٰ و ثانیہ کے بعد کے حالات:	۳۷۱/۳
۳۷۰/۳	نعمتوں میں تفاضل کی حکمت:
۶۵۵/۵	۵۰۷/۳
۶۱۲۵۶۰۸، ۳۳۳، ۳۳۲، ۱۲۸/۶	عمدہ چیزیں استعمال کرنے کی مشروط اجازت:
۶۰۱، ۵۷۷، ۵۷۵، ۴۲۹، ۴۲۸، ۴۰۲، ۳۹۹/۷	۵۵۰/۳
۵۳۶، ۵۳۵، ۵۳۳، ۴۶۵، ۲۲۳، ۱۷۶، ۱۳۹، ۱۳۸/۸	دُنیا کی تمام نعمتیں مومنوں کے لئے ہیں:
۸۰۱، ۷۰۱، ۶۸۶، ۶۷۹، ۶۶۲، ۶۵۱، ۶۳۲، ۵۸۷	۵۵۱/۳
نخحات کی تعداد:	سائنس آسانی سے لینا بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت:
۶۰۹، ۲۳۰/۶	۱۲۱/۳
۶۰۱/۷	اللہ تعالیٰ کا اپنی نعمت بدلنے کا ضابطہ:
صویر اسرائیل کی آواز سب سنیں گے:	۲۶۰/۳
۱۵۳۵۱۵۱/۸	عطاءئے نعمت و بقائے نعمت کا ضابطہ:
نفس	۲۶۲/۳
نفس کی تین اقسام اور ان کی تعریفات:	قریش مکہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری:
۸۷، ۸۶، ۸۳/۵	۲۶۳/۳:
۶۲۳/۸	دُنیا کی نعمتیں عارضی اور آخری نعمتیں دائمی ہیں:
نفس کے متعلق حضرت قاضی شام اللہ کی تحقیق:	۳۹۷، ۳۹۵/۵
۲۹۸/۵	ایک اہم ہدایت:
۶۶۵/۸	۶۶۵/۶
نفسِ لوامہ کسے کہتے ہیں:	اللہ تعالیٰ کی ایک روحانی نعمت:
۶۲۲/۸	۲۳۱/۸
مخالفتِ نفس کے تین درجے:	اولاد کا اپنے پاس موجود ہونا ایک مستقل نعمت ہے:
۶۶۸، ۶۶۷/۸	۶۱۳/۸
مکانہِ نفس:	نیند بہت بڑی نعمت ہے:
۶۶۷/۸	۶۵۳/۸
قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا:	
۸۱۰، ۸۰۸/۸	

حضرت نوح علیہ السلام

حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت:

۶۱۲،۵۵۵/۲

۶۳۳/۳

۴۴۴/۵

۴۴۴/۷

۵۶۵،۴۲۵،۴۲۳/۸

آپ کی اپنی قوم کو تبلیغ، قوم کی سرکشی و ہلاکت:

۶۱۲،۶۱۰/۲

۵۹۶۵۵۹۰/۳

۴۲۶،۶۲۳،۶۲۰،۶۱۹،۶۱۷،۶۱۲،۵۵۵،۵۵۴/۴

۴۳۱۵

۶۸۴۵۶۸۰،۵۴۴،۵۴۳،۴۷۲،۴۰۹،۴۰۸/۶

۴۴۴،۴۴۳/۷

،۵۴۲،۵۰۶،۵۰۵،۴۳۰،۴۲۸،۴۱۵،۱۶۶،۱۳۵/۸

۵۶۶،۵۶۳،۵۶۲،۵۶۱



نفسِ مطمئنہ سے اللہ تعالیٰ کا خطاب:

۷۴۳/۸

چند عجیب واقعات:

۷۴۵/۸

نفقہ

مطلقہ عورتوں کے نفقہ کے احکام:

۴۹۱،۴۹۰،۴۷۵/۸

نفقہ، شوہر کی آمدنی کے حساب سے مقرر کرنا چاہئے:

۴۹۲،۴۷۵/۸

نکاح

نکاح کے احکام و مسائل:

۵۷۶،۵۴۱،۵۴۰،۵۳۹/۱

۴۷۰،۴۶۵،۴۶۳،۴۵۶،۴۵۵،۴۸۲،۶۱،۶۰/۲

۴۷۵،۴۷۴،۴۷۱

۴۱۲۵۴۰۷،۴۵۰،۶۳۵۶۰/۳

۶۳۲،۶۳۰/۶

،۵۲۷،۴۱۶،۴۱۱،۴۰۹،۴۰۸،۴۵۱،۱۷۹،۱۵۰/۷

۶۳۲۵۶۳۰

۴۷۶/۸

نماز

لفظ ”صلوٰۃ“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

نمرود

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ:

۶۱۸/۱

۴۴۶/۷

آپ پر نمرود کے گلزار بن جانے کی حقیقت:

۲۰۲،۲۰۱/۶

حضور علیہ السلام کی وحی کی کیفیت:

۳۵۳/۱

۶۱۱،۶۱۰،۹۹/۲

وحی کے متعلق ایک شبہ کا جواب:

۳۷۱/۳

تمام ضروری صنعتوں کی وحی کے ذریعہ ابتدا ہوئی:

۶۲۰/۴

بچپن میں یوسف علیہ السلام پر وحی کی حقیقت:

۳۵/۵

شہد کی مکھی کی طرف وحی کا مطلب:

۳۶۳،۳۶۱/۵

کیا وحی کسی غیر نبی و رسول کی طرف بھی آسکتی ہے:

۸۲/۶

نزول وحی کے متعلق حضور علیہ السلام کو ہدایات:

۱۵۰/۶

۶۲۶،۶۲۱/۸

حضور علیہ السلام کے تمام فرمودات وحی ہیں:

۱۹۳،۱۸۹/۸

نزول وحی کی کیفیت:

۵۹۱،۵۸۶/۸

اللہ تعالیٰ کے بندہ سے کلام کرنے کے تین طریق:

۷۱۲/۷

وحی کی ابتدا اور سب سے پہلی وحی:

۷۸۱،۷۷۹،۷۷۸/۸

حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول:

۸۱۳/۷

و

وادی تہ

وادی تہ کا تعارف:

۲۲۹،۲۲۸/۱

بنی اسرائیل کی بطور سزا وادی تہ میں نظر بندی:

۱۰۳/۳

وادی تہ کی حدود:

۱۰۵/۳

سورۃ واقعہ

سورۃ کی خصوصی فضیلت:

۲۶۸/۸

والدین

والدین کے متعلقہ احکام و مسائل:

۵۱۲،۵۱۱،۴۳۹،۴۳۸،۱۵۳/۱

۴۸۹،۴۲۶،۴۲۳،۴۲۱،۴۱۹،۴۰۹،۴۰۸/۲

۵۷۱،۴۱۰،۴۰۹

۲۸۲/۳

۶۲۱،۴۶۹،۴۶۲/۵

۸۰۷،۸۰۴،۸۰۱،۴۹،۴۶،۴۲/۷

وحی

وحی کی ضرورت:

۲۱/۱

نزول وحی کے طریقے:

۲۳/۱

کتابت وحی:

۳۶/۱



### وقف

اوقاف اور دوسری ملکی و ملی خدمات کا صلہ:

۳۰۶/۲

ولید بن مغیرہ

ولید بن مغیرہ کی سرکشی و اخروی سزا:

۶۱۳، ۶۱۲، ۶۰۵، ۵۳۳، ۵۳۳، ۴۱۳/۸

### ووٹ

ووٹ کی مختلف حیثیتیں:

۷۲، ۷۱/۳

ووٹ کے غلط استعمال کا وبال:

۷۲، ۷۱/۳



### وراثت

لفظ ”میراث“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

### وسیلہ

وسیلہ سے دُعا مانگنے کا جواز:

۸۶/۱

۲۹۵، ۱۲۸/۳

وسیلہ کی تحقیق:

۹۹/۱

خلاصہ بحث:

۱۰۲/۱

وسیلہ کا مفہوم:

۱۲۶/۳

۳۹۹، ۳۹۸/۵

وسیلہ اور غیر اللہ سے مدد مانگنے میں فرق:

۲۹۵/۳

### وسیلہ

وسیلہ کا معنی:

۲۲۶/۳

### وصیت

وصیت کے احکام:

۳۴۱، ۳۳۸/۱

۳۳۰، ۳۳۸/۲

۲۵۷/۳

### وضو

نماز کے لئے وضو کرنے کا حکم:

۶۵/۳

حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت:

۶۹، ۶۶/۳

۱۳۱/۶

دو بیخبروں میں اختلاف رائے اور دونوں طرف صواب

کے پہلو:

۱۳۲/۶

حضرت ہارون علیہ السلام کی فضیلت و اجمالی تذکرہ:

۳۷۳، ۷۹، ۷۸، ۳۸/۶

۳۶۸، ۳۶۷/۷

ہامان

ہامان کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب:

۵۹۳/۷

قرعون کا ہامان کو بلند عمارت بنوانے کا حکم:

۶۳۷، ۶۳۶/۶

۵۹۸/۷

ہامان کی سرکشی و ہلاکت:

۶۹۱/۶

ہجرت

ہجرت کے فضائل:

۵۲۷، ۵۲۵، ۲۷۳/۲

۳۱۰، ۳۳۹، ۳۳۸/۵

۷۰۶، ۲۷۸/۶

ہجرت کے احکام و مسائل:

۵۲۸، ۵۲۶، ۵۲۵، ۵۱۱/۲

۳۳۰، ۳۳۹، ۳۰۰، ۲۹۷، ۲۹۴، ۲۲۲، ۲۱۹/۳

۳۸۰، ۵۷۵

۳۳۳، ۳۳۹/۵

ہاتیل قاتیل

ہاتیل قاتیل کا قصہ:

۱۱۳، ۱۰۸/۳

اس قصہ سے حاصل شدہ سبق:

۱۱۳/۳

حضرت ہاجرہؓ

حضرت ہاجرہؓ کا امتحان اور ان کی استقامت:

۳۱۷، ۳۱۱/۱

حضرت ہاجرہؓ کا تعارف:

۳۵۷/۷

ہاروت ماروت

ہاروت ماروت کا واقعہ:

۳۷۲، ۳۷۰/۱

حضرت ہارون علیہ السلام

حضرت ہارون علیہ السلام کا نبوت کے لئے انتخاب:

۶۱۰/۲

وادی تہ میں ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام

سے رفاقت:

۱۰۵/۳

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کو اپنا

جانشین نامزد کرنا:

۶۰۳، ۵۶/۳

ہارون علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی:

۶۹، ۶۸، ۶۶، ۶۵/۳

۱۳۰، ۱۳۹/۶

۵۰۸، ۹۱، ۲۳/۲	۶۱۰۴۷۰۶/۶
۵۵۷/۳	۵۴۳، ۵۴۱/۷
۵۲۸، ۵۲۶، ۱۳۹/۴	۴۰۸/۸
۲۰۰، ۵۳۲، ۲۲۷، ۲۲۵، ۲۱۸، ۲۰۳، ۲۰۱/۵	ہدایت
۷۶۰، ۷۴۲، ۶۴۸، ۶۴۱، ۶۱۰، ۵۴۱۹، ۲۴۳/۶	ہدایت کا معنی:
۷۰۹، ۶۷۵، ۵۹۷، ۵۵۸، ۵۴۹، ۵۴۸، ۴۲۱/۷	۸۷/۱
۷۸۶، ۷۳۶، ۷۱۰	ہدایت کے درجات:
۶۰۷/۸	۹۰۴۸۷/۱
سیدھا راستہ کون سا ہے:	ہدایت کے متعلق چند نکات:
۳۰۶/۱	۹۰/۱
ہدایت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ:	قرآن مجید ذریعہ ہدایت ہے:
۳۳۶/۱	۴۴۷، ۱۶۷، ۱۰۸، ۱۰۶/۱
ہدایت یافتہ ہونے کی کسوٹی:	۵۷۰، ۸۶/۳
۳۵۳/۱	۵۴۰، ۱۶۰/۴
سیدھے راستہ کو چھپانے کی سزا:	۴۵۳، ۳۸۶، ۳۵۸، ۱۶۱/۵
۴۰۲/۱	۶۰۰، ۵۵۷/۶
اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے:	۸۱۳، ۷۸۲، ۷۷۷، ۶۵۷، ۱۸/۷
۶۱۹/۱	۵۷۰/۸
۱۰۳/۲	ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں:
۴۶۰/۳	۱۰۶/۱
۴۰۶/۵	۳۸۳/۳
۴۴۱/۶	۳۲۶/۴
۷۹۵/۷	۱۸/۷
۴۲۲/۸	ہدایت کے بدلہ میں گمراہی خریدنے والے:
اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے:	۴۲۸، ۱۴۲/۱
۶۲۹، ۶۲۸/۱	ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں:
۶۱۱، ۵۷۹/۲	۶۳۸، ۵۰۳، ۳۶۳، ۳۵۹، ۱۶۸، ۱۶۷/۱

ہدایت کیا ہے:	۴۳۰،۳۷۰/۴
۹۰،۸۹/۴	ہدایت یافتہ کون ہے:
ہدایت بذاتِ خود ایک بڑا انعام ہے:	۱۲۵،۱۲۳/۲
۱۲۵/۴	اہل کتاب کا اپنے ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ اور اس
ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ:	کا رد:
۱۳۷/۴	۴۳۱/۲
ہدایت کے متعلق الہی ضابطہ:	سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد اس سے ہٹنے
۴۷۳/۴	کی سزا:
اللہ تعالیٰ ضدی اور ہٹ دھرم کو ہدایت نہیں دیتے:	۵۴۵/۲
۳۳۶/۵	۴۷۳،۴۵/۸
۶۴۱/۶	اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو ہدایت دیتے ہیں:
۵۳۵/۷	۶۲۵/۲
۴۳۳/۸	اصل ہدایت کیا ہے:
کافروں کا راہِ ہدایت پر آنے سے انکار:	۱۰۱/۳
۶۰۰/۵	سب لوگوں کے ہدایت یافتہ نہ ہونے کی وجہ:
سیدھی راہ پر چلنے کا انعام:	۴۷۶،۴۱۴/۳
۲۴۸،۱۵۳،۱۱۱/۶	۴۷۵/۴
ایمان والے ہی ہدایت یافتہ ہیں:	۳۹۴،۳۲۲،۳۲۱/۵
۴۳۶،۴۷۶/۶	۶۳۳/۸
اللہ تعالیٰ جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتے:	اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ اور گمراہ کو خوب جانتے ہیں:
۵۹۶،۵۳۵/۷	۴۲۷/۳
ہدایت پانے کے دو طریق:	ہدایت اور گمراہی کی علامات:
۶۸۰،۶۷۹/۷	۴۴۱/۳
جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے	ہدایت یافتہ لوگوں کی جزا:
سکتا:	۵۳۸/۳
۷۸۶،۷۱۰،۷۰۹/۷	ہدایت کے مختلف درجات:
ہدایت کے دو ذریعے:	۵۶۲/۳
۲۵۳/۸	

حضرت ہود علیہ السلام  
 حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ:  
 ۵۹۸، ۵۹۷/۳  
 ۶۳۰، ۶۳۷/۴  
 ۵۳۷، ۵۳۶/۶  
 ۸۱۱، ۸۱۰/۷  
 قوم عاد کی سرکشی و ہلاکت:  
 ۶۰۳، ۶۰۲، ۵۹۹، ۵۹۸/۳  
 ۶۳۱، ۶۳۷/۴  
 ۸۱۱/۷  
 ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اور بعض حالات:  
 ۶۰۰/۳  
 قوم عاد کی مادی ترقی:  
 ۸۱۱/۷  
 سورۃ ہود  
 سورۃ کی خصوصیت:  
 ۶۷۲، ۶۷۱، ۵۸۴/۴



اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے:

۴۴۸، ۴۴۱/۸

جنات کا ہدایت قبول کرنا:

۵۷۰/۸

ہدیہ

ہدیہ کے بعض آداب:

۷۵۰/۶

۶۱۲/۸

ہدیہ

ہدیہ کا واقعہ:

۵۸۳، ۵۶۹/۶

ہلاکت

اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنے کا حکم:

۴۷۲/۱

سابقہ امتوں کی سرکشی و ہلاکت:

۶۱۶، ۵۱۵، ۴۸۳/۳

۵۱۵، ۴۶۵/۴

۴۵۸، ۴۵۷، ۴۳۸/۵

۶۵۰، ۶۳۹، ۵۳۷، ۴۱۴، ۴۷۳، ۱۶۹، ۱۶۱، ۵۸، ۵۱/۶

۸۱۲، ۷۶۹، ۷۱۷، ۴۹۱، ۴۷۱، ۷۳/۷

۶۳۳، ۶۳۲، ۵۴۲، ۴۳۷، ۱۴۹، ۱۴۸، ۳۲/۸

ظالموں پر ہی عذاب آتا ہے:

۳۲۳/۳

قوموں کی ہلاکت کے متعلق الہی ضابطہ:

۴۵۱/۳

۶۰۱، ۴۹۸، ۴۵۷، ۴۳۹/۵

۶۵۰، ۵۴۸، ۵۴۷، ۴۲۷، ۱۶۲/۶

۸۱۶/۷

حضرت اسحاق علیہ السلام

آپ کی فضیلت:

۳۸۵/۳

۵۲۵/۷

آپ کا مختصر تعارف:

۵۲۷، ۵۲۶/۷

حضرت یعقوب علیہ السلام

آپ کے تذکرہ کے قرآنی مقامات:

۳۵۸، ۳۵۳، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۰۵/۱

۶۱۲، ۶۱۰، ۱۱۲، ۱۱۱، ۵۶/۲

۳۸۵/۳

۱۲۸۵، ۱۰۱، ۹۷، ۳۰۵، ۲۶، ۱۵/۵

۶۸۵، ۱۹۶، ۳۷، ۳۶، ۳۳/۶

۵۲۵/۷

یمین

قسم کے متعلق احکام و مسائل:

۵۳۶، ۵۳۵، ۵۳۳/۱

۹۳/۲

۲۵۸، ۲۵۵، ۲۲۳، ۲۲۲/۳

۳۹۳، ۳۰۷، ۱۰۶/۵

۵۳۳، ۵۲۲، ۳۲۰، ۳۱۸/۷

۵۳۱، ۳۳۷، ۳۳۹، ۱۹۳/۸

حضرت یوسف علیہ السلام

آپ کے مکمل حالات:

۳۸۵/۳

۱۵۱، ۱۵/۵

ی

یاجوج ماجوج

یاجوج ماجوج کا تعارف و احوال:

۶۵۵، ۶۳۸/۵

یتیم

یتیموں کے متعلق احکام:

۵۸۲، ۵۳۸/۱

۳۸۷، ۳۱۳، ۳۱۱، ۳۰۹، ۳۰۰، ۲۶۵، ۲۸۲، ۲۰۰/۲

۳۷۹/۵

۷۳۲/۸

حضرت یحییٰ علیہ السلام

آپ کی پانچ صفات:

۲۶۱/۲

آپ کی فضیلت:

۳۸۵/۳

۲۲۳، ۱۷، ۱۶/۶

آپ سے اللہ تعالیٰ کا خطاب:

۱۷/۶

یزید

یزید پر لعنت کرنے کی بحث:

۳۳/۸

سورۃ یونس

”یونس“ کسی کا نام رکھنا کیسا ہے:

۳۵۶/۷

سورۃ کے فضائل:

۳۶۲/۷

۲۷۴، ۲۱۵، ۲۱۴  
 ۳۶۲، ۳۵۸، ۲۶۷، ۱۰۵، ۱۰۳، ۱۰۰، ۹۷/۳  
 ۱۵۵/۵  
 ۲۳۶/۶  
 ۳۵۹، ۳۵۵، ۳۳۱، ۳۲۹، ۱۱۶، ۱۰۸، ۱۰۱، ۹۹/۷  
 ۲۷۴، ۲۳۷، ۲۳۳، ۲۸۶، ۲۸۳



آپ کی قبیلوں کو تبلیغ اور ان کی سرکشی:

۵۹۷/۷

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام

آپ کا تعارف:

۱۰۶، ۱۰۰/۳

یومِ نحر

یومِ نحر کا خصوصی تعارف:

۷۳۸/۸

حضرت یونس علیہ السلام

آپ کی فضیلت:

۶۱۰/۲

۳۸۵/۳

آپ کا واقعہ:

۵۷۵، ۵۶۹/۴

۲۲۳، ۲۲۱/۶

۳۸۱، ۳۷۶/۷

۵۲۹، ۵۲۸/۸

یہود

یہود کے احوال بد:

۳۳۶/۱، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۰، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۵۱، ۲۵۶، ۲۵۹

۲۶۶، ۲۶۳، ۲۶۰، ۲۸۷، ۲۸۱، ۲۷۰، ۲۹۰، ۳۰۳، ۳۰۶

۳۵۸، ۳۵۳

۲۵۳، ۲۵۱، ۱۵۲، ۱۱۲، ۸۸، ۷۷، ۷۳، ۷۲، ۴۱، ۴۰/۲

۶۰۷، ۶۰۶، ۶۰۰، ۵۹۹، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۵۳

۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۲، ۱۳۸، ۱۳۳، ۱۳۹، ۸۷، ۸۶/۳

۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۳، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۳، ۱۷۰، ۱۶۸، ۱۶۰

